

مَعَاذِ رَبِّت

ترجمہ
حادی الارواح الی بلاد الافراح
(نظر ثانی شدیہ صحیح ایڈیشن)

تألیف
علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ
(متوفی ۷۲۸ھ)



ترجمہ

مونا محسنہ فاروق حسن زئی

محافلِ حُریت

ترجمہ
حادی الارواح الی بلاد الافراح
(نظریاتی شدیدی صحیح ایدیشن)

تالیف
علامہ ابن القسیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ
نورآباد - فتح گڑھ - سیالکوٹ

مترجم

مولانا محمد فاروق حسن زئی
فاضل جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن

ناشر

اکشاف پبلیکیشنز

دوکان نمبر ۳ - حاجی ادریس مینشن رتن تلاؤ کراتھی
الہاتف : ۷۷۷۳۲۹۳



جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب	محافل جنت
مؤلف	حافظ ابن قیم الجوزیہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
ترجمہ	مولانا محمد فاروق حسن زئی
کمپوزنگ	کمپیو گرافکس
مطبع	
قیمت	

○---ناشر---○

اکشاف پبلیکیشنز

۳-۳ حاجی ادریس مینیشن رتن تلو، کراچی

فونٹ: ۷۷۷۳۲۹۳

دیگر ملنے کے پتے

- اسلامی کتب خانہ بنوری ٹاؤن
- صدیقی ٹرسٹ نزد سبیلہ چوک کراچی
- دارالاشاعت اردو بازار کراچی
- مکتبہ برہان اردو بازار کراچی
- ادارہ القرآن سبیلہ چوک کراچی
- کتب خانہ منظر گلشن اقبال کراچی
- مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور
- مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور
- ادارہ اسلامیات ۱۹۰-انارکلی لاہور
- مکتبہ مکہ کی مسجد علامہ اقبال روڈ لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست ابواب و مضامین مخافل جنت

صفحہ	ابواب و مضامین
۱۶	کلمات تشکر
۱۷	کلمات تبرک ڈاکٹر مفتی نظام الدین شامزئی
۱۵	دیباچہ طبع دوم
۱۶	سوانح ابن القیم <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۲۵	خطبہ کتاب جنت کی تعریف میں اشعار
۳۰	پہلا باب جنت اب موجود ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد فی الحال جنت کی موجودگی پر قرآن و سنت کے دلائل
۵۹	دو سرا باب اس جنت کے متعلق لوگوں کا اختلاف جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم <small>علیہ السلام</small> کو ٹھہرایا تھا آیا وہ جنت خلد تھی یا زمین کے کسی اونچے مقام پر کوئی دوسری جنت تھی
۶۳	تیسرا باب ان لوگوں کے دلائل کا بیان جنہوں نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ

صفحہ	ابواب و مضامین
	حضرت آدم <small>عليه السلام</small> اس جنت الخلد میں تھے جس میں قیامت کے دن مومن داخل ہوں گے۔
۷۲	چوتھا باب ان دلائل کا بیان جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت آدم جنت الخلد نہیں تھی بلکہ وہ زمین کی جنت تھی۔
۸۱	پانچواں باب قالین جنت الخلد کے دلائل کے جوابات کا بیان
۸۶	چھٹا باب قالین جنت الخلد کی طرف سے اپنے مخالفین کے دلائل کے جوابات کا بیان
۹۰	ساتواں باب ان اوگوں کے شبہ کا بیان جن کا کہنا ہے کہ جنت ابھی پیدا نہیں کی گئی۔
۹۳	آٹھواں باب اس جماعت کے دلائل کے جوابات کا بیان جن کا عقیدہ ہے کہ جنت اب تک پیدا نہیں کی گئی۔
۹۷	نواں باب جنت کے دروازوں کی تعداد کا بیان
۱۰۵	دسواں باب جنت کے دروازوں کی کشادگی کا بیان
۱۰۸	گیارہواں باب جنت کے دروازوں کی صفات

صفحہ	ابواب و مضامین
۱۱۱	بار ہواں باب جنت کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک کی درمیانی مسافت
۱۱۲	تیرہواں باب جنت کی جگہ کہاں ہے
۱۱۵	چودھواں باب جنت کی چابی
۱۱۷	پندرہواں باب جنت کی مراد رکھنے ہوئے شاہی فرمان کا بیان جو موت اور جنت میں داخل ہوتے وقت اہل جنت کیلئے لگائی جائے گی۔
۱۲۵	سولہواں باب جنت کا صرف ایک ہی راستہ ہے
۱۳۱	سترہواں باب جنت کے درجات کا بیان
۱۳۹	اٹھارہواں باب جنت کا سب سے اونچا درجہ اور اس کا نام
۱۴۴	انیسواں باب (۱) اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر جنت کا سامان پیش کرنا (۲) اور جس قیمت کا اللہ تعالیٰ نے ان سے مطالبہ کیا (۳) مومنوں اور ان کے رب کے درمیان خرید و فروخت کا معاملہ

صفحہ	ابواب و مضامین
۱۵۳	بیسواں باب اہل جنت کا اللہ عزوجل سے جنت کی طلب اور شفاعت
۱۶۱	اکیسواں باب جنت کے نام اور اس کے معانی اور اشتقاق
۱۷۳	بائیسواں باب جنتوں کی تعداد کا بیان اس کی دو قسمیں ہیں (۱) سونے کی دو جنتیں (۲) چاندی کی دو جنتیں
۱۷۹	تیسواں باب اللہ تعالیٰ نے دو سری جنتوں پر فضیلت ظاہر کرنے کیلئے بعض جنتوں کو خاص اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا اور اس میں درخت لگائے۔
۱۸۴	چوبیسواں باب جنت کے داروغے اور ان کے سردار کا نام
۱۸۶	پچیسواں باب سب سے پہلے جنت کا دروازہ کون کھٹکھٹائے گا؟
۱۸۸	چھبیسواں باب وہ امت جو سب امتوں سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔
۱۹۰	ستائیسواں باب اس امت کے وہ لوگ جو پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی صفات کا بیان

صفحہ	ابواب و مضامین
۱۹۵	اٹھائیسواں باب فقراء کا غنیمت سے جنت میں پہلے جانا
۱۹۸	انہتیسواں باب جنتیوں کی وہ قسم جن کو جنت کی ضمانت دی گئی ہے۔
۲۰۵	تیسواں باب اکثر جنتی محمد ﷺ کے امتی ہوں گے
۲۰۶	اکتیسواں باب جنت اور جہنم میں مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ ہوں گی
۲۰۹	بتریسواں باب اس امت کے ان لوگوں کے اوصاف کا بیان جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔
۲۱۳	تینتیسواں باب اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے مٹھی بھر کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔
۲۱۶	چونتیسواں باب جنت کی مٹی اور گارے کا بیان
۲۲۰	پہنتیسواں باب جنت کے نور اور سفیدی کا بیان
۲۲۲	چھتیسواں باب جنت کے بالا خانوں اور محلات کا بیان

صفحہ	ابواب و مضامین
۲۲۷	سینۃ جیسواں باب جنتی جنت میں داخل ہو کر اپنے اپنے ٹھکانوں کو خود پہچانیں گے اگرچہ انہوں نے ان کو پہلے سے نہیں دیکھا ہو گا۔
۲۳۰	اڑتیسواں باب جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کا منظر اور ان کا استقبال
۲۳۵	انتالیسواں باب جنتیوں کی عمریں اور ان کے قد کی لمبائی چوڑائی اور ذیل ڈول
۲۴۰	چالیسواں باب سب سے اعلیٰ اور ادنیٰ درجے کا جنتی
۲۴۳	اکتالیسواں باب اہل جنت کا تحفہ جس وقت وہ جنت میں داخل ہوں گے
۲۴۷	بیالیسواں باب جنت کی خوشبو کتنی مسافت سے مہکتی ہے۔
۲۵۰	تینتالیسواں باب جنت میں اعلان کرنے والے کا اعلان
۲۵۳	چوالیسواں باب جنت کے درخت، باغات اور سایہ
۲۶۰	پینتالیسواں باب جنت کے پھل اور اس کی انواع کی تعداد اور اسکی صفات اور خوشبو

صفحہ	ابواب و مضامین
۲۶۷	چھالیسواں باب جنت کی کھیتی
۲۷۰	سینتالیسواں باب جنت کی نہریں اور چشمے اور اس کے بہنے کے مقامات
۲۸۱	اڑتالیسواں باب اہل جنت کے کھانے پینے اور قضاء حاجت کا بیان
۲۹۰	انچاسواں باب اہل جنت کے کھانے پینے کے برتن اور اس کی اجناس اور صفات کا بیان
۲۹۵	پچاسواں باب اہل جنت کے لباس اور زیورات و مالوں، بچھونوں، فرشوں، تکیوں غالیچوں اور نہالچوں کا بیان
۳۱۱	اکیاونواں باب اہل جنت کے خیموں، مسریوں اور تختوں کا بیان
۳۱۶	باونواں باب اہل جنت کے خدام اور غلمان
۳۲۰	ترہینواں باب اہل جنت کی بیویوں کی اقسام و اوصاف اور ان کا وہ ظاہری اور باطنی حسن و جمال جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔
۳۳۰	چونواں باب

صفحہ	ابواب و مضامین
	وہ مادہ جس سے حوریں پیدا کی گئیں ہے ان کے اوصاف اور اس دن اپنے شوہروں کو پہچاننا احادیث کی روشنی
۳۲۵	پہچینسواں باب جنتیوں کا نکاح اور صحبت کرنا اور اس کے ذریعہ کامل لذت حاصل کرنا اور اس صحبت کا مذی معنی اور کمزوری لاحق ہونے سے پاک ہونا اور اس صحبت سے ان پر غسل کا واجب نہ ہونا۔
۳۲۹	چھپنسواں باب جنت میں حمل و ولادت کے بارے میں علماء کا اختلاف
۳۵۹	ستاونواں باب اہل جنت کا حوروں کی بہترین اور خوبصورت آوازوں کا سننا اور اس میں خوشی اور لذت
۳۶۶	اٹھاونواں باب اہل جنت کی سواریوں اور گھوڑوں کا بیان
۳۶۸	انسٹھواں باب جنتیوں کا ایک دوسرے سے ملاقات اور ان کا آپس میں دنیاوی احوال کا مذاکرہ
۳۷۳	ساٹھواں باب جنت کے بازار اور وہ انعامات جو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے بندوں کیلئے تیار کئے ہیں۔
۳۷۶	اکسٹھواں باب

صفحہ	ابواب و مضامین
	اہل جنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا بیان
۳۸۰	باسٹھواں باب جنت میں اہل جنت پر بارش برسنے اور بادل کا بیان
۳۸۲	تریسٹھواں باب اہل جنت کی بادشاہت کا بیان
۳۸۶	چونسٹھواں باب جنت میں جنتی کو اس کے خیال اور خواہش سے بڑھ کر ملے گا اور جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے
۳۹۴	پینسٹھواں باب اہل جنت کا اپنی آنکھوں سے کھلم کھلا چودھویں رات کے چاند کی طرح اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا اور اللہ تعالیٰ کا مسکراتے ہوئے ان کے سامنے تجلی فرمانا۔ روایت باری تعالیٰ کے دلائل روایت باری تعالیٰ کے بارے میں صحابہ کرام تابعین اور ائمہ اسلام رضی اللہ عنہم کے اقوال دیدار کے منکر کیلئے وعیدیں
۴۵۱	چھیاسٹھواں باب اللہ تعالیٰ کا اہل جنت سے روبرو ہمکلامی اور سلام کرنے کا بیان
۴۵۳	سڑسٹھواں باب جنت ہمیشہ رہے گی کبھی ختم نہ ہوگی

صفحہ	ابواب و مضامین
۴۹۴	اڑسٹھواں باب سب سے آخری جنتی کے جنت میں داخل ہونے کا بیان
۴۹۸	انہترواں باب یہ ایک جامع باب ہے اور اس میں مختلف فصلیں ہیں جن میں ان باتوں کا بیان ہے جو گذشتہ ابواب میں نہیں ہوئیں۔ فصل (۱) جنتیوں کی زبان فصل (۲) جنت اور دوزخ کا مقابلہ فصل (۳) جنت میں جو جگہ باقی بچے گی تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے نئی مخلوق پیدا فرما دیں گے جبکہ جہنم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ فصل (۴) اہل جنت نہیں سوئیں گے فصل (۵) بندے کا جنت ہی میں نیچے کے درجے سے اوپر درجے کی طرف چڑھنا فصل (۶) مومنوں کی اولاد کو ان کے ساتھ درجے میں ملایا جائے گا اگرچہ انہوں نے ان جیسا عمل نہیں کیا ہوگا فصل (۷) جنت بات کرے گی فصل (۸) جنت کا حسن ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ فصل (۹) جنتی حوریں ان نسبت اپنے شوہروں کے ان کی زیادہ مشتاق ہوں گی۔ فصل (۱۰) جنت اور دوزخ کے درمیان موت کا ذبح ہونا فصل (۱۱) جنت میں ذکر کے علاوہ تمام عبادات ختم فصل (۱۲) اہل جنت دنیا میں ہونے والے واقعات کا آپس میں تذکرہ کریں گے ستر واں باب ان لوگوں کا بیان جو بشارات جنت کے مستحق ہیں۔
۵۱۱	

کلمات تشکر

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد

چونکہ میں پہلے جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کا طالب علم رہا ہوں جس کی برکت سے عربی زبان سے تھوڑی بہت واقفیت ہے۔ علامہ ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”حادی الارواح الی بلاد الافراح“ پڑھنے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ جنت کے موضوع پر اس نوع کی لکھی گئیں کتابیں شائد نہ ہوں۔ اور یہ کہ اس کتاب کا اردو ترجمہ ہو جائے تاکہ عام مسلمان بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس کا تذکرہ میں نے اپنے عزیز بھائی مولانا محمد فاروق صاحب حسن زئی فاضل جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن سے کیا۔ جنہوں نے میری یہ استدعا قبول فرما کر ترجمہ شروع فرمایا اور الحمد للہ یہ مشکل ترین کام عزیزم نے اپنی گونا گوں مصروفیات کے باوجود انجام دیا جس کیلئے میں عزیزم مولانا صاحب کا دل سے شکر گزار ہوں۔

اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اس کتاب سے پوری انسانیت کو نفع عطا فرمادیں اور ہم سب کیلئے اور ہمارے مرحومین کیلئے ذریعہ نجات بنائیں۔ آمین ثم آمین۔

حافظ الحق حسن زئی

فیما بیننا والیکم حبیب اللہ محمد زئی
نور آباد - فتح گڑھ سیالکوٹ

کلمات تبرک

حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی نظام الدین شامزئی صاحب

استاذ حدیث، و رئیس التخصیص، بجامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حادی و مصالحوں۔ اما بعد بندہ نے حضرت مولانا محمد فاروق حسن زئی کی کتاب ”محافل جنت“ متعدد مواقع سے دیکھی یہ کتاب امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”حادی الارواح“ کا ترجمہ ہے حادی الارواح جنت کے اوصاف واقعات اور جنت کے متعلق مختلف مباحث پر سب سے زیادہ محقق اور ضخیم کتاب ہے اور اس موضوع کی احادیث کا احاطہ کرتی ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ کی دو سری کتب کی طرح یہ کتاب بھی نافع اور مفید ہے اس کتاب کو پڑھ کر ان اعمال کی ترغیب ملتی ہے۔ جو انسان کو جنت کا مستحق بنا دیتی ہیں اس بناء پر یہ کتاب عوام و خواص سب کیلئے یکساں مفید ہے۔

کتاب عربی میں تھی مولانا محمد فاروق حسن زئی صاحب نے اس کا بہترین انداز میں ترجمہ کیا ہے اب اس کتاب سے اردو خواں حضرات بھی فائدہ اٹھا سکیں گے یہ خدمت یقیناً ایسی خدمت ہے کہ جو اہل علم کیلئے قابل غبطہ ہے اور مترجم صاحب کیلئے ذخیرہ آخرت ہو گا انشاء اللہ تعالیٰ بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مقبولیت سے نوازے اور اپنے بندوں کیلئے اسے نافع بنا دے اور مترجم کیلئے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین

نظام الدین شامزئی

استاذ حدیث

جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی

۱۴۱۶/۲/۲۹ھ

مقدمہ طبع ثالث

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حامدا و معبدا و مسلما۔ اما بعد: حق تعالیٰ عزوجل کا عظیم فضل و احسان ہے کہ اس کی ابدی نعمت، لازوال راحت اور اس کے مخصوص بندوں کی جائے انعام و اکرام جنت کے موضوع پر علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ”حادی الارواح“ کے ترجمہ ”مخاض جنت“ کا یہ تیسرا ایڈیشن آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ چونکہ طبع اول کے اختتام کے بعد طبع ثانی میں قدرے تاخیر ہوئی تھی جسکی وجہ سے طبع ثانی بہت کم عرصے میں ہاتھوں ہاتھ تقسیم ہوئی اس لئے طبع ثالث کی بہت جلد نوبت آئی۔ والحمد للہ علی ذالک۔

ذیل میں چند امور کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں جو کہ سابقہ ایڈیشنوں میں نہیں کی گئی تھی۔

۱۔ اکثر اردو تراجم میں مد نظر عام اردو خواں مسلمانوں کا استفادہ ہوتا ہے اور انہیں حضرات کے استفادہ کیلئے عربی کتابوں کے ترجمے کئے جاتے ہیں۔ علماء کو تراجم کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لئے ترجمہ کی زبان انتہائی سیدھی سادی اختیار کئی گئی ہے اور حتی الامکان لفاظی سے احتراز کیا گیا ہے۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”دو باتیں مجھے بہت ناپسند ہیں۔ ایک تو تقریر میں لغت بولنا، دوسرے تحریر

میں سکتہ لکھنا۔ تقریر سے مقصود افہام ہوتا ہے اور یہاں ابہام ہو جاتا ہے“

(تحدت العلماء ج ۱ ص ۲۷۳)

البتہ علامہ ابن قیمؒ کی علمی تحقیقات اور فنی اصطلاحات اپنی جگہ ہیں جس کو عوامی معیار پر لانا ممکن ہی نہیں ہے۔

۲۔ کتاب میں بعض ابواب میں کچھ اشعار بغیر ترجمہ بھی آپ دیکھیں گے، ان اشعار کا ترجمہ اس لئے ترک کر دیا گیا کہ وہ جاہلی شعراء کے فحش اشعار ہیں جن میں عورتوں کے اعضاء مستورہ کی تعریفیں ہیں۔ علامہ ابن قیمؒ نے صرف لغوی تائید میں پیش کئے ہیں۔ اس لئے ایک عام کتاب خواں کی ذہنیت لے کر مطالعہ کرنے والے کیلئے ان کا ترجمہ مفید نہیں۔

۳۔ بسا اوقات ایک مضمون کی ایک ہی حدیث اسناد کی مختلف طرق سے مروی ہوتی ہے تو علامہ ابن قیمؒ اس حدیث کو تمام طرق اسناد سے مکرر ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ ان جیسی حدیثوں میں ایک دو مرتبہ ذکر کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے۔ ہاں اگر حدیث کے مضمون یا الفاظ میں جہاں تھوڑا سا بھی فرق تھا تو اسے ترک نہیں کیا گیا۔

آخر میں اہل علم کی خدمت میں درخواست ہے کہ اس بارے میں اپنے مفید مشوروں سے نوازے۔ ”جزاکم اللہ خیرا“

حق تعالیٰ اس سعی حقیر کو شرف قبولیت عطا فرما کر نجات کا ذریعہ بنائے۔

وما تو فیعی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔

کتبہ

محمد فاروق بن ملک داد حسن زکی

۱۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۸ھ

۲۲ ستمبر ۱۹۹۷ء

حافظ ابن قیم الجوزیہ رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ (متوفی ۷۲۸ھ) کے شاگردوں اور مستفیدین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ حافظ ابن قیم امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے اور انہیں سولہ سال امام صاحب کی مصاحبت حاصل رہی۔

نام و نسب و ولادت

نام شمس الدین محمد، ابو عبداللہ کنیت والد کا نام ابو بکر بن ایوب تھا، صرفاً حافظ رحمہ اللہ ۶۹۱ھ کو دمشق میں ”زرع“ نامی بستی میں پیدا ہوئے آپ کے والد ابو بکر بن ایوب مدرسہ جوزیہ کے قیم (نگران ناظم) تھے اس لئے ابن قیم کہلائے۔

ابتدائی تعلیم

حافظ ابن قیم نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی بعد ازاں جملہ علوم اسلامیہ یعنی تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، تاریخ، رجال، ادب، معانی لغت، اور صرف و نحو کی تعلیم ہر صاحب فن استاد سے حاصل کی آپ کے اساتذہ میں شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ متوفی (۷۲۸ھ) کا نام بھی ملتا ہے ان کی شاگردی میں حافظ ابن قیم نے سولہ سال گزارے اور تمام علوم اسلامیہ میں دسترس حاصل کی حافظ ابن کثیر (م ۷۷۴ھ) لکھتے ہیں کہ

”جب حافظ ابن تیمیہ ۷۱۲ھ میں مصر سے واپس آئے تو حافظ ابن قیم نے

ان کی ایسی صحبت اور رفاقت اختیار کی کہ ان کے انتقال تک ساتھ نہ

چھوڑا۔“

علمی مرتبہ

حافظ ابن قیم کا علمی مرتبہ بہت بلند تھا تمام علوم اسلامیہ میں مہارت تامہ حاصل تھی اور تمام علوم اسلامیہ پر ان کی گہری نظر تھی علم تفسیر میں ان کی ژرف نگاہی مسلم تھی۔ حافظ شمس الدین ذہبی (م ۷۴۸ھ) لکھتے ہیں کہ حافظ ابن قیم کو تفسیر و رجال و حدیث کی طرف بڑی توجہ تھی وہ فقہ کے مطالعہ میں بھی مشغول رہتے تھے اور اس کے مسائل کو بڑی شرح و بسط سے لکھتے تھے نحو کی تدریس اور اصول فقہ اور اصول حدیث میں اچھی مہارت تھی حافظ ابن رجب الحنبلی لکھتے ہیں کہ

حافظ ابن قیم کو تمام علوم اسلامیہ میں دخل تھا لیکن تفسیر میں ان کی نظیر نہیں ملتی تھی اصول دین میں بھی وہ درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے حدیث، فقہ حدیث اور دقائق استنباط میں ان کا کوئی ہمسر نہیں تھا علم سلوک اور اہل تصوف کے ارشادات و دقائق پر وسیع نظر تھی میں نے قرآن و سنت کے معانی اور حقائق ایمانی کا ان سے بڑا عالم نہیں پایا وہ معصوم تو نہ تھے لیکن میں نے ان خصوصیات میں ان جیسا آدمی نہیں دیکھا۔

خصائص

حافظ ابن قیم گوناگوں خصائص کے مالک تھے نرم مزاج قوی الخلق اور اپنے استاد ابن تیمیہ سے انہوں نے علم، اخلاص اور ایمان کی دولت حاصل کی تھی۔ لیکن مزاج میں تیزی نہیں تھی حافظ ابن کثیر جو ان کے مخلص دوست اور رفیق درس تھے بیان کرتے ہیں کہ حافظ ابن قیم بڑی خوبیوں کے آدمی تھے محبت سب سے، حسد کسی سے بھی نہیں نہ کبھی کسی کے درپے آزار ہوئے نہ کسی کی عیب چینی کی میں اکثر ان کے ساتھ رہا وہ مجھ سے محبت کا برتاؤ کرتے تھے مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے زمانہ میں کوئی شخص ان سے زیادہ عبادت گزار رہا ہو ان کی نماز بڑی طویل ہوتی تھی، رکوع اور سجدے خاصے لمبے ہوتے تھے بہت سے دوست اور ساتھی اس پر کبھی کبھی ملامت بھی کرتے تھے لیکن انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا اور نہ اس معمول کو

ترک کیا۔ اذتہی کلامہ

حافظ ابن قیم اپنی مذہبی جوش کے باوجود نہایت خلیق اور متواضع تھے ان میں اپنے استاد (شیخ الاسلام ابن تہمیہ) کی سی حدت اور شدت نہیں تھی مخالفین کے ساتھ وہ اچھی طرح پیش آتے تھے اس وصف میں وہ اپنے استاد سے بالکل ممتاز تھے اس لئے مخالفین بھی ان کی قدر و منزلت کرتے تھے۔

زہد و عبادت

حافظ ابن قیم زہد و عبادت میں اپنی مثال آپ تھے دن رات درس و تدریس ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن مجید میں بسر کرتے، تواضع، انکساری، اور حسن خلق میں ممتاز مقام کے حامل تھے حافظ ابن رجب (م ۷۹۵ھ) لکھتے ہیں کہ حافظ ابن قیم کثیر العبادات اور بڑے شب بیدار تھے ان کی نماز بڑی طویل ہوتی تھی وہ ہر وقت ذکر و مشاغل میں لگے رہتے اور ان میں محبت الہی اور انابت کی ایک خاص کیفیت تھی ان کے چہرے پر بارگاہ خداوندی کی طرف فقر و احتیاج اور عجز و انکساری کا نور نظر آتا تھا اس کیفیت میں نے ان کو منفرد پایا۔

ابتلاء و آزمائش

حافظ ابن قیم بھی اپنے استاد شیخ الاسلام حافظ ابن تہمیہ کی طرح ابتلاء و آزمائش اور مجاہدات کی منازل سے گزرے ان کو بہت ایذائیں دی گئیں اونٹ پر سوار کر کے شہر میں تشیر کی گئی درے مارے گئے اور اپنے استاد ابن تہمیہ کے ساتھ جیل بھی گئے۔ آپ کا جرم یہ تھا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لئے شدتِ حال کے قائل نہ تھے حافظ ابن قیم کی رہائی اس وقت عمل میں آئی جب جیل میں شیخ الاسلام ابن تہمیہ کا انتقال ہوا۔ حافظ ابن قیم ایام اسیری میں تلاوت قرآن مجید اور اس کے معانی اور مطالب میں مشغول رہے حافظ ابن رجب لکھتے ہیں۔

”فتح علیہ من ذالک کثیر و حصل لہ جانب عظیم من

الذواق والمواجيد الصحیحة و تسلط بسبب ذالك على
الكلام فى علوم اهل المعارف والدخول فى غوامضهم و
تصانيفهم ممتلئة بذلك

یعنی اس سے ان کو بڑا نفع حاصل ہوا ان کو اذواق اور مواجید صحیحہ کا ایسا
حصہ ملا جس سے اہل معارف کے علوم اور ان کے غوامض و دقائق کا سمجھنا
ان کے لئے آسان ہو گیا ان کی تصنیفات ان مضامین سے لبریز ہیں۔

پروفیسر ابو زہرہ مصری (م. ۱۹۶۰ء) لکھتے ہیں کہ

جب امام ابن تیمیہ کو طلاق اور شدر حال کے مسائل کے بارے میں فتوؤں کی بنا پر
آخری مرتبہ قید کیا گیا تو آپ کے شاگردوں کو بھی نشانہ ستم بنایا گیا۔ آپ کے بعض شاگردوں
کو سزا بھی دی گئی۔ بعض بھاگ نکلے اور بعض کو عرصہ دراز تک قید و بند کی صعوبتوں میں ڈال
دیا گیا۔ حافظ ابن قیم اسی گروہ میں شامل تھے اور آپ کے سوا دوسرے شاگردوں کو رہائی ملی۔
لیکن ابن قیم امام ابن تیمیہ کے انتقال پر رہا ہوئے۔

حافظ ابن قیم امام ابن تیمیہ کے صحیح جانشین

اور ان کے علوم کے مرتب و حامل اور ناشر تھے

حافظ ابن قیم شیخ الاسلام کے ارشد تلامذہ میں سے تھے۔ ۱۶ سال آپ نے استاد کی
مصاحبت میں گزارے، جیل میں بھی ان کے ساتھی رہے اس لئے آپ صحیح طور پر علوم ابن
تیمیہ کے حامل مرتب اور ناشر تھے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ

ابن قیم نے امام ابن تیمیہ سے علم حاصل کیا۔ رات دن طلب علم کی دھن تھی لہذا
متعدد علوم و فنون میں یگانہ روزگار بن گئے۔

پروفیسر ابو زہرہ مصری لکھتے ہیں کہ

ابن قیم صحیح معنوں میں علوم ابن تیمیہ کے حامل تھے۔ آپ نے استاد کے علوم کو
بڑھانے پھیلانے اور اس کی توسیع و اشاعت میں غیر معمولی حصہ لیا۔ اسی کی طرف انہوں نے

دعوت دی اسی کا دفاع کیا اور اسی کی تائید کے لئے تحقیق و تنقیح کی پوری کوشش کی۔ جس چیز کی نشر و اشاعت پر انہوں نے زیادہ توجہ دی وہ فقہ ابن تیمیہ تھی۔ مسئلہ طلاق پر انہوں نے ابن تیمیہ کے افکار و آراء کی خوب پشت پناہی کی۔ ابن قیم ہر لحاظ سے ابن تیمیہ کے وفادار جانشین تھے۔ آپ نے اپنے استاد کے طرز نگارش کو اپنایا اور آپ نے اپنے استاد کے فتاویٰ اور اصول کی پوری حمایت کی۔

حافظ ابن قیم کا مسلک

حافظ ابن قیم تقلید شخصی کے خلاف تھے مسلک میں آپ کا میلان اپنے شیخ (امام ابن تیمیہ) کی طرح امام احمد بن حنبل کی طرف تھا اصول اور عقائد میں ضرور حنبلی مذہب تھے۔ لیکن فروع میں آزاد تھے۔

علامہ عبدالحی بن العماد (م ۱۰۸۹ھ) نے آپ کو مجتہد المطلق لکھا ہے اجتہاد کی تمام شرائط آپ میں پوری تھیں اس لئے آپ کو کسی امام کی تقلید کی ضرورت نہ تھی لیکن بایں ہمہ آپ نے تمام عمر کسی مسئلہ میں بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے اختلاف نہیں کیا بلکہ تائید و حمایت میں اپنی عمر بسر کر دی۔
پروفیسر محمد ابو زہرہ مصری لکھتے ہیں

”فانه كان القائم على تركه شيخه من بعده من حيث التحرير و
المجادلة والمناظرة و قد تلقى علم ابن تیمیہ و اتبعه و نشره
و دعا اليه و جادلہ عنه و حاسی علیہ و قد كان اخص نشره ما
دعا اليه الى نفسه فقد ناصر آرائه في الطلاق و حرر عبارات في
فتاويه و جمع كثير من اصوله“

حافظ ابن قیم اپنے استاد کی وفات کے بعد تحریر 'مجادلہ' اور مناظرہ کے اعتبار سے اپنے شیخ کے علمی ترکہ کے وارث تھے آپ نے ابن تیمیہ کے جملہ علوم کی تحصیل و تکمیل اور نشر و اشاعت کی آپ نے ابن تیمیہ کے اقوال کی

تائید و حمایت کی اور لوگوں کو ان میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی طلاق کے مسئلہ میں انہوں نے ابن تیمیہ کے عقیدہ کی تصدیق کی اور فتاویٰ ابن تیمیہ کی حمایت میں عبارات تحریر کیں۔ بعینہ آپ نے اصول ابن تیمیہ کی تدوین کی۔

تدریس و تصنیف

حافظ ابن قیم کافی عرصہ تک مدرسہ جوزیہ میں درس کا فریضہ سرانجام دیتے رہے اور اس کے ساتھ مدرسہ جوزیہ کی امامت بھی ان کے سپرد تھی جو وقت بچتا وہ تصنیف و تالیف میں بسر ہوتا۔ حافظ ابن قیم کو کتابوں کی خریداری کا بڑا شغف تھا اور اس شوق کا نتیجہ تھا کہ آپ نے ایک بڑا کتب خانہ بنا لیا تھا جس میں بہت سی کتابیں ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی (م ۸۵۲) لکھتے ہیں۔

”وکان یجمع الکتب فحصل منها مالاً یحصی حتی کان اولادہ یبیعون منها بعد موتہ دھراً طویلاً“

(کتب اندوزی کا بے پناہ شوق تھا۔ چنانچہ لاتعداد کتابیں جمع کیں اور آپ کی اولاد آپ کی وفات کے بعد مدتوں انہیں فروخت کرتی رہی)

وفات

۲۳ رجب ۷۵۱ھ چہار شنبہ کے دن انتقال کیا۔ اور باب الصغیر کے قبرستان میں دفن ہوئے۔

حافظ ابن قیم کی علمی خدمات

حافظ ابن قیم کی تصنیفات کا تذکرہ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ان کی امتیازی خصوصیات کا ذکر کیا جائے۔ عام طور پر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ جس مصنف کی تصانیف کی تعداد

زیادہ ہو اس میں تحقیق و تدقیق کا پہلو نہیں ہوتا مگر حافظ ابن قیم کی تصانیف میں یہ چیز نہیں ہے۔ ان میں کیت کے ساتھ کیفیت کی بھی کمی نہیں مشہور علوم متداولہ پر آپ کی کئی کتابیں ہیں اور ایک ایک کتاب کئی جلدوں میں ہے آپ نے ہر کتاب کو پورے دلائل کے ساتھ لکھا ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں تدبر، احادیث اور روایات پر کامل غور، دلائل کی ترتیب زور بیان اور زبان میں ادب کی چاشنی ان کی تصانیف میں موجود ہے۔ علم حدیث اور لغت کے متعلق ایسے دقائق بیان کئے ہیں جو مطولات میں نہیں ملتے۔ مختصر عبارت میں طویل مطالب اور اس کے ضمن میں دیگر فوائد جو ایک صاحب ذوق کو فریفتہ کر دیں آپ کی خاص خوبی یہ ہے کہ آپ کے نظریات و تصورات براہ راست کتاب و سنت سے کشیدہ ہوئے اور ان میں عربیت کا صحیح ذوق رچا ہوا ہے۔ آپ کی جملہ تصانیف فی الحقیقت تفقہ فی الدین کا خزانہ ہیں جن کو اس خزانہ کی چابی ہاتھ آگئی وہ دولت علم سے مالا مال ہو گئے۔ حافظ صاحب نے اپنی تصانیف میں اطلاقات کتاب و سنت، انوار مشکوٰۃ نبوت، افکار و تصورات صحابہ کرام، اورائمہ تابعین کا جہاں کہیں علوم موضوعہ اور فنون مخترمہ سے تصادم ہوا وہاں ہر جگہ کتاب و سنت کی حمایت میں ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کتاب و سنت کے پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا ہی ذوق، دینی بصیرت اور دین اسلام میں ڈوبا ہوا اور سمویا ہوا ذہن عطا فرمایا تھا کہ آپ پر فلسفہ یونان اور عقل و رائے کے نئے انداز و اسلوب جدید معانی و معارف اور ادبی و فنی قواعد کتاب و سنت کے مقابلہ میں قطعاً اثر انداز نہ ہو سکے۔ بلکہ آپ نے تمام علوم و فنون کو کتاب و سنت کی تصریحات سے ہم آہنگ کیا۔

حافظ ابن قیم کی تصانیف کے

بارے میں علمائے کرام کے تاثرات

حافظ ابن قیم کی تصانیف گونا گوں خصائص کی حامل تھیں اس لئے علماء کرام نے ان کے بارے میں عمدہ تاثرات کا اظہار کیا ہے۔
مولانا سید ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں۔

”حافظ ابن قیم کی تصانیف حسن ترتیب اور تالیفی سلیقہ میں اپنے شیخ حافظ ابن تیمیہ کی تصانیف سے بھی ممتاز ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی کتابوں میں تصوف کی حلاوت عبارت کی سلاست اور دل آویزی زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ غالباً ان کے مزاج کا نتیجہ ہے جس میں جلال سے زیادہ جمال ہے۔“ (تاریخ

دعوت و عزیمت ج ۲ ص ۳۸)

مولانا محمد یوسف کو کن عمری لکھتے ہیں۔

”حافظ ابن قیم کی تقریر اور تحریر دونوں مرتب، مربوط اور حشو زوائد سے پاک ہوتی تھی اور ان کی اور امام ابن تیمیہ کی تصانیف میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ حافظ ابن قیم کی تصانیف میں تکرار نہیں امام ابن تیمیہ کی تصانیف کا یہ حال نہیں ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ کو حافظ ابن قیم کی طرح سکون اور اطمینان سے لکھنا نصیب نہ ہوا۔ وہ جو کچھ لکھتے تھے قلم برداشتہ لکھتے تھے۔ وہ تھوڑے سے وقت میں مضامین اور خیالات کا ایک دریا بہا دیتے تھے اور اس میں اکثر ضمنی باتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیتے تھے۔ ان دونوں کی تصانیف پڑھنے سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا علم بہت وسیع اور گہرا تھا اور ان کی تحقیق و تدقیق بہت زبردست تھی۔“

اہم تصانیف

حافظ ابن قیم جملہ علوم اسلامیہ میں کامل دستگاہ رکھتے تھے اس لئے آپ نے تمام علوم اسلامیہ یعنی تفسیر، حدیث، فقہ الحدیث، فقہ، اصول فقہ، تاریخ، ادب، شعر، انساب اور علم الکلام وغیرہ موضوعات پر ستر سے زیادہ بہترین اور عمدہ تحقیقی و علمی کتابیں تصنیف کیں۔ ذیل میں بعض کتابوں کی فہرست نقل کی جاتی ہے۔

- (۱) اعلام الموقعین عن رب العالمین
 (۲) الطرق الحکمیہ فی السیاسیہ الشرعیہ
 (۳) اغاۃ اللہفان فی مکائد الشیطان
 (۴) تحفہ المودور فی احکام المولود
 (۵) احکام اهل الذمہ
 (۶) الفروسیہ
 (۷) تہذیب سنن ابی داؤد وایضاح عللہ ومشکلاتہ (۲۰) ہدایۃ القوائد
 (۸) زاد المعاد فی ہدی خیر العباد
 (۹) اجتماع الجیوش الاسلامیہ علی عزو المعطلہ والجمعیہ (۲۲) جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الالنام
 (۱۰) الصواعق المرسلہ علی الجمعیہ والمعطلہ (۲۳) روضہ المعجبین
 (۱۱) شفاء العلیل فی مسائل القدر والقضاء والحکمہ والاحتیاطی طریق السہجرتین وباب السعادتین
 (۱۲) ہدایۃ العباد من الیسود والنہاری
 (۱۳) حادی الارواح الی بلاد الافراح
 (۱۴) کتاب الروح
 (۱۵) مدارج السالکین فی شرح منازل السائرین
 (۱۶) عذۃ الصابریں وذخیرہ الشاکرین
 (۱۷) لداء والدواء
 (۱۸) لوابل الصیب من الکلام الطہب
 (۱۹) مستبہان فی اقسام القرآن
 (۲۰) ہدایۃ القوائد
 (۲۱) القوائد
 (۲۲) جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الالنام
 (۲۳) روضہ المعجبین
 (۲۴) جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الالنام
 (۲۵) مفتاح دار السعاده

اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نافع کتب تصنیف کیں
 (از: تاریخ دعوت و عزیمت ص ۳۴۴)
 تالیف: مولانا ابوالحسن علی ندوی مدظلہ العالی (مترجم)



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”خطبہ کتاب“

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے جنت فردوس کو اپنے مومن بندوں کی مہمانی کے لئے بنایا اور اس تک پہنچانے والے (نیک) اعمال کو آسان بنایا، مومن بندوں نے نیک اعمال کو ہی مشغلہ بنایا اور اللہ نے اس کے (جنت کے) راستے ان کے لئے آسان کر دیئے اور وہ جنت کے مسخر کئے ہوئے راستے پر چلنے لگے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ان کے پیدا کرنے سے پہلے ان کے لئے بنایا اور ان کو وہاں ٹھرایا (یعنی حضرت آدم کو) اور پھر جنت کو مشکلات سے ڈھانپ دیا اور مومنین کو آزمائش کے واسطے دارالامتحان کی طرف بھیجا کہ ان میں سے کونسا بہتر عمل کرنے والا ہے اور روز قیامت کو جنت میں داخلے کا دن مقرر کیا اب اس کے آگے صرف اس فانی دنیا کی زندگی حائل ہے اور اللہ رب العزت نے جنت میں ایسی نعمتیں ودیعت فرمائی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے اور جنت کی نعمتوں کو ان کے سامنے ایسے واضح کیا کہ انہوں نے بصیرت کی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا جو ظاہری آنکھوں سے زیادہ موثر ہیں اور اللہ نے خوشخبری دی مومنوں کو جنت کی ان نعمتوں کے بارے میں جو اس نے ان کے لئے تیار کر رکھی ہیں! اپنے رسول کی زبان سے اس جنت کی جو انسانوں کی بہتری ہے بہترین انسان کی زبان سے خوشخبری دی اور اللہ نے اس خوشخبری کو ان کے لئے یہ بتا کر مکمل کر دیا کہ وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وہاں سے کہیں اور جانا نہ چاہیں گے۔

اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے اور جس نے

فرشتوں کو پیغام رساں بنایا اور پیغمبروں کو خوشخبری دینے اور ڈرانے کے لئے بھیجا تاکہ ان پیغمبروں کے بعد اللہ کے سامنے لوگوں کی کوئی حجت باقی نہ رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا اور نہ ان کو بیکار چھوڑا اور نہ ان کو ڈھیل دے کر غافل بنایا بلکہ ان کو ایک بہت بڑے کام کے لئے پیدا فرمایا ہے اور ان کو بہت بڑے معاملے کے لئے تیار کیا ہے اور انہی کے لئے دونوں جہانوں کو آباد کیا۔ جنت کی یہ نعمتیں اس شخص کے حصے میں آئیں گی جس نے داعی (رسول اللہ ﷺ) کی دعوت قبول کی اور جس نے اپنے رب کریم کے سوا کسی اور کو بطور متبادل کے نہ چاہا۔ اور جنم اس شخص کے لئے ہے جس نے نہ داعی کی دعوت قبول کی اور نہ اس پر کوئی توجہ دی اور نہ اس سے کوئی امید وابستہ کی اور حمد و ثناء کا مستحق اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں سے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتا ہے اور ان کی بہت ساری لغزشوں سے درگزر فرماتا ہے اور ان پر نعمتوں کا دریا بہا دیتا ہے اور اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اور اپنی کتاب میں اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب رہے گی اور اس نے دارالسلام (جنت) کی طرف اپنے بندوں کو دعوت دی پھر ان پر حجت قائم کرنے کے لئے اور عدل و انصاف کرتے ہوئے سب کو عام دعوت دی اور جس کو چاہا اپنے انعام و احسان اور فضل سے ہدایت اور توفیق سے مالا مال کیا بس یہی اس کا عدل ہے اور اس کی حکمت ہے اور وہی غالب ہے حکمت والا ہے اور یہ اس کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطاء فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ گواہی اس کے بندے اس کے بندے کے بیٹے اور اس کی بندی کے بیٹے کی گواہی ہے جو ہر وقت اس کے فضل و رحمت کا محتاج ہے اور جسے اس کی درگزر اور بخشش کے بغیر نہ جنت پا کر کامیابی کی کوئی امید ہے اور نہ جنم سے خلاصی کی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اس کی وحی کے امین اور اس کی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) عالمین کے لئے مقتدا ہیں سالکین کے لئے محبت اور تمام بندوں پر اتمام حجت ہیں اللہ

تعالیٰ نے آپ کو ایمان کا مناوی و السلام کا داعی اور مخلوق کا ہادی بنا کر بھیجا اپنی کتاب کی تلاوت کرنے والا اپنی (اللہ کی) خوشنودی کے لئے دوڑ دھوپ کرنے والا نیکی کا حکم کرنے والا برائی سے منع کرنے والا بنا کر اس وقت بھیجا جب کہ بعثت رسل کا سلسلہ ختم گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے واضح اور مضبوط راستے کی طرف رہنمائی فرمائی اور بندوں پر آپ کی اطاعت و محبت اور عزت و توقیر اور آپ کے حقوق کا ادا کرنا فرض کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ جنت کی طرف کے تمام راستے بند کر دیئے کسی شخص کے لئے آپ ہی کے راستے سے دروازہ کھل سکتا ہے اس کے علاوہ لوگ جس راستے سے آکر دروازہ کھلوانا چاہیں گے کبھی بھی ان کے لئے نہیں کھولا جائے گا جب تک وہ آپ کی اتباع میں داخل ہونے والے نہ بنیں اور آپ کے طریقوں پر نہ چلیں پس پاک ہے وہ ذات جس نے آپ کا سینہ کھولا اور آپ کا بوجھ ہلکا کیا اور آپ کے ذکر کو بلند کیا اور آپ کے حکم کی مخالفت کرنے والوں پر ذلت اور خواری مسلط کر دی، آپ نے اللہ اور اس کی جنت کی طرف خفیہ اور علانیہ دعوت دی اور رات دن امت میں اس کا اعلان کیا یہاں تک کہ اسلام کی صبح طلوع ہوئی اور ایمان کا سورج روشن ہوا رخصت کا بول بالا ہوا، شیطان کی دعوت باطل اور آپ کی رسالت کے نور سے زمین کے ظلمت کدے روشن ہوئے اور متفرق دل آپس میں جڑ گئے، زمانے کا حلیہ بدل گیا اندھیرا روشنی میں تبدیل ہوا اور ہر متذبذب شخص کو ہدایت ملی پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ اپنے دین کو مکمل فرمایا اور اپنی نعمت پوری کی اور اپنی مخلوق پر رحمت پھیلانی اور اپنے رب کے پیغامات آپ نے پہنچا دیئے اور اس کے بندوں کو نصیحت کی تو آپ کو دنیا میں رہنے اور اپنے ساتھ ملنے کے درمیان اختیار دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق و محبت میں اپنے رب کی ملاقات کو پسند کیا اور رفیق اعلیٰ اور مقام ارفع کی طرف منتقل ہونے کو ترجیح دی اور اپنی امت کو واضح روشن شریعت اور صاف راستے پر چھوڑا پھر آپ کے نقش قدم پر آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نعمتوں والی جنتوں کی طرف چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اعراض کرنے والے واصل جہنم ہوئے۔

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيْنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ
حَى عَن بَيْنَةٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ
عَلِيمٌ. (سورۃ انفال ۴۲)

تاکہ مرے جس کو مرنا ہے قیام حجت کے بعد
اور جوے جس کو جینا ہے قیام حجت کے بعد
اور بیشک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرے اس کے فرشتے اور پیغمبر اور نیک بندے آپ پر درود و
سلام بھیجیں جس طرح آپ نے اللہ کی توحید بیان کی اور اس کی بندگی کی ہم نے آپ کے ذریعے
اللہ کو پہچانا اور آپ نے اس کی طرف دعوت دی۔

اما بعد

بیشک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ ان کو یوں ہی چھوڑا
بلکہ ان کو ایک عظیم کام اور ایک بہت بڑے مقصد کے لئے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات
کے بوجھ کو آسمانوں زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو کسی نے اس کے اٹھانے کو قبول نہیں کیا۔ اور
اس سے ڈر گئے اور کہا کہ اے ہمارے رب اگر یہ آپ کا حکم ہے تو بسر و چشم قبول ہے اور اگر یہ
آپ کی طرف سے اختیار ہے تو ہم اس سے آپ کی عافیت ہی چاہتے ہیں اور اس کے بدلے میں
اور کچھ نہیں چاہتے لیکن انسان نے اپنے مجز و کمزوری جہل اور ظلم کے باوجود اس کے اس
بارگراں کو اٹھالیا پھر اکثر لوگوں نے سخت مشقت کی وجہ سے اس امانت کو اپنے پشتوں سے پھینک
دیا اور چوپاؤں کے طرح دنیا پر ٹوٹ پڑے۔ یہ لوگ اپنے پیدا کرنے والے کی معرفت اور اس
کے حق کے بارے میں نہیں سوچتے اور نہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پیدا کرنے سے کیا مقصد ہے
اور اس دنیا میں ان کو کیوں بھیجا گیا جو کہ آخرت کا راستہ اور جائے عبرت ہے اور اس فانی دنیا
میں تھوڑی سی گزر بسر اور باقی رہنے والی آخرت کی طرف جلدی کوچ کرنے کو نہیں سوچتے
حس ان پر بادشاہی کرتا ہے اور عقل کا داعی ان سے غائب ہو چکا ہے دھوکوں بے بنیاد امیدوں
اور غفلت نے ان کو گھیر لیا ہے لمبی لمبی امیدوں نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور ان کے
دلوں پر برے عمل کا زنگ چڑھ گیا ہے اور اس میں لگے ہوئے ہیں کہ دنیا کی لذت اور
خواہشات نفس کو کیسے حاصل کریں اور جب آخرت کے مقابلے میں ان کو دنیا کا نفع نظر آتا ہے
تو اس کی طرف کود پڑتے ہیں اور جب ان کو دنیا ملے تو اللہ کی رضامندی اور ثواب پر اس کو

ترجیح دیتے ہیں۔

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ
عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ - (سورة الروم ۷)

جانتے ہیں اوپر اوپر سے دنیا کے جینے کو اور وہ
لوگ آخرت کی خبر نہیں رکھتے۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ
أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ -
(سورة الحشر)

اور مت ہو ان جیسے جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو
پھر اللہ نے بھلا دیئے ان کو ان کے جی وہ
لوگ وہی نافرمان ہیں۔

ان چند گنی جنی گھڑیوں میں غفلت برتنے پر صد افسوس ہے کیونکہ اس کا ہر سانس بہت
قیمتی ہے کہ ایک مرتبہ نکل جائے تو پھر اس کی طرف ہرگز نہیں لوٹے گا رات دن کی گردش نے
ان کو جلد رواں دواں کر لیا ہے اور یہ جانتے نہیں کہ یہ کس طرف اٹھایا جائے گا اور اس کو
ڈاک سے بھی تیز چلایا جاتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ یہ کس طرف منتقل کیا جا رہا ہے پھر جب اس پر
موت آتی ہے تو اپنی ذات کی بربادی اور لذتوں کے ختم ہونے پر اس کی پریشانی بڑھ جاتی ہے
اور یہ پریشانی اس وجہ سے نہیں بڑھتی کہ انہوں نے گناہ کئے کو تاہیاں کیں اور آگے زندگی کے
لئے کچھ نہیں بھیجا اور جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے عفو اور درگزر کرنے پر اعتماد کر
کے ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ غفور رحیم ہیں گویا کہ ان کو یہ بتایا ہی
نہیں گیا ہے کہ اللہ کا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔

فصل

اور جن لوگوں کو توفیق ملی ہے جب ان کو اپنے مقصد تخلیق اور مقصد ایجاد کا پتہ چلا تو
وہ اس طرف متوجہ ہوئے اور جب جنت کو پہچان لیا تو اس کی طرف تیزی سے دوڑے اور
جب صراط المستقیم ان کے سامنے واضح ہوئی تو اس پر استقامت اختیار کی اور ان نعمتوں کے
فروخت کو عظیم نقصان سمجھے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ کسی
انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہیں کبھی ختم نہیں ہوں گی اور یہ دنیا تو
پریشان کن خواب کی طرح ہے یا خواب میں آنے والا خیال ہے بد مزگی سے مکر رہے تنگی سے

بھری ہوئی ہے اگر آج تھوڑا ہنسائے گی تو کل زیادہ رلائے گی اور اگر ایک دن خوش کرے گی تو کئی مہینے غمگین کرے گی خبردار اس کی لذتوں سے رک جاؤ اس دنیا کے غم خوشیوں کے دو گناہ کرنے کا باعث ہے خواہشات کے چھوڑنے کی ابتداء ڈراؤنی ہے اور انجام دلچسپ ہے ہائے تعجب ہے عقلمند کی صورت میں بے وقوف اور عقلمند کے چمڑے میں پاگل شخص پر جو فانی اور گھٹیا دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح دیتا ہے ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے کو مصیبتوں سے بھری ہوئی تنگ جیل خانے کے مقابلے میں فروخت کرتا ہے اور عمدہ مکانات ہمیشہ رہنے والے باغات کو جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں ایسے تنگ اصطبلوں کے مقابلے میں فروخت کرتا ہے جس کے لئے تباہی اور خرابی ہے اور اسی طرح یا قوت اور مرجان کے مانند کنواری پیار کرنے والیاں ہم عمر عورتوں کو ایسی عورتوں کے مقابلے میں فروخت کرتا ہے جو میلی کپیلی بد اخلاق مستی نکالنے والیاں چھپی یاری کرنے والیاں ہیں اور اسی طرح خیموں کے اندر بند حوروں کو بد کار اور رسوائے زمانہ عورتوں کے عوض میں اور لذیذ شراب کی نہروں کو دین و دنیا اور عقل بگاڑنے والی شراب کے عوض میں اور اسی طرح عزت والی رحیم ذات کے دیدار کی لذت کو بد صورت مذموم چہرے کے دیدار پر قربان کرتا ہے۔ گانے اور فواحش کے سننے کو کلامِ رحمن کے سننے پر اور سرکش شیاطین کی مجلسوں میں بیٹھنے کو قیامت کے دن زبرد یا قوت اور مرجان کے منبروں کے بیٹھنے پر ترجیح دیتا ہے حالانکہ ایک پکارنے والا لے لے کہ پکارے گا کہ اے جنتیو! نعمتیں تمہارے لئے ہیں مایوس نہ ہونا تم زندہ رہو گے کبھی مرو گے نہیں ہمیشہ رہو گے کبھی نہیں نکالے جاؤ گے اور نوجوان رہو گے تمہارے اوپر کبھی بوڑھا پانا نہیں آئے گا۔ شاعر کہتا ہے

وقف الهویٰ بی حیث انت فلیس لی متأخر عنه ولا متقدم
اجد الملامۃ فی ہواک لذیذۃ حباً لذكرک فلیمنی اللوم

تیری محبت مجھے وہاں رکوا لیتی ہے جہاں آپ ہوتے ہیں، میرے لئے نہ اس سے آگے جانے کی گنجائش ہوتی ہے اور نہ پیچھے، تیری یاد کی محبت کی وجہ سے میرے عشق کی ملامت میں لذت محسوس کرتا ہوں۔ پس ملامت کرنے والے مجھے ملامت کرتے پھریں۔

اور اس معاملے کا نقصان اور خسارہ قیامت کے دن ظاہر ہو گا اور اس کے فروخت کرنے والے کی بیوقوفی حسرت اور ندامت کے دن واضح ہوگی جس دن پر ہیز گاروں کو رخصت کے پاس مسمان بنا کر اکھٹا کیا جائے گا اور مجرم دوزخ کی طرف پیا سے ہٹائے جائیں گے اور ایک پکارنے والا مخلوق کے روبرو پکارے گا۔ کیا یہ اس شخص کا مقام ہے جو مخلوق میں معزز تھا، پھر جب اس کو یہ معلوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے کیسی اکرام کی چیزیں تیار کی تھیں اور کس طرح فضل اور احسان ذخیرہ کیا تھا اور اس کے لئے کیسے آنکھوں کے ٹھنڈک کے وہ اسباب چھپا کر رکھے تھے جس پر کسی کی نگاہ نہیں پڑی اور نہ اس کے بارے میں کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی بشر کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے تو اس وقت یہ جان لے گا کہ اس نے کیا ہی قیمتی سرمایہ ضائع کیا اور یہ کہ اب اس کی زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے اور اب یہ گری پڑی چیز کی طرح شمار ہونے لگا ہے اور یہ جان لے گا کہ جنتی لوگ تو بڑی بادشاہت کے مالک بن گئے جس پر نہ آفات آسکتی ہیں اور نہ اس پر زوال آئے گا اور برتر ذات کے پڑوس میں ہمیشہ رہنے والے اور نعمتوں کی کامیابی سے مالا مال ہوئے اور جنت کے باغیچوں میں بوس و کنار کرتے ہیں اور اپنی مسریوں پر عرش کے نیچے بیٹھتے ہیں اور ان بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہیں جن کا ستر ریشم کا ہے اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور میوؤں کے مختلف قسموں سے مزے لے رہے ہیں اور لئے پھرتے ہیں ان کے پاس لڑکے سدا آبخورے اور کوزے اور پیالہ نٹھری شراب کا جس میں نہ سرد کھے اور نہ بکواس کرنے لگے اور میوہ جو نسا پسند کر لیں اور گوشت اڑتے جانوروں کا جس قسم کو جی چاہے اور عورتیں گوری بڑی آنکھوں والیاں جیسے موتی کے دانے اپنے غلاف کے اندر یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو کرتے تھے ”لا یہ“ اور لئے پھریں گے ان کے پاس رکابیاں سونے کی اور آبخورے اور وہاں ہے جو دل چاہے اور جس سے آنکھیں آرام پائیں (اور ان سے یہ کہا جائے گا) تم ان میں ہمیشہ رہو گے خدا کی قسم اس پر مندے ہوئے بازار میں آواز لگائی جائے گی۔ نہ جنت کی طرف پلٹے اور نہ اس کا سودا کیا مگر بندوں میں سے بہت کم تعجب ہے جنت کے طالب پر کہ کیسے سو گیا اور اس کو پیغام نکاح دینے والے نے مہر کی سخاوت کیسے نہیں کی؟ اور اس کی خبروں کو سننے کے بعد اس کو دنیا کی زندگی کیسی

زندگی کیسی اچھی لگی؟ اور ان کنواری لڑکیوں کو گلے لگائے بغیر اس کے شوق رکھنے والوں کو کیسے قرار آگیا؟ اور اس کے بغیر شوق رکھنے والوں کی آنکھیں کیسی ٹھنڈی ہو گئیں اور یقین رکھنے والوں کے دلوں کو کیسے صبر آگیا؟ اور بہت سے جاننے والوں کے دل اس سے کس طرح پھر گئے اور اعراض کرنے والوں کے دلوں نے اس کے بدلے میں کس چیز کو ترجیح دی۔

جنت کی تعریف میں اشعار

وما ذاك إلا غيرة أن ينالها
سوی کفتها والرب بالخاق اعلم
وہ (جنت) ایک غیرت ہے جس کو اس کا مستحق ہی حاصل کر سکتا ہے۔ اور رب اپنی مخلوق سے بخوبی واقف ہیں (کہ کون جنت کا مستحق ہے)

وإن حجبت عنا بكل كربة
وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلم
اگرچہ وہ ہم سے ایسی مشکلات اور ایسی چیزوں سے ڈھانپ لی گئی ہے جو دلوں کو ایذا اور تکلیف دیتی ہیں۔

فلا ما في حشرها من مبرة
وأصناف لذات بها يتنعم
اللہ ہی کے لئے ہے کہ اس میں کیا ہی مسرتیں اور لذتوں کی قسمیں ہیں جس سے لطف اٹھایا جاتا ہے۔

وإن ورد العيش بين خياصها
وروضاتها والثغر في الروض يسيم
اللہ ہی کے لئے ہے کہ اس کے خیموں اور باغوں کے درمیان کیسی خوشگوار زندگی ہوگی اور دانت (یعنی حوریں) جو باغ میں مسکرائے

وإن واديا الذي هو موعده المز
يد لوفد الحب لو كنت منهم
اللہ ہی کے لئے ہے کہ اس کی وہ وادی جو محبوب وفد کے لئے اس کے دیدار کی جگہ مقرر ہے، کاش کہ آپ بھی (ان دیدار کرنے والوں) میں سے ہوتے

بذيالك الوادي بهيم صباة
عب يرى أن الصباة مغنم

اس وادی میں محب عشق کی وجہ سے سرگردان ہوگا جو عشق کو غنیمت سمجھتا ہے۔

وَلِلَّهِ أَفْرَاحُ الْعَبِيدِ عِنْدَمَا يُخَاطَبُهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيُسَلِّمُ
اللہ ہی کے لئے ہے اس وقت معبین کی خوشیوں کا کیا عالم ہو گا جب اللہ تعالیٰ اوپر سے ان سے
مخاطب ہوں گے اور سلام کریں گے۔

وَلِلَّهِ أَبْصَارُ تَرَى اللَّهُ جَهْرَةً فَلَا الضَّمِيمُ يَنْشَاهَا وَلَا هِيَ تَسْمَعُ
اللہ ہی کے لئے ہے کہ آنکھیں کھلے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گی، نہ ذلت ان پر چھائے گی اور
نہ وہ اکتائیں گی۔

فِي أَنْظُرَةٍ أَمَدَتْ إِلَى الْوَجْهِ نَضْرَةً أَمِنْ بَعْدَهَا يَسْلُو الْعَبَّ الْمُتَيْمِ
پس وہ کیسا دیدار ہو گا جو چہرے کو تروتازگی بخشنے گا آیا اس سے دور رہ کر محب مشتاق کو تسلی مل
سکتی ہے

وَلِلَّهِ كَمٌّ مِنْ خَيْرَةٍ إِنْ تَبَسَّمتْ أَضَاءَ لَهَا نُورٌ مِنَ الْفَجْرِ الْعَظِيمِ
اللہ ہی کے لئے ہے کہ وہاں کتنی ہی خوبصورت حوریں ہیں اگر وہ نہیں تو اس سے ایسا نور چمکے
گا جس کی روشنی چاند اور سورج سے بڑھ کر ہوگی۔

فِي الْإِنْفِ الْإِبْصَارِ إِنْ هِيَ أَقْبَلَتْ وَيَالِدَةَ الْإِسْمَاعِ حِينَ تَكَلِّمُ
ان آنکھوں کو کیسی لذت محسوس ہوگی جس کے سامنے وہ آئیں گی اور کانوں کی لذت کا کیا کہنا
جس وقت وہ (حور) بات کریں گی

وَيَاخُجَلَةُ الْفِصْنِ الرَّطِيبِ إِذَا اثْنَتْ وَيَاخُجَلَةَ الْفَجْرِينَ حِينَ تَبْسِمُ
کیا ہی اچھا منظر ہو گا کہ جب وہ (حور) جھکے تو ہنسنی اس سے شرمائے اور جب وہ مسکرائے تو
چاند و سورج اس سے شرمائیں۔

فَإِنْ كُنْتَ ذَا قَلْبٍ عَلِيلٍ بِحَبِيبَا فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا وَصَلَاهَا لَكَ مَرْمَمٌ

اگر آپ اس کی محبت میں بیمار دل رکھتے ہیں تو اس کا وصال ہی تیرے لئے مرہم ہے
وَلَا سِبَا فِي لَيْمَاهَا عِنْدَ ضَمْعِهَا وَقَدْ صَارَ مِنْهَا تَحْتِ جِيدِكَ مَعْصَمٌ
اور خاص طور پر اس کے منہ میں (تیرا علاج ہے) سینے سے لگاتے وقت جبکہ تیری گردن کے
نیچے اس کی کلائی ہوگی۔

تراه إذا أبدت له حسن وجهها يلد به قبل الوصال وينعم
جب اس کے چہرے کا حسن تیرے سامنے ظاہر ہو گا تو وصال سے پہلے آپ اس سے لذت
حاصل کریں گے اور نعمت پائیں گے

تفكك منها العين عند اجتلائها فواكه شق طلعها ليس بعدم
اس کو دیکھتے وقت آپ اس کی آنکھوں سے ایسے مختلف میوؤں کا مزہ اٹھائیں گے جس کے
شکوے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔

عناقيد من كرم وتفتح جنة ورمضان اغصان به القلب مغرم
انگور کے گچھے اور جنت کے سیب اور انار اور شبنیاں جس کے ساتھ دل لگا ہوا مشتاق ہے۔
وللورد ما قد ألبته خدودها وللخمر ما قد ضمه الريق والفم
وہ کیا ہی اچھا گلانی رنگ ہو گا جو وہ اپنے رخساروں کو پہنا چکی ہوں گی اور وہ کیا ہی اچھی شراب
ہو گی جس کو اس کے لعاب اور منہ نے جمع کیا ہو گا۔

تقسم منها الحسن في جمع واحد فيا عجباً من واحد يتقسم
وہ اپنا حسن ایک جماعت پر تقسیم کرتی ہے۔ عجب ہے اس ایک سے جو اس طرح تقسیم ہوتا ہے
لما فرق شق من الحسن أجمعت يجمعتها إن السو عزم
اس کے حسن کی مختلف قسمیں ہیں جن سب کو اس نے جمع کیا ہے، تسلی قابل احترام چیز ہے
تذكر بالرحمن من هو ناظر فينطق بالتسبيح لا يتلعم
اس سے دیکھنے والے کو رحمن یاد آتا ہے پس وہ دیکھنے والا رحمن کی ایسی تسبیح میں لگتا ہے کہ اس
میں کوئی سستی نہیں ہوتی۔

إذا قابلت جيش الموم بوجهها تولى على أعتابه الجيش يهزم
جب اس کا چہرہ غموں کے لشکر کے سامنے آئے گا تو وہ شکست خوردہ پیچھے ہٹے گا۔
فيا خاطب الحسناء إن كنت راغبا فهذا زمان المهر فهو المقدم
اے وہاں کی حسین حور کو پیغام دینے والے اگر آپ کو رغبت ہے تو اس کے مہر کا زمانہ یہی ہے
جو پہلے ادا کیا جاتا ہے۔

ولما جرى ماء الشباب بغضها تيقن حقاً أنه ليس بهرم
جب شباب کا پانی اس کی نئی میں چلے گا تو آپ یقین کر لیں گے کہ پھر بڑھا پائیں ہو گا۔
وكن مبغضا للعائيات لحبها فتحظى بها من دونهن وتنعم
اس کی محبت کی وجہ سے خائن عورتوں سے بغض رکھ اور دوسری عورتوں کو چھوڑا اسی کو اپنا
حصہ بنالے اور نعمت پالے۔

وكن ابما عن سواها فإنها لملك في جنات عدن تأيم
اور اسکے علاوہ عورتوں سے بے نکاح رہ اس لئے کہ وہ تجھ جیسوں کے لئے ہمیشہ رہنے والے
باغات میں بے نکاح ہیں۔

وصم يومك الاذنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوم
آج کے دن روزہ رکھ تاکہ کل تو عید الفطر سے کامیاب ہو جائے اور لوگ روزے سے ہوں
وأقدم ولا تقنع بعيش منغص فما فاز بالذات من ليس يقدم
آگے بڑھ اور اس گھٹیا زندگی پر قناعت مت کر اس لئے وہ آدمی لذتیں حاصل نہیں کر سکتا جو
آگے نہیں بڑھتا۔

وان ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلم
اگرچہ پوری دنیا آپ پر تنگ ہو جائے اور اس میں تیرے لئے کوئی ٹھکانا معلوم نہ ہو۔
فهي على جنات عدن فإنها منازلنا الاولى وفيها الخيم
پس ہمیشہ رہنے والے باغات کی طرف جلدی توجہ کر کہ وہ ہمارے اصلی گھر ہیں اور اسی میں
ثبات ہے

ولكننا سي العدو فهل تروا نعود إلى أوطاننا ونسلم
لیکن دشمن (شیطان) نے ہمیں قید کر لیا آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اپنے وطن میں صحیح سالم لوٹ
سکیں گے۔

وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم
اور انہوں نے گمان کر رکھا ہے کہ مسافر جب دور ہو جاتا ہے اور اپنے وطن سے تجاوز کر جاتا ہے
تو وہ نادان میں رہتا ہے۔

وَأَيُّ اغْتِرَابٍ فَوْقَ غَرَبَتِنَا أَلْقَى لَهَا أَضْحَتَ الْأَعْدَاءِ فِينَا تَحْكُمُ

اور اس سے بڑھ کر ہماری کیا غربت و ذلت ہوگی کہ دشمن ہم میں فیصلہ کرنے لگا ہے۔

وَحَىٰ عَلَى السُّوقِ الَّذِي فِيهِ يَلْتَقَى الْمُهْمِنُونَ ذَاكَ السُّوقِ لِلْقَوْمِ يَعْلَمُ
اور ایسے بازار کی طرف توجہ کر کہ محبت کرنے والے (اہل جنت) اس میں آپس میں ملاقات
کریں گے وہ جگہ (ان کی ملاقات) کی جگہ معلوم ہے۔

فَمَا شِئْتَ خَذَ مِنْهُ بَلَائِن لَّهُ فَقَدْ أَسْلَفَ التَّجَارَ فِيهِ وَأَسْلَمُوا
پس جو کچھ آپ چاہیں بلا قیمت اس سے لے لیں، کیونکہ تاجروں نے اس میں تاوان اٹھایا ہے اور
بیع سلم کیا ہے۔

وَحَىٰ عَلَى يَوْمِ الْمَزِيدِ الَّذِي بِهِ زِيَارَةُ رَبِّ الْعَرْشِ فَالْيَوْمِ مَوْسِمُ
یوم المزید کی طرف آگے بڑھ اور جلدی کر جس میں رب عرش کا دیدار ہو گا پس اس کا دن
معلوم ہے۔

وَحَىٰ عَلَى وَادِ هِنَاكَ أَفِيحٌ وَتَرْبَتُهُ مِنْ إِذْفَرِ الْمَسْكَ أَعْظَمُ
اور ایسی وادی کی طرف چل جہاں زیادہ خوشبو ہے اور اس کی مٹی خالص مشک سے بڑھ کر
خوشبودار ہے۔

مَنَابِرُ مِنْ نَوْرِ هُنَاكَ وَفَضَّةٌ وَمِنْ خَالِصِ الْقِيَانِ لَا تَنْقُصُ
وہاں نور کے بنے ہوئے بہت خوشبودار ممبر ہیں اور اس کی مٹی خالص مشک سے بھی زیادہ
خوشبودار ہے۔

وَكَثْبَانِ مَسْكَ قَدْ جَعَلْنَا مَقَاعِدًا لِمَنْ دُونَ أَصْحَابِ النَّابِرِ يَعْلَمُ
اور مشک کے نیلے جو ممبروں والوں سے کم درجہ کے لوگوں کے لئے نشستیں مقرر کی گئی ہیں۔
فِينَا هُمْ فِي عَيْشِهِمْ وَسُرُورِهِمْ وَأَرْزَاقِهِمْ تَجْرِي عَلَيْهِمْ وَتَقْسَمُ
اس وقت کہ وہ اپنے عیش اور خوشیوں میں مشغول ہوں گے اور ان کی روزی ان پر تقسیم کی
جائے گی،

إذا هم بنور ساطع اشرفت له بأفطارها الجنات لا يتوم
اس وقت وہ ایسے بلند نور کے پاس ہوں گے جس نے جنتوں کے اطراف کو ایسا روشن کیا ہوگا
جس کا وہم و گمان نہیں کیا جاسکتا۔

تجلی لهم رب السموات جہرة فیضحک فوق العرش ثم یکلم
آسمانوں کے رب رو بروان کے سامنے تجلی فرمائیں گے، عرش کے اوپر مسکرائیں گے اور پھر بات
کریں گے۔

سلام علیکم یسمعون جمیعہم بأذانہم تسلیہ إذ یسلم
(فرمائیں گے) تم پر سلام ہو اور جب وہ سلام کریں گے تو سب اس کو اپنے کانوں سے سنیں
گے۔

یقول سلونی ما اشتهیتہم فکل ما تریدون عندی انی انا ارحم
ارشاد ہو گا جو چاہو مانگو جو کچھ چاہتے ہو سب میرے پاس موجود ہے اور میں سب سے زیادہ
رحیم ہوں۔

فقالوا جمیعاً نحن نسالک الرضا فانت الذی تولى الجلیل ورحم
سب عرض کریں گے کہ ہم تیری رضا تجھ سے مانگتے ہیں آپ ہی وہ ذات ہیں جو نعمت دیتے ہیں
اور رحم فرماتے ہیں۔

فیعطیہم هذا ویشہد جمیعہم علیہ تعالیٰ اللہ فاللہ اکرم
پس اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضامندی دیں گے اور ان سب کو اس پر گواہ بنائیں گے اللہ تعالیٰ برتر
ذات ہیں اور سب سے زیادہ کریم ہیں۔

فیابائما هذا بیخص معجل کانتک لا تدری ، بلی سوف تعلم
اے اس (جنت) کو گھنیا اور معجل چیز کے بدلے میں بیچنے والے گویا کہ آپ نہیں جانتے،
کیوں نہیں عنقریب جان لو گے

فإن کنت لا تدری فنتک مصیبة وإن کنت تدری فالمصیبة اعظم
اگر آپ نہیں جانتے تو وہ ایک مصیبت ہے، اور اگر آپ جانتے ہیں تو پھر بہت بڑی مصیبت
ہے۔

میں نے اس کتاب کے مضامین کے جمع کرنے ترتیب اور ابواب و فصول کے عنوانات مقرر کرنے میں انتہائی کوشش سے کام لیا ہے جس کی وجہ سے یہ کتاب ایک غمزہ شخص کے لئے باعث تسلی بن چکی ہے اور شوق رکھنے والے شخص کے لئے جنت کی دہنوں کے مہر کا ذریعہ ہے مقصود کی طرف دلوں کو حرکت میں لانے والی ہے اور شہنشاہ مقدس کے جوار رحمت کی طرف دلوں کی حدی خوان ہے۔ پڑھنے والے کے لئے نفع بخش ہے اور جنت کی طرف شوق دلاتی ہے اپنے ہم نشین کو اکتاتی نہیں اور اس سے مانوس انسان پریشان نہیں ہوتا اور یہ ایسے فوائد عجیبہ پر مشتمل ہے جس کی ایک طالب انسان جستجو کرتا ہے جو اس کو دوسری کتابوں میں نہیں مل سکتی باوجود یہ کہ وہ کتابیں احادیث مرفوعہ اور آثار موقوفہ اور آیتوں میں ودیعت شدہ رازوں عجیب نکتوں اور بہت ساری مشکلات کی توضیحات اور اسماء و صفات کے اصول کی تنبیہات پر مشتمل ہوتی ہیں جب دیکھنے والا اس میں دیکھتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہی رہتا ہے اور جنت اس کے سامنے اس طرح عیاں ہو جاتی ہے گویا کہ وہ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہا ہے اور یہ کتاب جنت کے باغیچوں کے طرف پختہ ارادوں کو تقویت دینے والی ہے اور جنت کے بالا خانوں میں مبارک زندگی کے لئے بلند ہمتوں کا باعث ہے اور میں نے اس کا نام ”حادی الارواح“ الی بلاد الافراح“ (جنت کی طرف روحوں کی حدی خواں) رکھا ہے یہ ایسا نام ہے جو اپنے مسی کے مطابق ہے اور ایسا لفظ ہے جو اپنے معنی کے موافق ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے جمع اور تالیف سے میرا کیا مقصد ہے اور وہی ہر ایک کے دل اور زبان سے باخبر ہے نیت اور عمل پر مطلع ہے اور میرا سب سے بڑا مقصد اس سے اہل سنت والجماعت کو ان نعمتوں کی خوشخبری دینا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جنت میں تیار کی ہیں کیونکہ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں اور دنیا و آخرت میں خوشخبری کے مستحق ہیں اور یہی لوگ پیغمبر کے حمایتی اور اس کی جماعت ہیں اور جو لوگ پیغمبر کی سنت سے نکل گئے تو وہ پیغمبر کے دشمن اور دشمن کے ہم جماعت ہیں اور یہ لوگ پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی حمایت و نصرت میں کسی ملامتی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی پیغمبر علیہ السلام کی صحیح حدیث کو کسی مخلوق کی وجہ سے

چھوڑتے ہیں اور ان کے دلوں میں سنت کی اتنی عظمت ہے کہ کیا مجال ہے کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر فقہی رائے، جدلی بحث، صوفیانہ خیال، اور تناقض کلامی، فلسفی قیاس، اور سیاسی فیصلے کو مقدم کریں اور جس نے سنت پر کسی چیز کو مقدم کیا تو حق اور ہدایت کے راستے اس پر بند ہو جاتے ہیں۔ قارئین کرام اس کی غنیمت آپ کے لئے ہے اور تاوان مولف پر ہے اور اس کی صفائی آپ کے لئے اور کدورت مولف کے لئے یہ ایک تھوڑی سی حقیر پونجی ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے اور یہ مولف کے افکار ہیں جو آپ کے سامنے پھیلائے جاتے ہیں، اگر یہ کسی شریف آدمی کے ہاتھ لگے تو وہ یا تو دستور کے موافق رکھ لے گا یا اچھے طریقے سے چھوڑ دے گا اور اگر شریف آدمی کے بغیر کسی اور کے ہاتھ لگے تو اللہ ہی مددگار ہے، اس میں جو صحیح باتیں ہیں وہ اکیلے احسان کرنے والی ذات کی جانب سے ہیں اور جو غلط باتیں ہیں وہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس سے بری ہیں اور میں نے اس کتاب کو ستر بابوں میں تقسیم کیا ہے۔ (جس کی تفصیل آگے آرہی ہے)



پہلا باب

”جنت اب موجود ہے“

بیشہ سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعین اور تبع تابعین اہل سنت والحدیث فقہاء اسلام اہل تصوف اور اہل زہد سب کے سب اس عقیدے اور اس بات کے ثابت کرنے پر متفق چلے آ رہے ہیں کہ جنت اب موجود ہے اور یہ حضرات اس کے ثابت کرنے میں کتاب و سنت اور اول سے لے کر آخر تک تمام پیغمبروں کے اخبار صادقہ سے دلیل لیتے ہیں کہ ان سب پیغمبروں نے اپنی امتوں کو اس کی دعوت اور اس کی خبر دی اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ معتزلہ اور قدریہ پیدا ہوئے اور اب یعنی فی الحال جنت کے وجود سے انکار کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو قیامت کے دن پیدا کریں گے اور اس عقیدے پر ان کو اس فاسد قاعدے نے انہیں ابھارا جس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں اپنی شریعت گڑھ لی تھی اور وہ اس طرح کے عقائد و افکار کہ اللہ تعالیٰ کے لئے فلاں کام کرنا مناسب ہے اور فلاں مناسب نہیں“ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے افعال کو مخلوق کے افعال پر قیاس کیا پس وہ اس وجہ سے بندوں کے افعال سے اللہ تعالیٰ کے افعال کی تشبیہ دینے لگے اور جہمیت ان میں راسخ ہو گئی اور یہ عقیدہ ان میں اتنا راسخ ہو گیا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعطیل کرنے لگے اور کہنے لگے کہ قیامت کے دن یوم الجزاء سے پہلے جنت کو پیدا کرنا عبث ہے کیونکہ بہت زمانہ وہ معطل پڑی رہے گی اور کوئی رہنے والا اس میں نہیں ہو گا۔ اس کے لئے بطور دلیل کہتے ہیں کہ جب کوئی بادشاہ محل تیار کرتا ہے اور اس میں رنگ برنگ کھانے اور سامان آرائش مہیا کرتا ہے لیکن پھر اس کو معطل کر دیتا ہے اور لوگوں کو اس میں داخل ہونے نہ دے تو اس بادشاہ کا فعل حکمت پر مبنی نہ ہو گا اور عقلاء کو اس پر اعتراض کا موقع ہاتھ آئے گا۔ تو یہ لوگ اپنے باطل خیالات اور فاسد عقولوں سے اللہ تعالیٰ پر قدغن لگانے و تنقید کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے افعال کو اپنے افعال سے تشبیہ دی اور ان نصوص کی تردید کرنے لگے جو اللہ تعالیٰ

کے بارے میں ان کی گھڑی ہوئی باطل شریعت کے خلاف تھیں اور یا ان میں تحریف کرنے لگے اور اس بارے میں اپنے مخالفین کو بدعتی اور گمراہ قرار دینے لگے اور اس میں ایسے لوازمات کا التزام کر گئے جس سے عقلاء کو ان پر ہنسی آئی اسی وجہ سے سلف اپنے عقائد میں ذکر کرتے ہیں کہ ”جنت اور جہنم اب بھی موجود ہیں“ اور مقالات کے مصنفین ذکر کرتے رہتے ہیں کہ اہل سنت والحدیث کا مقالہ ہے متفقہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

اہل سنت والجماعت کے عقائد

ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلحین“ میں فرماتے ہیں تمام وہ امور جن کے متعلق اصحاب حدیث اور اہلسنت کا ایمان ہے منجملہ ان میں سے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں کا اقرار کرنا ہے اور تمام ان چیزوں کا اقرار کرنا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور وہ جس کو ثقہ معتمد راویوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔

- (۱) اللہ تعالیٰ ایک ہے اکیلے ہیں نہ بیوی ہے نہ اولاد
- (۲) محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔
- (۳) جنت اور جہنم حق ہیں۔
- (۴) قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔
- (۵) اور قبروں میں پڑے ہوؤں کو اٹھایا جائے گا۔
- (۶) اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہیں۔

جیسا کہ ارشاد ہے۔

الرحمن علی العرش استوی۔ وہ بڑا مہربان عرش پر قائم ہوا۔

(۷) اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں بغیر کیف کے، جیسا کہ ارشاد ہے۔

میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور جیسے کہ

ارشاد ہے بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے

ہوئے ہیں۔ (سورہ المائدہ)

خلقت بیدی (بل یداہ مبسرطن:

(۸) اللہ تعالیٰ کی بلا کیف دو آنکھیں ہیں جیسا کہ ارشاد ہے۔

تجری باعیننا (سورۃ القمر) بہتی تھی (کشتی نوح) ہماری آنکھوں کے سامنے۔

(۹) اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے جیسا کہ ارشاد ہے۔

اور باقی رہے گا منہ تیرے رب کا بزرگی اور عظمت والے کا۔

(۱۰) اللہ تعالیٰ کے اسماء کے بارے میں معتزلہ اور خوارج کی طرح یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اس سے غیر ہیں۔

(۱۱) اللہ تعالیٰ عالم ہیں جیسا کہ ارشاد ہے۔

انزلہ بعلمہ () اللہ نے نازل فرمایا (اس قرآن کو) اپنے علم کے مطابق۔

اور اسی طرح ارشاد ہے۔

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ الْأُورُنَّ بِمَادَةٍ كُوَاوِرْنَهُ وَهِيَ جَنَّتِي بِعِلْمِهِ (سورۃ فاطر ۱۱) ہے بن خبر اس کے۔

(۱۲) اہل سنت والجماعۃ اللہ تعالیٰ کے لئے صفت سمع اور بصر ثابت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی نفی نہیں کرتے جیسے کہ معتزلہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لئے قوت ثابت کرتے ہیں جیسے کہ ارشاد ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً (سورۃ فصلت ۱۵) زیادہ ہیں ان سے زور میں۔

(۱۳) زمین میں خیر اور شر اللہ ہی کی مشیت سے ہیں اور تمام چیزیں اللہ ہی کی چاہت سے وجود میں آتی ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (الذمر) ترجمہ اور تم جب ہی چاہو کہ چاہے اللہ اور جیسے کہ مسلمان کہا کرتے ہیں جو اللہ چاہیں گے وہ ہو گا جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہو گا۔

(۱۴) کسی میں کوئی طاقت نہیں کہ اللہ کے کرنے سے پہلے کچھ کرے یا اس کے علم سے باہر ہو جائے یا ایسا کام کرے جو اللہ کو منظور نہ ہو۔

(۱۵) اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں (۱۶) بندوں کے افعال کے خالق اللہ ہیں۔ (۱۷) بندے کسی چیز کے پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ (۱۸) مومنوں کو طاعات کی توفیق اللہ نے دی ہے اور کافروں کو رسوا کیا ہے مومنوں پر مہربانی کی نظر کرم فرمائی ان کی اصلاح فرمائی اور ہدایت دی اور کافروں پر نہ مہربانی کی نہ اصلاح فرمائی اور نہ ان کو ہدایت دی، اگر ان کی اصلاح فرماتے تو وہ صالحین بن جاتے اگر ہدایت دیتے تو وہ ہدایت یافتہ ہو جاتے۔ (۱۹) اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ کافروں کی اصلاح اور ان پر مہربانی کر کے مومن بنادیں لیکن اللہ نے اپنے علم کے مطابق ان کے کافر ہی رہنے کا ارادہ کیا اور ان کو گمراہ کیا اور دلوں پر مہر لگا دی۔ خیر اور شر اسی کے فیصلے سے آتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قضاء اور تقدیر پر ایمان لاتے ہیں کہ خیر اور شر نرم گوشہ حالت اسی کی طرف سے ہے۔ (۲۰) لوگ اپنے لئے نہ نفع کے اختیار مند ہیں اور نہ نقصان کے مگر جو کچھ اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ ہر وقت اللہ ہی کی طرف اپنے ضرورتوں اور محتاجگی پیش کرتے ہیں۔ (۲۱) قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے بات قرآن کریم کو مخلوق کہنے میں توقف کرنے اور الفاظ کو مخلوق قرار دینے میں ہے پس جس نے قرآن کے الفاظ کو مخلوق قرار دیا یا اس مسئلے میں توقف کر کے نہ الفاظ قرآن کو مخلوق قرار دیا اور نہ غیر مخلوق تو ایسا شخص اہلسنت کے ہاں بدعتی ہے۔ (۲۲) قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آنکھوں سے دکھائی دیں گے جس طرح کہ چودھویں رات کا چاند دکھائی دیتا ہے مومن اس کو دیکھ سکیں گے اور کافر نہیں دیکھ سکیں گے اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے روک لئے جائیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ (ترجمہ) کیوں نہیں وہ اپنے رب سے اس
لَمَحْجُوبُونَ (سورۃ المطففین ۱۵) دن روک دیئے جائیں گے۔

موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی طرف تجلی کی اور اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو بتا دیا کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں

کر سکیں گے بلکہ آخرت میں کریں گے۔ (۲۳) اہل قبلہ میں سے کسی ایک کو گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے کافر قرار نہیں دیا جائے گا زنا چوری اور ان جیسے دوسرے کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے بلکہ یہ لوگ کبار کے ارتکاب کے باوجود بھی مومن ہوتے ہیں اہل سنت کے ہاں ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور اس پر کہ خیر اور شر نرم گرم حالت اللہ کی طرف سے ہے اور یہ کہ جو کچھ ان کو نہیں ملنا ہے کبھی نہیں ملے گا اور جو کچھ پہنچنے والا ہے مل نہیں سکتا اسلام یہ ہے کہ آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جس طرح حدیث جبریل میں وارد ہوا ہے ان کے ہاں اسلام ایمان سے غیر ہے۔ (۲۴) اللہ تعالیٰ دلوں کے پھیرنے والے ہیں (۲۵) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کی سفارش کریں گے۔ (۲۶) عذاب قبر حق ہے۔ (۲۷) حوض کوثر حق ہے۔ (۲۸) پل صراط حق ہے۔ (۲۹) موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے۔ (۳۰) اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے حساب لینا حق ہے۔ (۳۱) اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا حق ہے۔ (۳۲) ایمان قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ (۳۳) اس کو نہ مخلوق کہتے ہیں اور نہ غیر مخلوق۔ (۳۴) اللہ تعالیٰ کی صفات اس کے عین ہیں۔ (۳۵) کبیرہ گناہ کرنے والوں پر جہنم کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا اور نہ کسی موحد کے لئے جنت کا فیصلہ کیا جائے گا بلکہ اللہ جہاں چاہتے ہیں وہاں ان کو دیکھیں گلیں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے چاہے ان کو بخش دے چاہے عذاب دے۔ (۳۶) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات صحیحہ کے مطابق موحدین کی ایک جماعت کو اللہ جہنم سے نکال لیں گے۔ (۳۷) دین میں جنگ و جدال اور تقدیر کے بارے میں جھگڑنا بری بات ہے بلکہ جب اس بارے میں ثقہ عادل راویوں کے آثار پہنچ جائیں تو پھر یہ نہیں کہتے کہ یہ کیسے ہوا اس طرح کیوں نہیں ہوا اس لئے کہ یہ بدعت ہے۔ (۳۸) اللہ تعالیٰ شر کا حکم نہیں دیتے بلکہ شر سے منع فرماتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شرک کرنے سے راضی نہیں ہوتے اگرچہ اس کے تقرب کے لئے ہی کیوں نہ ہو۔ (۳۹) اہل سنت اپنے اسلاف (صحابہ کرام) کے حق کا اقرار کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لئے چن لیا تھا ان

کے فضائل کو جزاء ایمان سمجھتے ہیں اور ان کے آپس کے مشاجرات اور اختلافات بیان کرنے سے رکتے ہیں اور مرتبے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مقدم کرتے ہیں پھر حضرت عمر کو پھر حضرت عثمان کو اور پھر حضرت علی کا مرتبہ مانتے ہیں اور پھر اس بات کا قرار کرتے ہیں کہ یہ حضرات ہدایت یافتہ خلفاء راشدین ہیں انبیاء کے بعد تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ (۴۰) اور ان احادیث کی تصدیق کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تک پہنچی ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔

بے شک اللہ تعالیٰ آسمان دنیا سے نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا۔

از اللہ ينزل من السماء الدنيا فيقول هلى من مستغفر. (الحديث)

(۴۱) قرآن اور سنت پر فیصلہ کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فان تنازعتم في شئ فردوه الي الله و الرسول. (سورة النساء ۵۹)

پھر اگر جھگڑ پڑو کسی چیز میں تو اس کو رجوع کرو طرف اللہ کے اور رسول کے۔

(۴۲) اہل سنت سلف میں سے ائمہ دین کی اتباع کو جائز سمجھتے ہیں ہاں خلاف شرع کاموں میں ان کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ (۴۳) اور اس بات کا قرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صفت اتیان سے متصف ہوں گے جیسا کہ ارشاد ہے۔

وجاء ربك والملك صفاً صفاً اور آئے تیرا رب اور فرشتے آئیں

سورة الفجر ۲۲) قطار قطار

(۴۴) قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں گے اپنے بندوں سے قریب ہوں گے جیسا کہ ارشاد ہے۔

ولنحن اقرب اليه من حبل الوريد اور ہم اس سے نزدیک ہیں دھڑکتی رگ

(سورة ق ۱۶) سے زیادہ

(۴۵) عیدین اور جمعے کی نماز کو ہر امام کے اقتداء میں پڑھنا جائز سمجھتے ہیں خواہ امام نیک ہو یا فاسق۔ (۴۶) سفر اور حضر میں موزوں پر مسح کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ (۴۷) اور جب سے اللہ تعالیٰ

نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اس وقت سے لے کر اس آخری جماعت تک جو دجال سے لڑے گی مشرکوں کے ساتھ جہاد کو ثابت کرتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمان حکمرانوں کی اصلاح کی دعا کو جائز سمجھتے ہیں اور یہ کہ تلوار لے کر ان کی بغاوت نہ کی جائے اور فتنے میں قتال نہ کریں۔ (۴۸) خروج دجال کی تصدیق کرتے ہیں اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے اور معراج پر ایمان رکھتے ہیں۔ (۴۹) مسلمان مردوں کو صدقے اور دعا کا ثواب پہنچاتا ہے جادوگر دنیا میں موجود ہیں اور جادوگر کافر ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے ثابت ہوتا ہے اور یہ کہ جادو دنیا میں رہے گا۔ (۵۰) اہل قبلہ میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس پر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی خواہ نیک ہو یا فاسق اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جنت اور جہنم اب پیدا شدہ ہیں۔ اور مرثا سی طرح جس کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کی موت مقررہ وقت پر ہی ہوئی ہے۔ (۵۱) ارزاق کا فیصلہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے حلال ہو یا حرام۔ (۵۲) شیطان انسان کو وسوسے اور شک میں ڈالتا ہے اور چونڈیاں لگاتا ہے۔ (۵۳) اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھار صالحین کے ہاتھوں کچھ نشانیاں ظاہر کر کے مخصوص فرماتے ہیں۔ (۵۴) سنت قرآن کو منسوخ نہیں کرتی۔ (۵۵) کفار کے بچوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے چاہے ان کو عذاب دے یا جو کچھ کرنا چاہے۔ (۵۶) اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال سے باخبر ہیں اور اللہ ہی نے یہ بات لکھی ہے کہ یوں ہو گا۔ (۵۷) تمام امور اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ (۵۸) اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر صبر کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل اور نواہی سے بچنا چاہئے عمل میں اخلاص اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہئے۔ کبائر، زنا، جھوٹی گواہی فسق و فجور تکبر لوگوں کی عیب جوئی اور عجب سے بچنا چاہئے۔ (۵۹) ہر داعی بدعت سے کنارہ کشی اور قرآن کریم کی تلاوت اور کتب احادیث کا پڑھنا اور علم فقہ میں غور و فکر، تواضع، عاجزی بہترین اخلاق، نیکی، اذیت سے بچنا، غیبت اور چغلی اور کھانے پینے کی چیزوں کے پیچھے لگنے کو ترک کرنا یہ سب ایسے کام ہیں جن کا اہل سنت حکم کرتے چلے آ رہے ہیں اور عمل میں لارہے ہیں اور یہ سب ہم نے انہیں کے اقوال پیش کئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم چلتے ہیں اور اسی نے ہمیں توفیق دی ہے اور وہ ہمارے لئے کافی ہیں اور وہ بہترین کارساز ہیں اور اسی سے ہم امداد مانگتے

اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹتا ہے یہاں اہل سنت والجماعۃ کے عقائد کا بیان کرنا مقصود تھا اس بات پر کہ جنت اور جہنم اب پیدا شدہ ہیں تاکہ یہ کتاب ان لوگوں کے پہچان کی بنیاد بن سکے جو بشارت جنت کے مستحق ہیں۔

فی الحال جنت کی موجودگی پر قرآن و سنت کے دلائل

ولقد راه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى . عندها جنة الماوی
 ہوئے دیکھا ایک بار اور بھی
 نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سدرة المنتهى کو دیکھا اور اس کے پاس ”جنت الماوی“ (آرام سے رہنے کی جنت) کو دیکھا جیسا کہ واقعہ معراج کے بارے میں صحیحین کی حدیث میں وارد ہے آخر تک حدیث اس طرح ہے:

ترجمہ: پھر جبریل سدرة المنتهى تک گئے تو اس پر ایسے رنگ چھائے ہوئے تھے جس کو میں نہیں جانتا تھا فرمایا پھر میں داخل ہوا جنت میں وہاں میں نے موتیوں کے قبوں (گنبدوں) کو دیکھا اور جنت کی مٹی مشک تھی۔

ثم انطلق جبریل حتى انتهى الى سدرة المنتهى فغشيها الوان لا ادرى ما هي؟ قال: ثم دخلت الجنة فاذا فيها جنابذة اللؤلؤ واذا ترابها المسك وفي الصحيحين عن حديث -

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو (قبر کے اندر) صبح و شام اس کا ٹھکانا اس کے سامنے لایا جاتا ہے اور وہ جنتی ہوتا ہے تو جنت میں اس کا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے اور اگر وہ دوزخی ہوتا ہے تو دوزخ میں

عبداللہ بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة، وان كان من اهل النار فمن اهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم

القیامۃ

اس کا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہے تیرا ٹھکانا
اس کا انتظار کر یہاں تک کہ قیامت کے دن
اللہ تعالیٰ تجھے اٹھائے۔

وفی المسند وصحیح الحاکم و
ابن حبان وغیرہم من حدیث

براء بن عازب رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ ہم ایک
مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ایک انصاری شخص کے جنازے میں نکلے
آگے پوری حدیث بیان کی جس میں ہے کہ
پھر آسمان سے پکارنے والا (یعنی اللہ تعالیٰ یا
اس کے حکم سے فرشتے) پکار کر کہتا ہے میرے
بندے نے سچ کہا تو اس کے لئے جنت کا فرش
بچھا دو اور اس کو جنت کی پوشاک پہناؤ اور
اس کے واسطے جنت کی طرف ایک دروازہ
کھول دو چنانچہ جنت کی طرف دروازہ کھول
لیا جاتا ہے آپ نے فرمایا اس جنت کے
دروازے سے اس کے پاس جنت کی ہوائیں
اور خوشبوئیں آتی ہیں۔

عن البراء بن عازب قال خرجنا مع
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی
جنازة رجل من الأنصار ○ فذکر
الحدیث بطولہ۔

وفیہ، فینادی مناد من السماء إن
صدق عبدی فافرشوه من الجنة
والبسوه من الجنة وافتحوا بابا الی
الجنة، قال فیأتیہ من روحها طیبھا۔
(فی المسند و صحیح الحاکم و ابن
حبان وغیرہم)

وفی الصحیحین من حدیث

حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ قبر میں
رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے عزیز و احباب
واپس آتے ہیں تو (وہ مردہ) ان کے جو توں
کی آواز سنتا ہے اس کے پاس (قبر میں) دو
فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں

عن انس ابن مالک قال : قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا
وضع فی قبرہ وتولی عنہ اصحابہ إنه
لیسمع قرع نعالہم قال، فیأتیہ ملک ان
فیقعدانہ فیقولان ما کنت تقول فی
هذا الرجل؟ قال : فاما المثومن

فیقول اشهدانه عبد الله ورسوله : کہ تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو اس کے جواب میں بندہ مومن کہتا ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ بلاشبہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنا ٹھکانا دوزخ میں دیکھو جس کے بدلے میں خدا تعالیٰ نے تمہیں جنت میں جگہ دیدی چنانچہ وہ مردہ دونوں مقامات کو دیکھتا ہے۔

فیقول اشهدانه عبد الله ورسوله : فقال : فيقولان له انظر الي مقعدك من النار ، قدا بذلك الله به مقعدا في الجنة قال نبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا .

(۵) وفي صحيح أبي عوانة الأسفرائيني و سنن أبي داؤد من حديث البراء من

ترجمہ :- حضرت براء سے قبض روح کے بارے میں طویل حدیث مروی ہے کہ پھر اس کے لئے ایک دروازہ جنت کا اور ایک دروازہ جہنم کا کھول دیا جاتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تو یہ آپ کا ٹھکانا تھا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت دیدی پھر جب وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا تو (خوشی میں) کہے گا اے پروردگار جلدی قیامت قائم فرمائیں تاکہ میں اپنے اہل اور اپنے مال کی طرف لوٹ جاؤں پس اسے کہا جائے گا شہر جا۔

عازب الطويل في قبض الروح ”ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار ، فيقال هذا كان منزلك لو عصيت تعالیٰ أبدلك الله به هذا ما ذارای ما في الجنة قال : رب عجل قيام الساعة كيما ارجع اهلی ومالي فيقال : اُسكن“

ترجمہ : ابو سعید خدری راوی ہیں کہ ہم ایک جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا

وفي مسند البزاز وغيره من حديث أبي سعيد قال ، شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم جنازة : فقال رسول الله

اے لوگوں اس جماعت کو اپنی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس سے جدا ہوتے ہیں تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوتا ہے چنانچہ وہ مردے کو بٹھا کر پوچھتا ہے کہ اس شخص (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں کیا کہتے ہو اگر وہ مردہ مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس بات کی کہ محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں فرشتے کہتے ہیں کہ آپ نے سچ کہا پھر اس کے سامنے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے رب کی نافرمانی کرتے تو یہ آپ کا ٹھکانا ہوتا لیکن آپ اسی پر ایمان لائے ایمان لایا تو اب یہ آپ کا ٹھکانا ہے چنانچہ اس کے سامنے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ یہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے فرشتے اس سے کہتے ہیں ٹھہر جا۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں سورج گرہن ہوا (آگے عائشہ رضی اللہ عنہا نے

صلی اللہ علیہ وسلم ایہا الناس، ان هذه الأمة تبلى في قبورها، فاذا دفن الانسان وتفرق عنه اصحابه جاءه ملك في يده مطراق فاقعده فقال. ماتقول في هذا الرجل؟ يعني محمداً صلی اللہ علیہ وسلم. فان كان مثومناً قال شهدان الا اله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله فيقولون له صدقت لم يفتح له باب الى النار فيقولون هذا كان منزلك لو كفرت بربك فاما اذا امتنت به وهذا منزلك، فيفتح له باب الى الجنة فيريدان ينهض الى الجنة فيقولون له اسكن“ و ذکر الحدیث .

وفی صحیح مسلم عن عائشة قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث الى ان قالت : ثم

یہاں تک حدیث بیان کی) پھر آپ خطبہ دینے کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں نہ تو کسی کی موت کی وجہ سے انہیں گرہن لگتا ہے اور نہ کسی کی پیدائش کی وجہ سے چنانچہ جب تم اس کو دیکھو تو اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھو۔

قام فخطب الناس فأثنى على الله عما هو أهله ثم قال: ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموته احد ولا حياته فاذا رأيتما ههما فافزعوا الى الصلاة.

وفى صحيحين واللفظ للبخارى

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن ہوا (آگے تک حدیث بیان کی) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند خدا کی (قدرت کی) نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، یہ نہ کسی کے مرنے کی وجہ سے گرہن ہوتے ہیں اور نہ کسی کی پیدائش کی وجہ سے جب تم یہ دیکھو کہ (یہ گرہن میں آگئے ہیں) تو خدا کی یاد میں مشغول ہو جاؤ صحابہ کرام نے عرض کیا ”یا رسول اللہ (نماز کے دوران) ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ سے کسی چیز کے لینے کا ارادہ کیا پھر ہم نے آپ کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا جب تم نے مجھے کسی چیز کے لینے کے لئے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تھا تو اس وقت میں

عن عبد الله بن عباس قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وما فيه فقال، ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رأيتما ذلك فاذكروا الله فقالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك بم رأيناك تكعكت، فقال . انى رأيت الجنة وتناولت عنقودا ولو أصبأ لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر منظرًا كالיום قط اقطع، ورأيت اكثر اهلها النساء قالو: بم يارسول الله قال ”بكفرهن“ قيل يكفرن بالله؟ قال، يكفرن العشير، ويكفرن الاحسان“ لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم

نے جنت دیکھی تھی اور اس میں سے خوشہ
 رأت منك شيئاً قالت ما رأيت منك
 خيراً قط .

انگور لینے کا ارادہ کیا تھا اگر میں خوشہ انگور
 لے لیتا تو بلاشبہ تم اسے رہتی دنیا تک کھاتے
 اور (جب تم نے مجھے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا
 تھا اس وقت) میں نے دوزخ دیکھی تھی
 چنانچہ آج کے دن کی طرح کسی دن میں نے
 ایسی ہولناک جگہ کبھی نہیں دیکھی اور دوزخ
 میں، میں نے زیادہ عورتیں ہی دیکھی ہیں
 صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس وجہ
 سے؟ آپ نے فرمایا ان کے کفر کی وجہ سے،
 صحابہ نے عرض کیا کہ عورتیں اللہ کے کفر میں
 مبتلا ہیں، فرمایا نہیں بلکہ وہ شوہروں کی نعمتوں
 اور احسان کا کفران کرتی ہیں چنانچہ تم ان میں
 کسی کے ساتھ مدتوں تک بھلائی کرتے رہو
 مگر جب کبھی وہ کسی چیز کو اپنی مرضی کے
 خلاف پائے گی تو یہی کہے گی کہ میں نے کبھی
 بھی تمہارے یہاں بھلائی نہیں دیکھی۔

وفي صحيح مسلم من حديث
 انس بن مالك قال بينما رسول الله
 صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، اذ
 أقيمت الصلاة ، فقال ، يا أيها الناس
 انى امامكم فلا تسبقونى بالرکوع

ترجمہ : حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں کہ ایک دن نماز کھڑی ہوتے
 وقت آپ نے فرمایا اے لوگو میں تمہارا امام
 ہوں لہذا نہ مجھ سے سجدے میں آگے بڑھو
 اور نہ رکوع میں اور نہ مجھ سے پہلے سراٹھاؤ

ولا بالسجود ولا ترفعوا رؤسكم فاني أراكم من امامي ومن خلفي و أيم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيتم لضحكتم قليلاً و لبكيتم كثيراً قالوا و ما رأيتم يا رسول الله قال ، رأيتم الجنة والنار.

بلاشبہ میں اپنے سامنے کی چیزیں اور پیچھے کی چیز دیکھتا ہوں (بطور معجزہ) اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تم وہ دیکھ لیتے جو میں نے دیکھا ہے تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کیا دیکھا آپ نے فرمایا جنت اور جہنم۔

یہ حدیث صراحتاً اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ روہیں قیامت آنے سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی اسی طرح حدیث کعب بن مالک میں بھی مروی ہے۔

وفي المثوطاء والسنن من حديث كعب بن مالك قال، قال، رسول الله صلى الله عليه وسلم "انما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله الي جسده يوم القيامة"

ترجمہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیشک مومن کی روح ایک پرندہ (یعنی پرند کے پیٹ میں) ہوتا ہے جو جنت کے درخت میں سے کھاتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس کے جسم میں دوبارہ لوٹا دے۔

وفي صحيح البخاري عن اسماء بنت ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلوة الحسنوف قال قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لاحتكم بقطاف من قطافها، ودنت من النار حتى قلت اي رب وانا معهم، فاذا امرأة حبست انه قال اتدشها هرة قلت

ترجمہ: صحیح بخاری میں اسماء بنت بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہے فی صلوة الحسنوف قال قد دنت منی الجنة حتی لو اجترأت علیہا لاحتکم بقطاف من قطافہا، ودنت من النار حتی قلت ای رب وانا معہم، فاذا امرأة حبست انه قال اتدشها هرة قلت

ماشان هذه؟ قالوا حسبتها حتى ماتت
جو عالا اطعمتها ولا أرسلتها تأكل.
جنم میرے قریب ہوئی حتی کہ میں نے کہا
اے میرے رب میں ان کے ساتھ ہوں؟
وہاں ایک عورت قید کی گئی تھی میں نے کہا یہ
کون ہے انہوں نے کہا اس نے بی قید کر رکھی
تھی یہاں تک کہ وہ بھوک سے مر گئی نہ خود
اس کو کھلاتی اور نہ اس کو کھانے چھوڑتی۔

قال النبي صلى الله عليه وسلم ان
ارواح الشهداء في حواصل طير
خضر تعلق في ثمر الجنة، أو شجر
الجنة.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہداء
کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں رہتی
ہیں اور جنت کے درختوں کے پھل کھاتی
ہیں۔

وفي صحيح مسلم والسنن ، والمسند
من حديث ابى هريرة أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، قال ، لما
خلق الله تعالى الجنة والنار أرسل
جبريل الى الجنة فقال اذهب فانظر
اليها والى ما اعددت لأهلها فيها.
فذهب فنظر اليها والى ما أعد الله
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
خداوند تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو جبریل علیہ
السلام سے فرمایا جاؤ جنت کو دیکھو چنانچہ وہ
گئے اور جنت کو دیکھا اور اس تمام سامان پر
نظر ڈالی جو خدا نے جنتیوں کے لئے تیار کیا
اور پھر واپس آکر کہا اے پروردگار تیری
عزت کی قسم جو شخص اس جنت کا حال سے گا
وہ اس میں داخل ہونے کی خواہش کرے گا
پھر خداوند تعالیٰ نے بہشت کے چاروں
طرف شرعی تکالیف کا احاطہ قائم کیا اور اس
کے بعد جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جنت

کو دوبارہ دیکھو چنانچہ جبریل گئے اور جنت کو دوبارہ دیکھ کر واپس آئے اور عرض کیا پروردگار تیری عزت کی قسم مجھ کو اندیشہ ہے کہ اب شاید کوئی بھی جنت کے اندر داخل ہونے کی خواہش نہ کرے گا اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ جب خداوند تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا تو فرمایا اے جبریل جاؤ دوزخ کو دیکھو چنانچہ وہ گئے اور دوزخ کو دیکھ کر واپس آئے اور عرض کیا پروردگار تیری عزت کی قسم جو شخص دوزخ کا حال سنے گا وہ کبھی اس میں داخل ہونے کی خواہش نہ کرے گا اس کے بعد خداوند تعالیٰ نے دوزخ کے گرد خواہشات نفسانی اور شہوات کا حاطہ لگایا اور پھر فرمایا جبریل جاؤ اب دوزخ کو دیکھو چنانچہ جبریل گئے اور دوزخ کو دوبارہ دیکھ کر واپس آئے اور عرض کیا پروردگار تیری عزت کی قسم مجھ کو اندیشہ ہے کہ شاید کوئی شخص اس میں داخل ہونے سے نجات پائے۔

لأهلها فيها فرجع فقال و عزتك لا يسمع بها أحداً إلا دخلها فأمر بالجنة فحفت بالملكاه ، فقال فرجع فانظر اليها والى ما اعددت لأهلها فيها فقال فنظر اليها ثم رجع فقال ، وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها احد قال ، ثم ارسله الى النار فقال اذهب فانظر اليها والى ما اعددت لأهلها فيها قال فنظر اليها فاذا هي يركب بعضها بعضاً ثم رجع فقال: وعزتك و جلالك لا يدخلها احد يسمع بها. فأمر بها فحفت بالشهوات ثم قال: اذهب فانظر اليها فرجع فقال، وعزتك لقد خشيت ان لا ينجو منها احد الا دخلها قال الترمذى ، هذا حديث حسن صحيح،

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : اختصمت الجنة والنار
ترجمہ : ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ کا آپس میں جھگڑا ہوا جنت

فقلت الجنة، يا رب ما لها انما يدخلها
ضعفاء الناس وسقطتهم؟ و قالت
النار يا رب ما لها يدخلها الجبارون
والمتكبرون؟ فقال : أنت
أصيب بك من اشاء وانت عذابي
أصيب بك من اشاء لكل واحدة
منكما مثلثو.

نے کہا مجھ کو کیا میرے اندر تو حقیر و ذلیل
لوگ، جو بھولے بھالے اور فریب میں
آجانے والے ہیں داخل ہوں گے جہنم نے کہا
اے میرے رب مجھ کو کیا ہے میرے اندر تو
سرکش اور متکبر لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ
تعالیٰ نے یہ سن کر جنت سے فرمایا تو میری
رحمت ہے (یعنی رحمت خداوندی کا محل
منظر) میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا
ہوں تیرے ذریعہ رحم کرتا ہوں اور دوزخ
سے فرمایا تو میرا عذاب ہے میں اپنے بندوں
میں سے جس کو چاہوں تیرے ذریعہ عذاب
دیتا ہوں اور تم دونوں میں سے ہر ایک کو
بھردوں گا۔

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
”اشتكت النار الى ربها فقالت
يا رب اكل بعضى بعضاً فاذن
لها بنفسين، نفس في الشتاء
ونفس في الصيف۔“

ترجمہ: عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے یہ کہہ
کر شکایت کی کہ اے میرے رب میرے
بعض نے بعض کو کھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو
دو مرتبہ سانس لینے کی اجازت دیدی ایک
سانس سردی میں اور دوسرا سانس گرمی
میں۔

وروى الليث بن سعد عن
معاوية بن صالح عبد الله بن بشر

عبد اللہ بن بشر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم پر کوئی

دن نہیں گزرتا مگر جس میں دونوں اپنے رب سے نہ پوچھتے ہیں جنت کہتی ہے اے میرے پروردگار میرے میوے پک چکے ہیں اور نہریں بھر گئی ہیں اور جنتی میرے شوق میں ہیں ان کو جلدی لے آ۔ جہنم کہتی ہے میری گرمی بڑھ گئی ہے میری گہرائی میں اضافہ ہوا ہے اور میری چنگاری بڑی ہو گئی ہے لہذا میرے اہل (جہنمہوں) کو جلد لے آ۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں پھر رہا تھا (یعنی معراج کی رات میں) کہ میرا گزر ایک نہر پر ہوا جس کی دونوں طرف خالی موتیوں کے گنبد تھے میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے انہوں نے کہا وہ کوثر جس کو آپ کے پروردگار نے آپ کو بخشا ہے میں نے دیکھا تو اس کی مٹی نہایت تیز خوشبودار ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے میں (معراج میں) جنت میں داخل ہوا تو وہاں میں نے ایک محل اور ایک گھر دیکھا میں

ورفع الحدیث قال " ما من يوم الا والجنة والنار يسألان تقول الجنة: يا رب قد طاب ثمرى و اطردت انهارى واشتقت الى اوليائى فعجل الى باهلى وتقول النار اشتد حرى وبعد قعرى وعظم جمرى فعجل على باهلى.

وفي صحيح البخارى من حديث أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما أنا أسير فى الجنة واذا بنهر فى الجنة حافظاه قباب الدر المجوف قال: قلت ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذى اعطاه ربك، فضرب الملك بيده فاذا اطينة المسك الأذفر"

وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرًا و دارًا فقلت،

من هذا؟ فقیل لرجل من قریش فرجوت ان اکون أنا هو، فقیل لعمر بن الخطاب فلو لا غیرتک یا ابا حفص لدخلته قال، فبکی عمر وقال أویغار علیک یا رسول اللہ

نے پوچھا یہ کس کا ہے کہا گیا کہ یہ قریشی شخص کا ہے میں اس امید میں تھا یہ میں ہی ہوں گا پس کہا گیا کہ یہ عمر بن خطاب کا ہے اے ابو حفص (حضرت عمر کی کنیت ہے) آپ کی غیرت (مانع) نہ ہوتی تو میں اس میں داخل ہو جاتا (یہ سن کر) حضرت عمر رونے لگے اور کہا اے اللہ کے رسول آپ پر مجھے غیرت آتی ہے؟۔

عنقریب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ”بلال میں جب بھی جنت میں داخل ہوتا ہوں تو آپ کی قدم کی آہٹ اپنے آگے سے سنتا ہوں آگے آجائے گا نشاء اللہ تعالیٰ۔“

اگر کوئی یہ کہے کہ فی الحال جنت کی موجودگی پر آدم علیہ السلام کے قصے سے کیوں دلیل نہ پکڑی جائے کیونکہ یہ بات تو سب مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت میں داخل کئے گئے اور پھر درخت کے کھانے پر نکالے گئے وغیرہ وغیرہ حالانکہ اس سے استدلال نہایت ہی ظاہر ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ عام لوگوں کے ہاں اس سے استدلال اگرچہ ظاہر ہے لیکن لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے غایت ہی پوشیدگی میں ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جس جنت میں ٹھہرایا تھا وہی جنت تھی جس میں قیامت کے دن مومن لوگ داخل ہوں گے یا زمین کے بلند حصے میں کوئی اور جنت تھی؟ دونوں قولوں کے قائلین اور ان کے استدلال اور ایک دوسرے پر تردیدات کے بارے میں ہم بحث کریں گے۔ (اللہ تعالیٰ کے فضل و رحم سے)

دو سرا باب

اس جنت کے متعلق لوگوں کا اختلاف جس جنت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا تھا آیا وہ جنت خلد تھی یا زمین کے کسی اونچے مقام پر کوئی دوسری جنت تھی؟

آدم علیہ السلام کے متعلق حق تعالیٰ کے اس حکم ”اَسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ“ (سورۃ البقرۃ ۳۵، سورۃ الاعراف ۱۹) کے تفسیر میں منذر بن سعید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ جس جنت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا تھا وہ وہی جنت تھی جس میں قیامت کے دن مومن حضرات داخل ہوں گے جب کہ دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ وہ جنت خلد نہیں تھی بلکہ دوسری جنت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لئے بنائی تھی اور ان کو وہاں ٹھہرایا تھا منذر بن سعید فرماتے ہیں کہ قول ثانی ایسا ہے کہ جس کے دلائل و شواہد بہت ہیں جو اس قول کو ثابت کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں ابوالحسن الماوروی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس جنت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا تھا اس میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ (۱) وہ جنت خلد تھی۔ (۲) وہ ایک دوسری جنت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہما السلام کے لئے بطور امتحان گاہ بنائی تھی جنت خلد نہیں تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے حسانات کا نعم البدل قرار دیا ہے پھر اس قول ثانی میں بھی اختلاف ہے کہ وہ جنت کہاں تھی (۱) حسن رضی اللہ عنہما کا قول یہ ہے کہ وہ آسمان میں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہما السلام کو جنت سے نکلنے کے بعد آسمان سے اتارا تھا۔ (۲) ابن بحر کا قول یہ ہے کہ وہ زمین میں تھی۔

اس جنت میں اختلاف کہ آدم علیہ السلام جس میں ٹھہرے تھے وہ جنت خلد تھی یا زمین

کے کسی بلند و بالا مقام پر کوئی جگہ تھی؟

ابن خطیب اپنی مشہور تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ذکر شدہ جنت کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ آیا یہ زمین میں تھی یا آسمان میں؟ اگر آسمان میں تھی تو پھر وہ جنت تھی جو جنت خلد اور دارا ثواب ہے یا کوئی دوسری جنت تھی؟ اس میں چند اقوال ہیں (۱) ابوالقاسم بلخی اور ابو مسلم اصہبہانی رضی اللہ عنہما دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ یہ زمین میں تھی رہی یہ بات کہ قرآن میں لفظ ”ہباط“ آیا ہے تو ”ہباط“ کا اطلاق زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف انتقال پر بھی کیا جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ (اہبطوا مصرا) یعنی زمین مصر کی طرف منتقل ہو جاؤ۔

(۲) جبائی کا قول یہ ہے کہ وہ جنت ساتویں آسمان میں تھی۔

(۳) تیسرا قول ہمارے جمہور اصحاب کا ہے کہ یہ جنت وہی دارا ثواب والی تھی، ابوالقاسم الراغب اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں جس جنت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ٹھہرایا تھا اس میں اختلاف کیا گیا بعض متکلمین کا کہنا ہے کہ وہ ایک باغ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے امتحان کے لئے بنایا تھا وہ جنت الماویٰ نہیں تھی، پھر دونوں قولوں پر انہوں نے استدلال پیش کئے اور اس اختلاف کو ابو عیسیٰ الرمائی نے بھی اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے اور اس بات کو ترجیح دی ہے کہ وہ جنت خلد تھی پھر فرمایا کہ ہم نے جس مذہب کو اختیار کیا ہے یہ حسن، عمرو، واصل، ابی علی، اور ہمارے شیخ ابو بکر اور ہمارے اکثر اصحاب کا قول ہے، اور مفسرین کا بھی یہی قول ہے اور ابن خطیب نے اس مسئلے میں توقف اختیار کر کے ایک چوتھا قول ذکر کیا ہے۔

(۴) فرمایا کہ یہ سب اقوال ممکن ہیں کیونکہ اس مسئلے میں اولہ متعارض ہیں لہذا اس میں توقف کرنا اور کسی ایک جانب کو قطعی نہ ماننا واجب ہے منذر بن سعید فرماتے ہیں کہ یہ قول کہ وہ جنت زمین میں تھی جنت الخلد نہیں تھی امام ابو حنیفہ اور اس کے اصحاب کا ہے اور فرمایا کہ میں نے ایک قوم دیکھی جو جنت آدم علیہ السلام میں ہماری مخالفت پر تلی ہوئی ہے اور اپنے مذہب کی تصویب کر رہی ہے حالانکہ ان کے پاس دعویٰ اور بے بنیاد ادماگوں کے علاوہ کوئی دلیل نہیں اور نہ دلیل میں کتاب و سنت کو پیش کر سکے اور نہ ہی کسی صحابی یا تابعی یا تبع تابعی کا اثر پیش

کر سکے، نہ موصولاً اور سمجھ نہ آیا، اور ہم نے ان پر یہ بات ظاہر کر دی ہے کہ فقیہ عراق اور جنہوں نے اس کے قول کو لیا ہے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جنت جنت الخلد نہیں تھی حالانکہ یہ دفتران کے علوم سے بھرے پڑے ہیں کسی ایک کے ہاں بھی شاذ لوگوں میں سے نہیں ہیں بلکہ مخالفین کے رؤساء میں سے ہیں۔ میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ابو حنیفہ کے مذہب کی تائید کر رہا ہوں بلکہ میں اس مذہب کی تائید کروں گا جس پر قرآن و سنت کے دلائل قائم ہو چکے ہوں۔ یہ ابن زید مالکی ہیں جو اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ میں نے نافع سے جنت کے متعلق سوال کیا کہ آیا وہ اب پیدا شدہ ہے؟ تو فرمایا کہ اس مسئلے میں بولنے سے چپ رہنا ہی افضل ہے اور یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس قول۔

إِنْ لَكَ آتَا تَجْوَعُ فِيهَا وَنَاتَعْرَىٰ
 (سورۃ طہ ۱۱۸) نہ ننگا“

کے متعلق فرماتے ہیں (تجووع فیہا) یعنی زمین میں، ابن نافع امام ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی امام ہیں وہ لوگ نہ ان جیسے اماموں کو پیش کر سکتے ہیں اور نہ اس شخص کو جس کا قول ان کے مخالف ہو۔ یہ ابن قتیبہ رضی اللہ عنہ ہیں جو کتاب المعارف میں حضرت آدم اور ان کی بیوی کی پیدائش کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں چھوڑ دیا اور ان کو حکم دیا کہ اپنی اولاد کو بڑھاتے رہو اور زمین کو بھردو اور سمندروں کی مچھلیوں آسمان کے پرندوں، چوپایوں، زمین کی گھاس اور اس کے درختوں اور پھلوں پر غلبہ حاصل کرو اور پھر آدم رضی اللہ عنہ کو خبر دی گئی کہ آپ کی پیدائش زمین میں ہوئی اور موت بھی اسی میں آئے گی پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فردوس کو بنایا اور اس کو چار نہروں پر تقسیم فرمایا: بیحون، فرات، و جلدہ پھر سانپ کا ذکر کر کے فرمایا کہ وہ خشکی کا سب سے بڑا جانور تھا اس نے حوا رضی اللہ عنہا سے کہا اگر تم دونوں اس درخت کو کھا لو گے تو کبھی نہیں مرد گے اور اس بحث کے بعد فرمایا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت عدن کے مشرق سے اس زمین کی طرف نکالا جہاں سے ان کی خمیر لی گئی تھی) پھر آپ نے ابن وہب کے حوالے سے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت عدن سے زمین ہند کی شرقی جانب میں اتارا گیا تھا اور قابیل اپنے مقتول بھائی کو اٹھا کر شرق عدن میں

یمن کی وادی میں لایا اور وہاں سپرد خاک کیا اور فرمایا کہ ابو صالح ابن عباس سے اللہ تعالیٰ کے قول "ہبطوا" کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہی ہے جس طرح محاورہ ہے "ہبط فلان ارض کذا و کذا (فلاں شخص فلاں زمین میں اترتا)"

منذر بن سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ وہب بن منبہہ ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین میں پیدا کئے گئے اور اس میں زندگی بسر کی اور زمین ہی میں ان کے لئے فردوس بنائی گئی اور وہ مقام عدن میں تھی اور اسی نہر سے جس کو فردوس آدم کہا جاتا تھا چار نہریں نکالی گئیں اور یہ نہریں زمین میں باقی رہیں اس بارے میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے پس اے عقلمند و عبرت حاصل کرو اور خبر دی کہ جس سانپ نے حضرت آدم سے بات کی وہ خشکی کا سب سے بڑا جانور تھا یہ نہیں فرمایا کہ وہ آسمان کا سب سے بڑا جانور تھا۔

وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت زمین میں نہیں تھی بلکہ وہ ساتویں آسمان کے اوپر تھی، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت عدن کے مشرق سے نکالا حالانکہ جنت الماویٰ میں نہ مشرق ہے نہ مغرب کیونکہ وہاں سورج ہی نہیں ہے۔ جس سے ان کی خمیر لی گئی تھی، یعنی حضرت آدم کو اس فردوس سے نکالا جو ان کے لئے زمین ہند کی شرقی جانب مقام عدن میں نصب کی گئی تھی، ان سب خبروں کو ابن قتیبہ نے نقل کیا ہے جس سے زمین یمن اور عدن کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور اس بات کی خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لئے فردوس مقام عدن میں نصب کی تھی، اور پھر یہ کہہ کر اس کو اور موکد بنایا کہ مذکورہ چار نہریں اسی نہر سے لی گئی ہیں جس کو فردوس آدم کہا جاتا تھا۔

ابن منذر فرماتے ہیں کہ ابن قتیبہ وہب ابن منبہہ کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا موت کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اس جنت کے میوے کھانے کی چاہت پیدا ہوئی جس کو وہ اپنے گمان کے مطابق ساتویں آسمان کے اوپر سمجھ رہے تھے حالانکہ وہ زمین میں تھی۔ چنانچہ ان کی اولاد میوے کی تلاش میں نکلی اور وہاں فرشتے ان کی روح لینے کے لئے پہنچے ابن قتیبہ نے جو نقل کیا ہے اگر حق اور صحیح ہو تو کیا آپ کے ہاں حضرت آدم کے بیٹے پاگل تھے کہ زمین میں جنت الخلد کے میوے باپ کے

لئے ڈھونڈ رہے تھے ابن منذر نے فرمایا کہ ہم بھی ان کے علاوہ کچھ اور نہیں کہتے، کیونکہ اگر وہ جنت الخلد ہوتی تو حضرت آدم عليه السلام اس میں ہمیشہ رہتے، اور ہم نے قرآن سے دلائل پیش کئے ہیں اور ہمارے مخالفین قطعی دعویٰ کر کے اس پر دلیل پیش نہ کر سکے یہ بعض ان لوگوں کے اقوال تھے جنہوں نے اس مسئلے میں اختلاف نقل کیا اگر اللہ نے چاہا تو ہم فریقین کے دلائل مالہم ماعلیہم کے ساتھ بیان کریں گے۔



تیسرا باب

ان لوگوں کے دلائل کا بیان جنہوں نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس جنت الخلد میں تھے جس میں قیامت کے دن مومن لوگ داخل ہوں گے۔

اس بارے میں ہمارا قول وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے یعنی فطرت پر خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں اور اس بارے میں ان کے دلوں میں کوئی کھٹک نہیں ہے اور اکثر لوگ ان میں نزاع کے قائل ہی نہیں ہیں۔

و(۱) روی مسلم فی صحیحہ من حدیث ابی مالک عن ابی حازم عن ابی ہریرۃ و ابی مالک عن ربیع عن عذیفۃ قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ”یجمع اللہ تعالیٰ الناس ، فیقوم المؤمنون حتی تزلف لهم الجنة فیأتون آدم علیہ السلام فیقولون یا ابانا السفتیح لنا الجنة فیقول : وهل اخرجکم من الجنة الا خطیئة ابیکم۔“

حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) لوگوں کو جمع کرے گا پھر مومن ایک مقام پر کھڑے ہوں گے اور جنت ان کے قریب لے جائی جائے گی پھر لوگ آدم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے ہمارے باپ ہمارے لئے جنت کھول دو حضرت آدم کہیں گے تم کو جنت سے تمہارے باپ کے گناہ نے ہی تو نکالا ہے۔

ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قیامت کے دن جنتی جس جنت کا دروازہ کھولنے کو کہیں گے یہ بعینہ وہی جنت تھی جس سے حضرت آدم علیہ السلام نکالے گئے تھے۔

(۲) صحیحہ ابن کثیر کی وہ حدیث جس میں حضرت آدم اور موسیٰ علیہما السلام کا مناظرہ ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول مذکور ہے ”آخر جتنا و نفسک من الجنة“ (آپ

نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکالا) تو اگر یہ جنت زمین میں ہوتی تو یہ لوگ باغوں سے نکلتے اور جنت سے نہ نکلتے۔

(۳) اور اسی طرح حضرت آدم کا قیامت کے دن مومنوں سے یہ فرمانا بھی دلیل ہے۔

هل اخرجكم من الجنة الا خطيئتم اياكم؟

حالانکہ آدم علیہ السلام کی خطا نے تو ان کو دنیا کی جنتوں سے نکالا تھا۔

وقلنا يادام اسكن أنت وزوجك الجنة
وكلنا منها رعدا حيث شئتما ولا تقربا
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
فازلما الشيطان عنها فأخرجهما مما
كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض
عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع
الى حين.

(سورة البقرة ۳۵، ۳۶)

اور ہم نے کہا اے آدم رہا کر تو اور تیری
عورت جنت میں اور کھاؤ اس میں جو چاہو
جہاں کہیں سے چاہو اور اس درخت کے
پاس مت جانا پھر تم ظالم ہو جاؤ گے پھر شیطان
نے ان کو ہلا دیا اس جگہ سے پھر نکالا ان کو اس
عزت و راحت سے کہ جس میں تھے اور ہم
نے کہا تم سب اترو تم ایک دوسرے کے
دشمن ہو گے اور تمہارے واسطے زمین میں
ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔

یہ آیت اس بات پر دال ہے کہ آدم علیہ السلام کا اترنا جنت ہی سے تھا زمین کی
طرف اس کی دو وجہیں ہیں۔ (۱) "اهبطوا" کے بعد "ولکم فی الارض مستقر کا متصل ذکر"
اس بات پر دلیل ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے زمین پر نہیں تھے پھر سورۃ اعراف میں اس کو اور
موکد بنا کر فرمایا۔

قال فيها تحيون وفيها، تموتون ومنها
تخرجون. (سورة الأعراف ۱۵)

مرو گے اور اسی میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں تم
موتو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔

اگر یہ جنت زمین میں ہوتی تو ان کی زندگی اسی میں ہوتی نکالنے سے پہلے بھی اور بعد
میں بھی۔

(۵) اللہ تعالیٰ نے جنت آدم کی ایسی صفات بیان کی ہیں جو جنت الخلد کے علاوہ کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی۔

مثلاً فرمایا

ان لك الا تجوع فيها ولا تعوى وانك
لا تظمؤ فيها ولا تضحى
تجھ کو یہ ملا ہے کہ نہ بھوکا ہو تو اس میں اور نہ
ننگا اور یہ کہ نہ پیاس کھینچے تو اس میں اور نہ
(سورۃ طہ ۱۱۸، ۱۱۹) دھوپ۔

یہ صفت دنیا میں کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آدمی کتنی ہی اچھی اور خوشگوار زندگی میں ہو ان حالات میں سے کوئی حالت اس کو ضرور پیش آتی ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھوک اور پیاس کے درمیان ننگا ہونے اور دھوپ کے درمیان تقابل کیا کیونکہ بھوک باطن کی ذلت ہے، اور ننگا ہونا ظاہر کی ذلت ہے۔ پیاس باطن کی گرمی ہے اور دھوپ ظاہر کی گرمی ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کے رہنے والوں سے ظاہر اور باطن کی ذلت اور ظاہر و باطن کی گرمی کی نفی فرمائی ہے اور یہ تقابل اس سے بہت بہتر ہے کہ بھوک کا مقابل پیاس ٹھراتے اور ننگے ہونے کا دھوپ یہ جنت الخلد کے رہائش پذیر لوگوں کی صفت تھی۔

(۶) اگر یہ جنت دنیا میں ہوتی تو حضرت آدم ابلیس کے جھوٹ کو سمجھ لیتے جب اس نے یوں کہا

هل أدلك على شجرة الخلد وملك ۱۱ میں بتاؤں تجھ کو درخت سدا زندہ رہنے کا
ییلے، (سورۃ طہ ۱۲۰) اور بادشاہی جو پرانی نہ ہو۔

کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سمجھتے تھے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور اس کی بادشاہی پرانی ہو جاتی ہے۔

(۷) سورۃ بقرہ میں تو یہ بات بہت ظاہر ہے کہ وہ جنت آسمان کے اوپر ہے جس سے آدم علیہ السلام نکالے گئے تھے۔ چنانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

واذقلنا للملائكة اسجدوا لادم اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ
فسجدوا الا ابليس ابى واستبكر کرو آدم کو تو سب سجدہ میں گر پڑے مگر

وكان من الكافرين. وقلنا يادم
اسكن انت وزوجك الجنة وكلا
منها رغدا حيث شئتما، ولا تقربا هذه
الشجرة فتكونا من الظالمين. فازلهما
الشیطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو
ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی
حین. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب
علیه انه هو التواب الرحیم

شیطان اس نے نہ مانا اور تکبر کیا اور تھا وہ
کافروں میں۔ اور ہم نے کہا اے آدم رہا کر تو
اور تیری عورت جنت میں اور کھاؤ اس میں
جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو اور پاس مت
جانا اس درخت کے پھر تم ہو جاؤ گے ظالم پھر
ہلا دیا ان کو شیطان نے اس جگہ سے پھر نکالا
ان کو اس عزت و راحت سے کہ جس میں
تھے اور ہم نے کہا تم سب اترو تم ایک
دوسرے کے دشمن ہو گے اور تمہارے
واسطے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے
ایک وقت تک پھر سیکھ لیں آدم نے اپنے
رب سے چند باتیں پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر
بیشک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔

یہ ہے حضرت آدم اور حوا علیہم السلام اور ابلیس کا جنت سے نکلنا اسی وجہ سے تو ضمیر
(اہبطوا میں) جمع لائی گئی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ خطاب آدم اور حوا اور سانپ کے
لئے تھا یہ قول بہت ضعیف ہے کیونکہ حضرت آدم کے قصے میں سانپ کا کوئی ذکر نہیں ہے اور
نہ اس کے سیاق میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس پر دلالت کرتی ہو۔ بعض نے کہا کہ خطاب صرف
آدم اور حوا علیہم السلام ہی کو ہے لیکن ضمیر جمع کی لائی گئی جیسا کہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہم
السلام کے لئے جمع کی ضمیر لائی گئی ہے ”وکننا لکم ہم شہدین“ حالانکہ وہ دو تھے ایک قول
یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع آدم حوا اور ان کی اولاد ہیں پہلے قول کے علاوہ باقی سب اقوال ضعیف
ہیں کیونکہ یہ ایسا قول ہیں جن پر کوئی دلیل نہیں ہے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ابلیس اس
خطاب میں داخل اور جنت سے نکلنے والوں میں شامل تھا جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے
”ہباط“ کو دوبارہ ذکر فرمایا

”وقلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتهنكم منى هدى فمن تبع

هدى فلما خوف عليهم ولا هم يحزنون“

اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ دو سرا ”ہبوط“ پہلے والے سے جدا ہے کیونکہ یہ دو سرا ہبوط آسمان سے زمین کی طرف تھا اور پہلا ہبوط جنت سے تھا وہ جنت جس سے آدم علیہ السلام پہلی بار نکلے گئے تھے اس وقت وہ ساتویں آسمان کے اوپر جنت الخلد تھی، زمخشری نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ”اهبطوا منها جميعا“ یہ خطاب صرف اور صرف حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کو تھا ان کی اولاد کے لگاتار پیدا ہونے کی وجہ سے لفظ جمع سے تعبیر فرمایا جس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلیل ہے۔

”قال اهبطا منها جميعا لبعضكم لبعض عدو“ (سورة طہ ۱۲۳)

فرمایا تو یہاں سے دونوں اکٹھے رہو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے
اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی دلالت کرتا ہے۔

فمن تبع هداى فلا خوف عليهم جو چلا میری ہدایت پر نہ خوف ہو گا ان پر اور
ولا هم يحزنون. والذين كفروا نہ وہ غمگین ہوں گے اور جو لوگ منکر
و كذبوا بايتنا اولئك اصحاب النار ہوئے اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو وہ ہیں
هم فيها خلدون. دوزخ میں جانے والے وہ اس میں ہمیشہ
(سورة البقرة ۳۸، ۳۹)
رہیں گے۔

یہ ایسا حکم ہے جو سب لوگوں کے لئے عام ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول ”بعضكم لبعض عدو“ کا معنی ہے لوگوں کا آپس میں دشمنی، دوری اور ایک دوسرے کو گمراہ کرنا، آیت کی یہ تفسیر جس نے اختیار کی ہے یہ بہت ہی ضعیف ہے کیونکہ جس عداوت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس سے وہ عداوت مراد ہے جو حضرت آدم اور ابلیس اور ان دونوں کی اولاد کے درمیان ہوگی جیسا کہ ارشاد ہے۔

ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً تحقیق شیطان تمہارا دشمن ہے سو تم بھی سمجھ
رکھو اس کو دشمن۔
(سورة فاطر ۶)

اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی عداوت سے بچانے کے لئے قرآن کریم میں بڑی ناکید سے بار بار انسان اور شیطان کی دشمنی کا ذکر کیا ہے حضرت آدم کی بیوی اس لئے پیدا فرمائیں تاکہ وہ اس کے پاس آرام پائیں اور ان میں پیار اور محبت پیدا کی پس پیار اور محبت شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان ہوگی اور عداوت انسان اور شیطان کی درمیان ہوگی۔

حضرت آدم ان کی بیوی اور شیطان کا تذکرہ گذر چکا وہ تین افراد تھے تو پھر جمع کی ضمیر چھوڑ کر بعض مذکور کی طرف ضمیر کیوں لوٹائی باوجود یہ کہ یہ بات طریقہ کلام کے مخالف ہے جب کہ لفظ اور معنی بھی ضمیر جمع کا تقاضہ کر رہے ہیں اس کے جواب میں زسخشری کچھ نہیں کر سکے؟

باقی سورۃ طہ میں جو اللہ تعالیٰ کا یہ قول مذکور ہے ”قال اهبطا منها جہنما بعضکم لبعض عدو“ (سورۃ طہ ۱۲۳) تو اس میں (اهبطا) کی ضمیر یا تو حضرت آدم اور حواء کی طرف لوٹے گی یا حضرت آدم اور ابلیس کی طرف بیوی کو اس لئے ذکر نہیں کیا کہ وہ آدم کے تابع تھی۔ اس تقدیر پر عداوت مخاطبہن اہباط کے لئے ہوگی جو کہ حضرت آدم اور ابلیس ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے پہلی تقدیر پر آیت دو باتوں کو شامل ہوگی۔

(۱) اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کو اترنے کا حکم دیا۔ (۲) اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا علیہم السلام اور ابلیس علیہ اللعنتہ کے درمیان دشمنی کی خبر دی ہے اسی وجہ سے دوسری ضمیر جمع کی لائی ہے اور پہلی مفرد کی اور ابلیس کا اس عداوت میں داخل ہونا ضروری اور قطعی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ان هذا عدو لك ولزوجك .

یہ دشمن تیرا ہے اور تیرے جوڑے کا۔

اور اولاد آدم کو مخاطب کر کے فرمایا۔

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

تحقیق شیطان تمہارا دشمن ہے سو تم بھی سمجھ

(فاطر ۶) رکھو اس کو دشمن۔

آپ غور فرمائیں کہ جہاں عداوت کا ذکر ہے وہاں ثنیہ کی ضمیر کو چھوڑ کر کیسے جمع کی ضمیر لائی گئی؟ اہباط کو کبھی صیغہ جمع سے ذکر کیا کبھی ثنیہ کے صیغہ سے اور کبھی مفرد سے جیسا کہ

سورۃ اعراف میں ہے ”قال اھبط منہا“ اور اسی طرح سورۃ ص میں یہ واحد کی ضمیر صرف ابلیس کے لئے استعمال ہوئی ہے اور حضرت آدم اور ان کی بیوی کے لئے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ قصے کا مدار ہی ان پر ہے اور جہاں تثنیہ کی ضمیر استعمال کی گئی ہے تو اس سے مراد یا تو حضرت آدم اور ان کی بیوی ہوں گے کیونکہ ان ہی دونوں نے درخت کھا کر معصیت پر اقدام کیا، یا ضمیر تثنیہ کا مرجع حضرت آدم اور ابلیس ہوتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ثقلین کے باپ اور اپنی ذریت کی اصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے حالات اور معاملے اور انجام کار کا ذکر فرما کر دونوں کو اپنی اپنی اولاد کے لئے عبرت کا سامان بنایا، جس کے بارے میں دو اقوال ذکر کر لئے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے قول ”۵۲ اھبطا منہا جمعہا“ میں ضمیر تثنیہ کا مرجع حضرت آدم اور ابلیس ہیں دلیل اس کی یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے معصیت کا ذکر کیا تو وہاں اکیلے حضرت آدم کا ذکر کیا آپ کی بیوی کا ذکر نہیں کیا، چنانچہ ارشاد ہے۔

﴿وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا﴾ (سورۃ طہ ۱۲۱ ۱۲۳)

اور حکم ٹالا آدم نے اپنے رب کا پھر راہ سے
بہکا پھر نواز دیا اس کو اس کے رب نے پھر
متوجہ ہوا اس پر اور راہ پر لایا اور فرمایا اترو
یہاں سے دونوں اکٹھے۔

یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ اس میں مخاطب بالاہباط حضرت آدم اور وہ جس نے ان کے لئے معصیت مزین کر کے دکھائی (یعنی ابلیس) ہیں اور حضرت آدم کی بیوی اس میں تبعاً داخل ہیں کیونکہ یہاں مقصود انسانوں اور جنوں کو اس بات کی خبر دینی ہے کہ ان کے آباء پر کیا گزری اور اللہ کی معصیت کا ان پر کیا وبال پڑا یہاں دونوں کے اس مقصد کے حصول میں ان کے ابوین کا تذکرہ زیادہ بلوغ ہے نسبت صرف ابوا بشر علیہ السلام کے ذکر کے۔

اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ حضرت آدم کے ساتھ ان کی بیوی نے بھی کھایا اور حضرت آدم کے اترنے اور جنت سے نکلنے کی خبر سے بھی ان کی بیوی کا حکم معلوم ہوا اور وہ بھی اس طرف مائل ہوئی تھیں جس طرف آدم علیہ السلام مائل ہوئے تھے۔

(۸) اس قصے کے تمام مقامات میں جنت معرف بالامام معرفہ ذکر کی گئی ہے جیسا کہ ارشاد ہے

اسکن انت وزوجک الجنة (سورة البقرہ ۳۵) اور اس جیسی دوسری آیات میں بھی یہاں مخاطب حضرات اسی جنت الخلد کا ہی تصور کرتے ہیں جس کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے ان کے بن دیکھے اب غلبے کی وجہ سے یہ اسمیت سے نکل کر علم بنا جیسے مدینہ، نجف، بیت، کتاب، اس وجہ سے جہاں بھی جنت کا لفظ معرف بالمام آجائے تو اس سے وہ جنت مراد ہوگی جو مومنوں کے دلوں میں معلوم اور ذہنوں میں معبود ہے اور جہاں دو سری جنت کا ذکر ہوتا ہے تو اس کو نکرہ یا مقید بالا ضافت ذکر کیا جاتا ہے یا سیاق کلام اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ جنت زمین کی ہے نکرے کی مثال ”جنتین من اعناب“ (سورة الکف ۳۹) تیسری کی مثال (یعنی اضاقت) انا بلونہم کما بلونا اصحاب الجنة (سورة القلم ۱۷)

(۹) آدم علیہ السلام کی جنت جنت المادئی تھی، دلیل اس پر وہ حدیث ہے جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے نقل کی ہے ”کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو ان کو جنت کے پھلوں کا توشہ دیا اور ہر چیز کا بنانا سکھایا تمہارے یہ پھل جنت کے پھل ہیں صرف اس میں تغیر آتا ہے اور اس میں تغیر نہیں آتا۔

(۱۰) اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی ضمانت لی ہے کہ اگر آدم علیہ السلام توبہ کریں تو میں ان کو دوبارہ جنت میں لوٹاؤں گا جیسا کہ نہال نے سعید بن جبہ اور ابن عباس سے اللہ تعالیٰ کے اس قول ”فتلقى ادم من ربہ کلمات فتاب علیہ“ (سورة البقرہ ۳۷) کی تفسیر میں حدیث نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے میرے رب کیا آپ نے مجھے اپنے دست مبارک سے پیدا نہیں کیا فرمایا کیوں نہیں عرض کیا اے میرے رب کیا آپ نے اپنی روح مجھ میں نہیں ڈالی، فرمایا کیوں نہیں عرض کیا اے میرے رب کیا آپ کی رحمت آپ کے غضب پر غالب نہیں فرمایا کیوں نہیں عرض کیا مجھے خبر دے کہ اگر میں توبہ کروں اور اپنی اصلاح کر لوں تو آپ مجھے جنت میں لوٹائیں گے فرمایا کیوں نہیں لوٹاؤں گا۔

یہ بعض وہ دلائل تھے جن سے قائلین جنت الخلد نے استدلال کیا ہے اب ہم دوسرے فریق کے دلائل ذکر کریں گے۔

چوتھا باب

ان دلائل کا بیان جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت آدم جنت الخلد نہیں تھی بلکہ وہ زمین کی جنت تھی۔

اس قول کے اثبات کے لئے بہت سارے دلائل ہیں جن میں سے بعض کو ہم یہاں ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں کی زبان سے یہ خبر دی ہے کہ جنت الخلد میں دخول قیامت ہی کے دن ہو گا بھی اس میں دخول کا وقت نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے اپنی کتاب میں جنت الخلد کی صفات بیان فرمائی ہیں تو پھر یہ محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی صفات بیان کریں پھر وہ چیز اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ صفات پر نہ اترے ان حضرات کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کی صفات میں بیان کیا جو متیقن کے لئے تیار کی گئی ہے کہ وہ ”دارالمقامہ“ ہے (آبادی کا گھر) جو اس میں داخل ہو گا اس میں آباد رہے گا حالانکہ حضرت آدم جس جنت میں داخل ہوئے تھے اس میں آباد نہیں رہے تھے اس طرح اس کی صفات میں بیان کیا ہے کہ وہ ”جنت الخلد“ ہے یعنی ہمیشہ رہنے کا مقام) حضرت آدم علیہ السلام تو جنت میں ہمیشہ نہیں رہے تھے اور بیان کیا ہے کہ وہ ثواب اور بدلے کا گھر ہے امر نئی اور مکلف ہونے کی جگہ نہیں اور مطلق سلامتی کا گھر ہے ابتلاء و امتحان کی جگہ نہیں حالانکہ اس میں تو حضرت آدم علیہ السلام کا بہت بڑا امتحان لیا گیا وہ خوف اور غم کا گھر نہیں ہے حالانکہ ہمارے ماں باپ کو تو اس میں بڑا خوف اور غم لاحق ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ”دارالسلام“ (سلامتی کا گھر) رکھا ہے اور ہمارے ماں باپ تو اس میں فتنے سے سالم نہیں رہے تھے ”دارالقرار“ بھی اس کا نام ہے حالانکہ آدم اور حوا علیہم السلام کو وہاں قرار نصیب نہیں ہوا جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وما ہم منھا بمنزور جین“ (یہ لوگ وہاں سے نہیں نکالے جائیں گے) حضرت آدم اور حوا کو وہاں سے نکالا گیا اسی طرح ان کے متعلق ارشاد ہے ”لا یمسہم فیہا نصب“ (نہیں پہنچے گی ان کو جنت میں مشقت) جب کہ حضرت آدم علیہ

السلام اس میں خوفزدہ ہو کر بھاگے اور اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑنے لگے یہ تو بعینہ مشقت ہے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اہل جنت وہاں بکواس اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے جب کہ حضرت آدم نے ابلیس کی بکواس اور گناہ کی بات سنی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اہل جنت جنت میں بکواس اور جھوٹ نہیں سنیں گے حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام نے ابلیس کے جھوٹ کو سنا اللہ تعالیٰ نے جنت کا نام ”مقعد صدق“ (سچی بیٹھک) رکھا ہے۔ حالانکہ ابلیس علیہ اللعنة نے وہاں جھوٹ بھی بولا اور جھوٹ پر قسم بھی کھائی۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

انی جاعل فی الارض خلیفۃ (سورۃ) میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب۔
(البقرہ ۳۰)

یوں نہیں فرمایا انی جاعل فی جنت الماویٰ
فرشتوں نے کہا

أجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک قائم کرتا ہے تو زمین میں جو فساد کرے اس
الدماء (سورۃ البقرہ ۳۰) میں اور خون بہائے۔

مذکورہ احوال کا جنت الماویٰ میں پیش آنا محال ہے۔

(۳) ابلیس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس نے حضرت آدم سے کہا ”ہل ادلک علی شجرۃ الخلد و ملک لایبلی“ (کیا میں آپ کو ہمیشہ کا درخت اور نہ پرانی ہونی والی بادشاہی نہ بتاؤں) اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت الخلد میں ٹھہرایا ہوتا اور ایسی بادشاہی میں جو کبھی پرانی نہ ہو تو حضرت آدم نے شیطان کو یہ جواب کیوں نہیں دیا کہ آپ مجھے کیسی جنت الخلد بتا رہے ہیں جب کہ میں اس میں موجود ہوں اور وہ مجھے دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے بھی آدم علیہ السلام کو یہ خبر نہیں دی کہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے اگر آدم علیہ السلام جانتے کہ یہ دار الخلد ہے تو کبھی بھی شیطان کی نصیحت اور بات کی طرف مائل نہ ہوتے چونکہ وہ دار الخلد میں نہیں تھا سی لئے تو شیطان نے ان کو خلود کی لالچ دی۔

(۴) اگر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت الخلد میں ٹھہرایا ہوتا جو کہ پاکیزہ گھر ہے

اور اس میں پاکیزہ لوگ ہی داخل ہوتے ہیں تو ابلیس پلید مذموم راندہ درگاہ وہاں کیسے پہنچا اور
وسوسہ ڈالا؟ اور یہ وسوسہ یا تو اس نے دل میں ڈالا ہو گا یا کانوں میں دونوں تقدیروں پر یہ
لعین دارالمتقین میں کیسے پہنچا؟

اور اسی طرح جب شیطان سے کہا گیا کہ اترو تجھے اس میں تکبر کرنے کا حق نہیں ہے تو
پھر اس کے لئے یہ کہاں گنجائش تھی کہ وہ راندہ درگاہ ہونے کے بعد ساتویں آسمان کے اوپر
جنت المادئی میں چڑھ جاتا؟

پھر یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول

فما یكون لك ان تکبر فیها
ترجمہ ”تیرے لئے اس میں تکبر کا کوئی حق
نہیں کے مخالف ہو گا۔“
(سورۃ الاعراف ۱۳)

اگر تم یہ کہو کہ اس وسوسے کی صورت یہ تھی کہ ابلیس زمین پر تھا حضرت آدم اور حوا
آسمانوں پر تھے علیتین میں تو یہ عرف اور عقل دونوں کے خلاف ہے۔

اگر تم یہ کہو کہ اس نے سانپ کے پیٹ میں اندر پہنچ کر وسوسہ ڈالا یہ قول بہت ہی
زیادہ باطل ہے کیونکہ وہ راندہ درگاہ ہونے کے بعد کیسے جنت میں جاسکتا ہے اگرچہ سانپ کے
پیٹ میں کیوں نہ ہو؟

اگر تم یہ کہتے ہو کہ شیطان نے ان کے دلوں میں گھس کر وسوسہ ڈالا یہ بات بھی
ممنوع ہے کیونکہ اللہ نے خبر دی ہے کہ شیطان نے ان دونوں سے بالمشافہ بات کی جیسا کہ
ارشاد ہے۔

مانھا کما ربکما عن هذه الشجرة -

یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ شیطان اس وقت درخت اور ان دونوں کا مشاہدہ
کر رہا تھا پھر چونکہ آدم علیہ السلام جنت سے باہر تھے تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ”لم
انھکما عن تکما الشجرة“ یوں نہیں فرمایا ”عن هذه الشجرة“ اسی لئے تو شیطان نے ان
کو ہمیشہ رہنے کا لالچ دے کر اسم اشارہ حاضر کا استعمال کیا، کیونکہ وہ درخت ان کے سامنے تھا اور
اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ”لم انھکما عن تکما الشجرة“ جب ان دونوں کے وہاں

سے نکلنے کا ارادہ کیا تو اسم اشارہ بعید اور غائب کا لائے گویا کہ جنت ان کے لئے باقی نہیں رہی حتیٰ کہ اس درخت کا مشاہدہ بھی جس سے یہ منع کئے گئے تھے (۵) اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”لیہ حصہ الکلام الطہیب“ (اس کی طرف پاک کلمے چڑھتے ہیں) اور لعین کا وسوسہ تو اخبث الکلام تھا لہذا وہ اس مقدس مقام کی طرف نہیں چڑھ سکتا منذر نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے ”آدم علیہ السلام نام فی جنتہ“ (آدم علیہ السلام اپنی جنت میں سو گئے) حالانکہ نص اور مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جنت الخلد میں نیند نہیں ہوگی۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا ”ینام اهل الجنة“ (کیا اہل جنت سوتے ہیں) آپ نے فرمایا نہیں نیند موت کا بھائی ہے اور نیند وفات ہے قرآن کریم اس پر گواہ ہے وفات احوال کی تبدیلی کا نام ہے جب کہ دارالسلام تبدیلی احوال سے محفوظ ہے سویا ہوا آدمی مردہ ہے یا مردے کے مشابہ ہوتا ہے۔

میں کہتا ہوں، جس حدیث کی طرف انہوں نے موقوف ہونے کا اشارہ کیا ہے وہ مجاہد نے ابن ابی نعجم سے موقوفاً روایت کیا ہے فرمایا ”خلقت حواء من قصیری آدم و ہونا تم“ (حوا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلیوں سے اس حال میں پیدا ہوئی کہ وہ سو رہے تھے) اسباط سدی سے نقل کر کے کہتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا تو جوڑا نہ ہونے کی وجہ سے ان کو وحشت ہوتی تھی ایک مرتبہ جب وہ سونے کے بعد بیدار ہوئے تو اس کے سرہانے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے پسلی سے پیدا فرمایا تھا آدم علیہ السلام نے اس سے پوچھا آپ کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں عورت ہوں حضرت آدم نے فرمایا آپ کو کیوں پیدا کیا گیا وہ کہنے لگی اس لئے پیدا کی گئی ہوں تاکہ آپ کو مجھ سے آرام ملے ابن اسحاق ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر اونگھ طاری کی پھر اس کے بائیں طرف کی پسلیوں میں سے ایک پسلی لے لی اور اس جگہ کو گوشت سے بھر دیا حضرت آدم سو رہے تھے اور اپنی نیند سے اس وقت تک بیدار نہ ہوئے جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کی پسلی سے اس کی بیوی حواء کو پیدا نہیں کیا تاکہ اس کی پیدائش سے حضرت آدم کو آرام ملے جب حضرت آدم علیہ السلام سے اونگھ ختم ہوئی تو اپنے

پہلو میں اس کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا گوشت میرا خون اور میری روح ہے اس کے بعد حضرت آدم کو اس سے آرام ملا۔

قائلین جنت الارض کا کہنا ہے کہ اس میں کسی کا نزاع نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین میں پیدا کیا تھا۔ اور ایک مقام پر بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ پیدائش کے بعد ان کو آسمانوں میں منتقل کر دیا تھا ورنہ اس کا تذکرہ ضرور ہوتا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی اور حضرت آدم پر عظیم احسان تھا اور روح و بدن کا معراج ہوتا زمین سے لے کر آسمانوں کے اوپر تک اسی طرح ان حضرات کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کیسے منتقل کر کے آسمان کے اوپر ٹھہرایا جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس کی خبر دی تھی کہ میں زمین میں نائب پیدا کرنے والا ہوں۔

(۶) اس مسئلے میں ہمارے پاس اس کے سوا کچھ نہیں مگر یہ کہ ابلیس نے جب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان سے اتارا یہ ایک تکوینی بات تھی جس کے خلاف واقع ہونا ممکن نہیں تھا پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا اس کا کوئی ذکر نہیں کہ ابلیس کو سجدے کا حکم حضرت آدم کی پیدائش سے متصل تھا اگر یہ جنت آسمانوں کے اوپر ہوتی تو وہاں ابلیس کے چڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا جب کہ اس کو وہاں سے نکالا گیا تھا اور آپ لوگوں نے جو فرضیات فرض کئے ہیں یہ خواہ مخواہ کے تکلفات ہیں جیسا کہ کسی نے کہا کہ ابلیس عارضی طور پر چڑھا ہو گا جیسا کہ کسی نے کہا کہ سانپ نے اس کو داخل کیا تھا یا اس کے پیٹ میں گھس گیا تھا یا یہ کہ زمین سے ابلیس کا وسوسہ آسمانوں کے اوپر پہنچا وغیرہ وغیرہ، بخلاف ہمارے اس قول کے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے آسمانوں سے اتارا تو اس کی حضرت آدم سے سخت دشمنی پیدا ہوئی اور جہان کو جنت میں ٹھہرایا تو ان کے دشمن نے ان سے حسد کیا اور اپنے دھوکے اور فریب سے ان کے ٹکالنے میں خوب کوشش کی۔

(۷) وہ آیتیں اور حدیثیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جنت آدم جنت الخلد نہیں تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں سے وعدہ کیا ہے۔ (۱) اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو

پیدا کیا تو ان کو بتا دیا کہ آپ کی عمر کے ختم ہونے کا ایک وقت مقرر ہے اور یہ کہ آپ کو بقاء کے لئے پیدا نہیں کیا گیا جیسا کہ امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث نقل کی ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ آدم علیہ السلام ونفخ فیہ الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله باذنه. فقال ربہ یرحمک اللہ یا آدم. اذهب الی اولئک الملائکۃ الی ملأ منهم جلوس فقال. السلام علیکم قالوا. وعلیک السلام الخ ثم رجع الی ربہ فقال ہذہ تحیتک وتحیۃ بنیک بینہم فقال اللہ لہ ویداہ مقبوضتان. اختر ایہما شئت فقال اخترت یمین ربی وکلنا یدیہ یمین مبارکۃ ثم بسطہا فاذا فیہا آدم وذریۃ فقال رب ما هولاء. قال هولاء ذریۃک فاذا کل انسان مکتوب عن عینیہ عمرہ فاذا فیہا رجل أضو وہم قال یارب من ہذا؟ قال ہذا ابنک داؤد قد کتب لہ عمر اربعین سنۃ قال یارب زدہ فی عمرہ قال ذالک الذی کتبت لہ. قال ای رب فانی قد جعلت لہ من عمری ستین سنۃ قال الت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں روح پھونکی ان کو چھینک آئی الحمد للہ کہا اللہ کی توفیق سے اس کی حمد کہی اس کے رب نے کہا اے آدم اللہ تجھ پر رحم کرے ان فرشتوں کی طرف جا وہاں فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی ان کو سلام کہہ اس نے السلام علیکم کہا فرشتوں نے کہا تجھ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو پھر اپنے رب کی طرف لوٹا پس فرمایا یہ تیرا جواب ہے اور تیرے بیٹوں کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”س حال میں کہ اس کے دونوں ہاتھ بند تھے“ ان دونوں میں سے جس کو چاہے تو پسند کرے آدم نے کہا میں نے اپنے رب کا واہنا ہاتھ پسند کیا اور میرے رب کے دونوں ہاتھ بابرکت ہیں پھر اس کو کھولا اس میں آدم اور اس کی اولاد تھی کہا اے میرے رب یہ کون ہیں فرمایا یہ تیری اولاد ہیں ناگہاں ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس کی

وذلك قال : ثم أسكن الجنة ماشاء
 الله ثم أهبط منها فكان آدم عليه
 السلام يعد لنفسه فقال : فأتاه ملك
 الموت فقال له آدم وقد عجلت قد
 كتبت لي الف سنة قال بلى ولكنك
 جعلت لابنك داؤد ستين سنة فجحد
 فجحدت ذريته

عمر لکھی ہوئی تھی ان میں ایک آدمی بہت
 روشن تھا فرمایا اے پروردگار یہ کون ہے
 فرمایا یہ تیرا بیٹا داؤد ہے میں نے اس کی عمر
 چالیس برس لکھی ہے کہا اے میرے
 پروردگار اس کی عمر زیادہ کر فرمایا یہ میں نے
 اس کے لئے لکھ دی ہے آدم نے کہا میرے
 پروردگار میں نے اپنی عمر سے اس کو ساٹھ

سال دے دیئے ہیں فرمایا تیری مرضی ہے پھر
 آدم جنت میں ٹھہرے جب تک اللہ نے چاہا
 پھر جنت سے اتارے گئے اور آدم اپنی عمر شمار
 کرتے رہتے تھے ملک الموت ان کے پاس آیا
 آدم نے کہا تو نے جلدی کی ہے میری عمر
 ہزار برس لکھی گئی تھی فرشتے نے کہا کیوں
 نہیں لیکن تو نے ساٹھ برس اپنے بیٹے داؤد کو
 دیئے تھے آدم نے انکار کر دیا پس اس کی
 اولاد بھی انکار کرتی ہے آدم بھول گئے تھے
 اس کی اولاد بھی بھولتی ہے آپ نے فرمایا اس
 روز سے لکھنے اور گواہ بنانے کا حکم دیا گیا۔

ونسى فنسى ذريته قال فمن
 يومئذ أمر با الكتاب والشهود قال:
 هذا حديث حسن غريب من هذا
 الوجه وقدروى من غير وجه عن ابى
 هريرة

یہ حدیث اس میں صریح ہے کہ حضرت آدم عليه السلام اس دارالبقاء میں پیدا نہیں کئے
 گئے تھے کہ جس میں داخل ہونے والے پر موت نہیں آتی بلکہ ان کو دارالفناء میں پیدا کیا گیا تھا
 جس کے باشندگان کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر لیا ہے اور پیدائش کے بعد اسی میں
 ٹھہرائے گئے تھے۔

اعترض

جب حضرت آدم عليه السلام کو یہ معلوم تھا کہ ان کی عمر کے ختم ہونے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس جنت میں وہ ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں آئے تو ان کو ابلیس کے دھوکے کا کیسے پتہ نہیں چلا جب ابلیس نے کہا ”کیا میں سدا زندہ رہنے کا درخت نہ بتاؤں“ ”یا تم دونوں ہمیشہ زندہ رہو گے“؟

اس کا جواب دو طرح سے دیا گیا ہے۔ (۱) خلد دوام اور بقاء کو مستلزم نہیں بلکہ اس سے مدت طویل مراد ہے جیسا کہ عنقریب آئے گا۔

(۲) ابلیس نے جب قسم کھائی اور آدم کو دھوکہ دیا اور ہمیشہ رہنے کی لالچ دی تو حضرت آدم اپنی مقرر شدہ عمر بھول گئے۔ یہ بات سب جانتے ہیں جس میں کوئی مسلمان اختلاف نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اس زمین کی خاک سے پیدا کیا اور خبر دی کہ آدم کو اس نے چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور کھنکھناتے سنے ہوئے گارے سے پیدا کیا پس کہا گیا کہ وہ صلواتہم خشک مٹی ہے اور کسی نے کہا کہ صلواتہم وہ ہے جب بو بدل دیا جائے یہ عرب کے محاورے کے مطابق ہے چنانچہ کہتے ہیں ”صل اللہنعم“ جب وہ سڑ جائے ”حماء“ کالے بدبودار گارے کو کہتے ہیں ”المسنون“ سنی ہوئی یہ سب اس مٹی کے حالات ہیں جو حضرت آدم کا پہلا مبداء تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کے بارے میں مختلف احوال کی خبر دی کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے پھر جما ہوا خون پھر گوشت کالو تھرا“ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی کبھی خبر نہیں دی کہ حضرت آدم کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں کے اوپر لے گئے، پیدائش سے پہلے اور نہ پیدائش کے بعد لہذا حضرت آدم کے اوپر چڑھنے پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔

یہ بات بھی سب جانتے ہیں کہ آسمانوں کے اوپر زمین کی بدبودار مٹی کی کوئی جگہ نہیں ہے بلکہ اس کا محل یہ زمین ہے جو کہ متغیر اور فاسد چیزوں کا گڑھ ہے یہ ایسا معاملہ ہے جس میں عقلمندوں کو کبھی کوئی شک نہیں رہا۔

(۸) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

و اما الذین سیعدوا ففی الجنة خلدین اور جو لوگ نیک بخت ہیں سو جنت میں ہیں
 فیہا مادامت السموت و الارض الا ہمیشہ رہیں اس میں جب تک رہے آسمان اور
 ماشاء ربك عطاءً غیر محدود۔ زمین مگر جو چاہے تیرا رب بخشش ہے بے
 (سورۃ ہود ۱۰۸) انتہا۔

اس آیت میں حق تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ جنت الخلد کی عطاء بے انتہا ہے حضرت آدم
 علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبریں دی ہیں۔ (۱) اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین سے
 پیدا کیا۔ (۲) زمین میں خلیفہ بنایا۔ (۳) اور ابلیس جب سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ
 ہوا آسمان سے تو اس نے وسوسہ وہاں ڈالا جہاں حضرت آدم شرائے گئے تھے۔ (۴) فرشتوں
 سے بھی یہ کہا کہ میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ (۵) جنت الخلد امتحانات اور
 تکالیف پر ثواب اور بدلے کا مقام ہے۔ (۶) وہاں نہ بکواس ہوگی اور نہ گناہ کی بات اور نہ
 جھوٹ۔ (۷) جو اس میں داخل ہو گا نہ نکلے گا اس سے اور نہ غمگین ہو گا نہ خوفزدہ ہو گا نہ
 سوئے گا۔ (۸) اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر حرام قرار دی ہے۔ (۹) اور ابلیس تو
 رئیس الکفار ہے جب یہ مقدمات جوڑ لئے جائیں اور ایک منصف آدمی اس میں غور کرے تو
 اس کے سامنے دلیل کا پہاڑ رونما ہو گا اور وہ اس کی طرف تیزی سے چلے گا اور خود کو تقلید
 کی پستی سے بچا کر اپنے اوپر احسان کرے گا۔ اور حق اس کے سامنے واضح ہو گا اللہ ہی توفیق
 دینے والے ہیں یہ بعض وہ دلائل تھے جو اس جماعت نے اپنے قول پر پیش کئے۔



پانچواں بابقائلین جنت الخلد کے دلائل کے جوابات کا بیان

(۱) تمہارا یہ کہنا کہ ”ہمارا قول اس فطرت کے موافق ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا“ تو بات یہ ہے کہ مسئلہ سماعی ہے جس کا پتہ اخبار الرسل سے چلا ہے لہذا ہم اور آپ اس مسئلے کو قرآن سے حاصل کریں گے نہ کہ عقل اور فطرت سے اس میں اس قول کی پیروی کی جائے گی جس پر کتاب و سنت دلالت کریں ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم اپنے مدعا (جنت الخلد) پر کسی ایک صحابی یا تابعی کی حدیث یا صحیح اثر یا حسن پیش کرو ہرگز نہیں پیش کر سکو گے حالانکہ ہم نے آپ کو سلف کے اقوال پیش کئے جو اس کے خلاف پر دلالت کر رہے ہیں ہاں صرف یہ کہ جب اس قصے میں جنت مطلق کا لفظ وارد ہوا اور پھر اطلاق کی وجہ بعض اوصاف میں جنت الخلد سے موافق ہوئی تو بہت سارے لوگوں کے اوہام اس طرف گئے کہ یہ بعینہ وہی جنت الخلد تھی، اگر فطرت سے تمہاری مراد یہی ہے تو یہ تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گی اور اگر اس سے تمہاری مراد یہ ہے کہ اللہ نے اس فطرت پر ایسا پیدا کیا جس طرح کہ سب لوگوں کی فطرت ہے کہ عدل اچھا ہے اور ظلم برا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے فطری امور تو یہ دعویٰ باطل ہے کیونکہ جب ہم نے اپنی فطرت پر نظر کی تو اس پر ہمارا علم وہ نہیں تھا جو واجبات کے وجود اور محال کے محال سمجھنے پر تھا۔

(۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اور آدم عليه السلام کے قول ”هل اخرجكم منها الا خطية ابيكم“ سے تمہارا استدلال یہ حدیث تو حضرت آدم کو غلطی کے قبح سے موخر ہونے پر دلالت کرتی ہے جو دنیا میں ان سے صادر ہوئی تھی اور اس غلطی کی وجہ سے ان کو جنت سے نکالا گیا تھا جیسا کہ دوسرے الفاظ میں ہے ”مجھے اس درخت کے کھانے سے منع کیا گیا تھا میں نے اس کو کھایا“ اب اس میں کونسی چیز ہے جو جنت الخلد ہونے پر دلالت کرتی ہو خواہ دلالت مطابقی ہو یا تضمنی ہو یا التزامی؟ اسی طرح موسیٰ عليه السلام کا قول ”اخرجتنا ونفسك

من الجنة“ اس میں تو یہ نہیں فرمایا کہ ”اخر جتنا من الجنة الخلد“۔

(۳) تمہارا یہ استدلال کہ اگر جنت الخلد تسلیم نہ کی جائے تو یہ لوگ زمین کے باغوں سے نکلے ہوں گے جو اس جنت کی جنس ہو گا؟ جنت کا اطلاق اگرچہ ان باغوں پر بھی ہوتا ہے لیکن جنت الخلد اور جنت آدم کے درمیان تفاوت اللہ ہی جانتے ہیں وہ تو جنت الخلد کی نسبت سے جیل خانے کی مانند ہے اور زمین میں ہونے کی وجہ سے زمین سے اشتراک تفاوت کی نفی نہیں کرتا کیونکہ زمین کی چیزوں میں بہت بڑا تفاوت ہوتا ہی ہے۔

(۴) اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”وقلنا اهبطو“ سے تمہارا استدلال کہ جنت سے نکلنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ ”هبوط“ آسمان سے زمین کی طرف اترنے کو مستلزم نہیں ہاں اونچے مکان سے نیچے کی طرف اترنے کو مستلزم ہے اور اس کا تو انکار نہیں کیونکہ یہ جنت زمین کے اونچے مقام پر تھی تو ان سے کہا گیا اس سے نیچے کی طرف اترو اور ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ معاملہ حضرت آدم اور ان کی بیوی اور ان دونوں کے دشمن (ابلیس) تینوں کا تھا اگر یہ جنت آسمان میں ہوتی تو پھر شیطان کو کیسے قدرت ہوئی ان پر جب کہ سجدے سے انکار کی وجہ سے اس کو اتارا گیا تھا اور آیت تمہارے خلاف بڑی ظاہر دلیل ہے اور تمہارے خواہ مخواہ کے تکلفات اور مفروضات سے تمہیں کچھ فائدہ نہیں ملے گا اور (سورۃ البقرہ ۳۶) ولکم فی الارض مستقر و متاع الیٰ حون۔ والی آیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ لوگ پہلے زمین میں نہیں تھے کیونکہ ”ارض“ اسم جنس ہے اور یہ لوگ زمین کے اس اونچے اور خوشگوار مقام پر تھے جس میں ان کو بھوک، پیاس، گرمی، سردی نہیں لگتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا زمین کے اس مقام کی طرف اترو جس میں یہ حالتیں تمہیں پیش آئیں گی اور زمین کے اسی حصے میں تمہارا جینا مرنا اور قبروں سے نکلنا ہو گا۔

(۵) تمہارا اس سے استدلال کہ جنت آدم کی اللہ تعالیٰ نے ایسی صفات بیان فرمائی ہیں جو دنیا میں نہیں ہو سکتی سو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صفات اس زمین کی نہیں ہو سکتی جس میں وہ اتارے گئے تھے۔

(۶) اور تمہارا یہ استدلال کہ حضرت آدم جانتے تھے کہ دنیا فانی ہے تو اگر یہ جنت زمین میں

ہوتی تو حضرت آدم ابلیس کے قول ”هل ادلك على شجرة الخلد وملك لاهبلى (سورۃ طہ ۱۲) میں جھوٹ کو سمجھ لیتے اس کے دو جوابات ہیں۔

(۱) یہ لفظ خلد پر دلالت کرتا ہے یہ اس دوام سے عام ہے جس میں انقطاع نہ ہو کیونکہ یہ لغت میں ”مکث طویل“ کو کہتے ہیں۔ اور ہر چیز کا مکث اس کے حساب سے ہوتا ہے عرب کا محاورہ بھی اسی سے ہے۔ ”رجل مغلدا اذا اسن وکبر“

الادسادا هاددا دفعت عنه الريح خوالد سحوم

اس کی نظیر آیت کے اندر پہلے زمانے والے پر قدیم کا اطلاق ہے، چنانچہ ارشاد ہے ”کالعر جون القدیم“ ”وانک لفی ضلک القدیم“ اور بعض گنہگاروں مثلاً قاتل کے عذاب پر اللہ تعالیٰ نے خلود فی النار کا اطلاق کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کشی کرنے والے پر بھی اس کا اطلاق کیا ہے۔

(۲) دنیا کے انقطاع اور آخرت کے آنے کا علم وحی سے حاصل ہوتا ہے اور حضرت آدم اس وقت نبی نہیں بنے تھے جس سے یہ جان لیتے ہاں حضرت آدم پر جو وحی اتری اور کچھ صحیفے بھی نازل ہوئے جیسا کہ حضرت ابوذر کی حدیث میں ہے سب کے سب زمین کی طرف اتارنے کے بعد ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلما يضل ولا يشقى (سورۃ طہ ۱۲۳)

اور اسی طرح سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے ”قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم منى هدى (سورۃ البقرہ ۳۸)

(۷) تمہارا استدلال کہ جب جنت معرف باللام ہو تو اس سے جنت الخلد مراد نہیں ہوتی جیسا کہ ارشاد ہے ”انا بلونا ہم کما بلونا اصحاب الجنة اذا قسموا البصر منها مصبحون (سورۃ القلم ۱۷)

اور (۸) تمہارا یہ استدلال کہ سیاق یہاں دلالت کرتا ہے کہ یہ زمین کی جنت تھی (جواب) ہم کہتے ہیں کہ جو دلائل ہم نے ذکر کئے سب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جنت آدم زمین میں

تھی اس وجہ سے ہم نے اس کے سبب کی طرف رجوع کیا کیونکہ صحیح دلیل کی دلالت کو معطل بنانا جائز نہیں ہے۔

(۹) ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کہ ”اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا اور ان کو پھلوں کا توشہ دیا“ جس پر قرآن دلالت کرتا ہے اس میں اس سے بڑھ کر کوئی زیادتی نہیں سوائے ”تزوہ منہا“ کے اور یہ جنت الخلد ہونے کا تقاضا نہیں کرتا۔

(۱۰) تمہارا استدلال کہ دنیا کے پھل متغیر ہوتے ہیں اور وہاں کے پھلوں میں تغیر نہیں آتا (جواب) یہ بات تمہیں کہاں سے ملی کہ جس جنت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ٹھہرایا تھا اس کے پھلوں میں تغیر آتا تھا اور یہاں کے پھل بھی متغیر ہوتے ہیں؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے ”لو لانا بنو اسرائیل لم یختار اللحم“ (اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت نہ سرتا) اور اللہ تعالیٰ نے اس عالم کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کے کھانے کو سو سال باقی رکھا اور کوئی تغیر اس میں نہیں آیا۔

(۱۱) تمہارا اس سے استدلال کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اس کی ضمانت دی تھی کہ اگر وہ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ لوٹائیں گے اس جنت میں؟

اس میں کوئی شک نہیں کہ معاملہ اسی طرح ہے لیکن معلوم نہیں کہ یہ ضمانت بعینہ اسی جنت کی طرف لوٹانے کو شامل ہے بلکہ جب ان کو جنت الخلد میں لوٹائیں گے تب ضمانت صحیح طرح پوری ہوگی اور لفظ ”عود“ سے بعینہ رجوع الی حالت الاولیٰ (پہلی حالت کی طرف لوٹنا) لازم نہیں آتا نہ باعتبار زمانہ اور نہ مکان کے اور نہ مثال کی طرف جیسا کہ قوم شعیب نے ان سے کہا۔

قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی بئسک ہم نے بہتان باندھا اللہ پر جھوٹا اگر
ملتکم بعد اذ نجنا اللہ منها وما یکون لوٹ آئیں تمہارے دین میں بعد اس کے کہ
لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا۔ نجات دے چکا ہم کو اللہ اس سے اور ہمارا
(سورۃ الاعراف ۸۹) کام نہیں کہ لوٹ آئیں اس میں مگر یہ چاہے
اللہ۔

اور اللہ تعالیٰ نے ظہار کرنے والے شخص کو عائد (لوٹنے والا) قرار دیا دوسری مرتبہ وطئی کے ارادے سے یا نفس وطی سے یا رکنے سے اور ان میں سے ہر ایک پہلے کا غیر ہے یہ وہ جوابات تھے جو اس جماعت نے اپنے مخالفین کو دیئے۔



چھٹا باب

(قائلین جنت الخلد کی طرف سے اپنے مخالفین کے دلائل کے جوابات کا بیان)

(۱) آپ لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جنت الخلد میں داخلہ قیامت کے دن ہو گا بھی اس میں داخل ہونے کا وقت نہیں آیا یہ کہنا تو مطلق دخول جو کہ استقرار اور دوام کے لئے ہو گا صحیح اور حق ہے ”لیکن عارضی دخول تو قبل از قیامت بھی ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے موقع پر جنت میں داخل ہوئے تھے اور شہید مومنوں کی روحیں برزخ کے اندر جنت میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جس کے داخل ہونے کی خبر دی ہے وہ دخول خاص قیامت کے دن ہمیشگی کے لئے ہو گا اس سے یہ بات کہاں سے ثابت ہوئی کہ مطلق دخول دنیا میں نہیں ہو سکتا اس سے تمہارے اس استدلال کا جواب نکل آیا کہ وہ دار الخلد اور دار المقام ہے۔

(۲) باقی جتنے طریقوں سے تمہارے متدللات ہیں کہ ان میں سے کوئی جنت آدم میں موجود نہیں تھا جیسے ننگا ہونا، تکلیف کا پہنچنا، غم، بکواس اور جھوٹ وغیرہ یہ سب چیزیں حق ہیں اس کا نہ ہم انکار کرتے ہیں اور نہ اہل اسلام میں سے کوئی اور اس کا منکر ہے البتہ یہ صفات اس کی اس وقت ہوں گی جب اس میں قیامت کے دن مسلمان داخل ہوں گے جیسا کہ سب آیتوں کا سیاق اس پر دلالت کرتا ہے اس بات میں کوئی منافات نہیں کہ اس وقت جنت ایسی تھی اور مومنوں کے داخل ہونے کے بعد اس صفت سے متصف ہوئی جس کی خبر خدا تعالیٰ نے دی ہے ان دو باتوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔

(۳) تمہارا یہ استدلال کہ جنت دارالجزاء اور ثواب ہے دارالکلیف نہیں ہے حالانکہ اس میں تو حضرت آدم کو درخت کے کھانے سے منع فرما کر مکلف بنایا گیا تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جنت دارالکلیف تھی دارالخلود نہیں تھی؟ اس کے دو جوابات ہیں۔

(۱) اس کا دارالہ تکلیف ہونا اس وقت ختم ہو گا جب اس میں قیامت کے دن مسلمان داخل ہوں گے اور دارالدنیا میں تو اس کے اندر تکلیف کا وقوع مطلق عدم تکلیف پر دلالت نہیں کرتا اور کیوں نہیں جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا ”گذشتہ رات میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے ایک عورت کو دیکھا جو ایک محل کے کونے میں وضو کر رہی تھی میں نے اس سے پوچھا آپ کس کے لئے ہیں“ (الحديث) اور یہ ممتنع نہیں ہے کہ قیامت سے پہلے جنت میں کوئی اللہ کے حکم سے عبادت کرتا ہو بلکہ اس کا وقوع بھی ہے کیونکہ جنت میں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے احکام کے مامور ہیں جو اس سے تجاوز نہیں کرتے برابر ہے کہ اس کو مکلف ہونا قرار دیا جائے یا نہ۔

(۲) جنت میں اعمال کا مکلف ہونا ایسے نہیں ہوتا جیسا کہ دنیا میں روزہ نماز جہاد وغیرہ سے مکلف ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے تمام درختوں میں سے صرف ایک ہی درخت سے منع کیا گیا تھا بعینہ ایک ہی درخت سے منع کیا گیا تھا یا نوع سے اس قدر تکلیف کا دارالہ مخلود میں وقوع ممتنع نہیں ہے۔

اگر اس سے تمہاری مراد یہ ہے کہ جنت ایسی دارالہ تکلیف نہیں ہے کہ جس میں کسی وقت بھی تکلیف کا وقوع ممتنع ہو تو اس پر کوئی دلیل نہیں اور اگر تمہاری مراد یہ ہے دنیا کی تکالیف اس سے بالکل منتفی ہے یہ بات تو حق ہے لیکن تمہارے مطلوب پر دلالت نہیں کرتا۔ (۳) اور حضرت آدم کی نیند سے تمہارا استدلال کہ وہ سوئے تھے اور اہل جنت تو سوتے نہیں؟ اگر حضرت آدم کا سونا نقل سے ثابت ہو تو اہل جنت سے نیند اس وقت منتفی ہوگی جس دن وہ ہمیشہ کے لئے داخل ہوں گے جس کے بعد وہ مریں گے نہیں قیامت سے پہلے اس سے نیند کا منتفی ہونا لازم نہیں آتا۔

(۵) تمہارا استدلال کرنا بلیس کے وسوسے سے کہ اس نے آسمان سے نکلنے اور اترنے کے بعد وسوسہ ڈالا تھا خدا کی قسم یہ بات تمہارے قول کے صحیح ہونے پر سب سے زیادہ ظاہر اور بہت قوی دلائل میں سے ہے اور یہ تکلفات جس کو آسمان پر چڑھنے اور جنت میں داخل ہونے کے لئے کرنے پڑتے ہیں کوئی منصف شخص اس کو پسند نہیں کرتا لیکن اس سے ابلیس کے آسمان پر

چڑھنے کا امتناع بھی لازم نہیں آتا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان اور ابتلاء کو پورا کرنے کے لئے عارضی طور پر اس کے لئے اسباب پیدا فرمادیئے ہوں اگرچہ جنت اس کے لئے اس وقت پہلے کی طرح قرار گاہ نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ اس بات کی خبر دے چکے ہیں کہ پیغمبر ﷺ کی بعثت سے پہلے شیاطین آسمانوں کے قریب جا کہ بیٹھ جاتے تھے اور کچھ وحی وغیرہ سن لیتے تھے لیکن ان کا یہ چڑھنا عارضی ہوتا تھا یہ لوگ وہاں ٹھہر نہیں سکتے تھے باوجودیکہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا "ہبطوا بعضکم لبعض عدو" تو اس اترنے کے حکم اور شیاطین کے چڑھنے میں کوئی منافات نہیں ہے کیونکہ اس کا احتمال ہے اللہ تعالیٰ ہی زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔

(۶) تمہارا اس سے استدلال کرنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر کی حد بتا دی تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمر کا بتا دینا جنت الخلد میں داخل کرنے اور کچھ وہاں ٹھہرانے کے منافی نہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ خبر دینا کہ جنت الخلد میں داخل ہونے والا نہ مرے گا اور نہ اس سے نکلے گا یہ تمام چیزیں قیامت کے دن ہوں گی۔

(۷) اور تمہارا یہ استدلال کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین سے پیدا کیا ہے اس میں تو شک نہیں لیکن یہ کہاں سے ثابت ہے کہ اس کی خلقت زمین ہی میں تمام ہوئی تھی چنانچہ بعض آثار میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو چالیس دن جنت کے دروازے پر ڈالے رکھا تو ابلیس نے اس کے ارد گرد چکر لگانا اور یوں کہنا شروع کیا کہ کس کام کے لئے تجھے پیدا کیا گیا اور جب اس کے پیٹ کو دیکھا تو سمجھا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر قابو نہیں پاسکتی ہے اور کہنے لگا کہ اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اس کو ہلاک کر دوں گا اور اگر اس کو مجھ پر مسلط کیا تو میں اس کی نافرمانی کروں گا باوجودیکہ حق تعالیٰ کا ارشاد

وعلم ادم الاسماء کلھا ثم عرضہم اور سکھلا دیئے اللہ نے آدم کو نام سب علی الملائکة فقال انبئونی باسماء چیزوں کے پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو ہتھولاء ان کنتم صدقین. قالوا فرشتوں کے پھر فرمایا بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر سبحنک لاعلم لنا الا ما علمتنا انک تم سچے ہو بولے پاک ہے تو ہم کو معلوم نہیں انت العلیم الحکیم. قال یا آدم انہم مگر جتنا تو نے ہم کو سکھایا بیشک تو ہی ہے اصل

باسمآہم فلما انباءہم، بأسمائہم قال الم جاننے والا حکمت والا فرمایا اے آدم بتا دے اقل لکم انی اعلم غیب السموت فرشتوں کو ان چیزوں کے نام پھر جب بتا دیئے والأرض. (سورۃ البقرہ ۳۱-۳۳) اس نے فرمایا کیانہ کہا تھا میں نے تم کو کہ میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی۔

بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جب حضرت آدم نے فرشتوں کو نام بتائے تو اس وقت ان کے ساتھ آسمان میں تھے ایسا تو ہوا نہیں کہ وہ سب کے سب نام سننے کے لئے زمین پر اترے تھے اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کو زمین ہی میں مکمل کیا ہو تو اس سے اس بات کا منع لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں اپنے تدبیر اور قدرت کے تحت آسمان پر چڑھا دیا ہو اور پھر زمین میں لوٹایا ہو جیسا کہ حق تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا اور قیامت سے پہلے ان کو زمین پر اتاریں گے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور بدن کے ساتھ رات کے وقت آسمانوں کی سیر کرائی۔

یہ قائلین جنت الخلد کی طرف سے اپنے مخالفین کے دلائل کے جوابات تھے۔ واللہ

اعلم۔

ساتواں باب

ان لوگوں کے شبہ کا بیان جن کا کہنا ہے کہ جنت ابھی پیدا نہیں کی گئی۔

(۱) یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر جنت ابھی پیدا کی گئی ہوتی تو قیامت کے دن ضروری ہے کہ وہ اور اس میں رہنے والے فنا ہو جائیں اور مرجائیں کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

کل شیء مالک الیوم جہہ (القسم ۸۸)

(ترجمہ) ہر چیز فنا ہے مگر اس کی ذات

اور اسی طرح ارشاد ہے۔

کل نفس ذائقة الموت (المران ۱۸۵) (ترجمہ) ہر جی کو چکھنی ہے موت

لہذا اس میں حوریں اور غلمان مرجائیں گے حالانکہ اللہ تعالیٰ خبر دے چکے ہیں کہ جنت دارالخلود ہے اور اس کے اندر لوگ ہمیشہ رہیں گے کبھی نہیں مریں گے اور یہ جائز نہیں کہ اللہ کی خبر کے خلاف ہو جائے اور یا اس پر نسخ آجائے۔

(۲) یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام ترمذی نے اپنے جامع ترمذی میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے۔

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت ابراهيم ليلة اسرى بي فقال: يا محمد اقرى امتك مني السلام واخبرهم ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وانها قيعان، وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا اے محمد اپنی امت کو میرا سلام کہہ دو اور پھر ان کو بتادو کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور پانی میٹھا ہے اور جنت چٹیل میدان ہے اور اس کے درخت سبحان اللہ، الحمد للہ، ولا اله الا اللہ واللہ اکبر ہیں۔

اور اسی طرح اس بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے "سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ" پڑھ لیا جنت میں اس کے لئے ایک کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر جنت اب پیدا کی گئی ہوتی تو وہ چٹیل میدان نہ ہوتی ورنہ پھر درخت لگنے کا کیا مقصد ہو گا؟

(۳) یہ لوگ دلیل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرعون کی بیوی کی دعاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ فرعون کی بیوی نے دعا مانگی رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اے اللہ میرے لئے جنت میں گھر بنا دے) اور یہ محال ہے کہ ایک شخص کے لئے کپڑے بنائے گئے اور گھر بنایا گیا ہو اور وہ پھر بھی کہتا رہے کہ میرے لئے کپڑا بناؤ اور گھر بناؤ؟ اور اس بارے میں سب سے زیادہ صریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے "سَبَّحْتَ لِلَّهِ سَجْدًا بَنِيَّ الْجَنَّةِ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ" (جو اللہ کی رضا کے لئے مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لئے گھر بنائیں گے) یہ جملہ شرط اور جزاء سے مرکب ہے اور اہل عربیت کا اس پر اجماع ہے کہ جزاء شرط کے بعد واقع ہوتی ہے۔

(۴) اور دلیل میں یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اس پر آثار وارد ہیں کہ فرشتے جنت میں درخت لگاتے اور تعمیر کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ عمل میں لگا رہتا ہے اور جب بندہ عمل چھوڑ دیتا ہے تو فرشتے بھی اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں۔

(۵) ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بچے کی روح قبض کر لیتے ہیں تو (باوجود جاننے کے) ملک الموت سے پوچھتے ہیں کہ اے ملک الموت آپ نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی اے ملک الموت کیا آپ نے اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے ٹکڑے کی روح قبض کر لی؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں ارشاد ہوتا ہے تو اس وقت میرے بندے نے کیا کہا عرض کرتا ہے آپ کی تعریف کی اور "اللہ وانا لہ راجعون" پڑھا ارشاد ہوتا ہے کہ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔

اور مسند میں بھی اس طرح کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو

شخص رات دن میں فرض کے علاوہ بارہ رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنائیں گے یہ بدعتوں اور معتزلہ کا قول نہیں ہے جیسا کہ تم سمجھتے ہو یہ ہے ابن مزین جو اپنی تفسیر میں ابن نافع سے نقل کرتے ہیں جو کہ ائمہ حدیث میں سے ہیں کہ جب اس سے جنت کے بارے میں پوچھا گیا کہ آیا وہ اب پیدا کی گئی ہے؟ تو جواب میں فرمایا کہ اس مسئلے میں کلام سے سکوت ہی بہتر ہے۔

واللہ اعلم



مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

آٹھواں باب

اس جماعت کے دلائل کے جوابات کا بیان جن کا عقیدہ ہے کہ جنت اب تک پیدا نہیں کی گئی

(۱) فی الحال وجود جنت پر پہلے باب میں کافی مقدار میں دلائل ذکر ہوئے اب ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارا یہ کہنا کہ جنت ابھی تک پیدا نہیں کی گئی اس سے تمہاری کیا مراد ہے اگر تمہاری مراد اس سے یہ ہے کہ جنت اب معدوم محض ہے ابھی تک وجود میں داخل نہیں ہوئی بلکہ ایسا ہے جیسا کہ قرب قیامت میں صور پھونکا جائے گا اور اس کے بعد لوگ قبروں سے اٹھیں گے یہ قول تو باطل اور مردود ہے ان صحیح اور صریح احادیث کی وجہ سے جن میں بعض ذکر ہوئیں اور بعض آئندہ ذکر کی جائیں گی اور اسی پر سلف اور اہل سنت میں سے کسی نے بھی قول نہیں کیا یہ قطعی طور پر باطل ہے۔

اور اگر اس سے تمہاری مراد یہ ہو کہ جنت ابھی مکمل طور پر پیدا نہیں کی گئی اور وہ تمام چیزیں بھی جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لئے تیار کریں گے ابھی پیدا نہیں کی گئیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو تدریجاً پیدا فرمائیں گے یہ تو ایسی حق بات ہے جس کی تردید ممکن نہیں ہے اور تمہارے دلائل کا فائدہ بھی اسی قدر ہے حضرت جابر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی حدیثیں بھی جو آپ لوگوں نے ذکر کیں اس بات میں صریح ہیں کہ جنت کی زمین اب پیدا شدہ ہے اور اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کے لئے اس میں درخت لگاتے ہیں اور اسی طرح تعمیرات بھی مذکورہ اعمال کی وجہ سے ہوتی رہی ہیں یعنی جب بندہ نیک اعمال میں ترقی کرتا رہتا ہے تو ایسی ہی اس کی جنت میں بھی توسیع ہوتی رہتی ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جنت اب پیدا شدہ نہیں ہے۔

(۲) تمہارا اللہ تعالیٰ کے اس قول ”کل شیء ہالک الا وجہ“ کو پیش کرنا آیت کے معنی سے ناواقفیت پر مبنی ہے اور تمہارا اس آیت کو جنت اور جہنم کے عدم وجود پر پیش کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ تمہارے بھائیوں نے اس کو جنت اور جہنم کی فنایت اور خرابیت اور جنتیوں

جہنموں کی موت پر پیش کیا تھا نہ تمہیں آیت کے معنی سمجھنے کی توفیق ملی اور نہ تمہارے بھائیوں کو بلکہ اس آیت کے معنی سمجھنے کی توفیق سلف اور ائمہ اسلام کو ملی تھی اس آیت کے بارے میں ہم ان کے بعض اقوال پیش کرتے ہیں۔

(۲) امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین ختم ہوں گے کیونکہ آسمان اور زمین والے جنت میں چلے جائیں گے یا جہنم میں عرش کبھی ختم نہ ہو گا کیونکہ وہ جنت کی چھت ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں جس کی ذات نہ ہلاک ہوگی اور نہ ختم ہوگی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”کل شیء ہالک الا وجہہ“ تو یہ اس وقت نازل ہوا کہ جب حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”کل من علیہا فان“ (جو کوئی ہے زمین پر فنا ہونے والا ہے) (سورۃ الرحمن ۶۶) تو فرشتے سمجھے کہ زمین والے ہلاک ہوں گے اور اپنی بقاء کی امید کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ”کل شیء ہالک“ ارشاد فرما کر ان کو خبر دی کہ آسمان والے اور زمین والے سب مریں گے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو ایسے زندہ ہے کہ کبھی مریں گے نہیں تب فرشتوں نے اپنی موت کا یقین کر لیا۔

(۳) ابوالحسین نے اپنی کتاب (کتاب الطبقات) میں ابوالعباس احمد بن جعفر بن یعقوب الاء صطخری کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ابو عبد اللہ احمد بن حنبل نے فرمایا یہ اصحاب اثر اور ان اہل سنت کے مذاہب ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے لے کر آج تک چلے آ رہے ہیں اور میں نے حجاز اور شام کے بہت سے علماء کو اس پر پایا ہے پس جو شخص ان مذاہب میں سے کسی چیز کی مخالفت کرے یا طعن کرے یا اس کے قائل پر عیب لگائے تو وہ بدعتی اور مخالف اور جماعت سے خارج ہے سنت اور حق کے راستے سے بھٹک گیا ہے یہاں تک فرمایا کہ جنت اور جہنم اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پیدا شدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور ان کے لئے مخلوق پیدا کی نہ یہ فنا ہوں گے اور نہ وہ چیزیں فنا ہوں گی جو ان میں ہیں اگر کوئی بدعتی یا زندیق آدمی اللہ تعالیٰ کے قول ”کل شیء ہالک الا وجہہ“ یا اس جیسے اور قرآنی تشابہات سے دلیل پکڑ لے تو اس کو جواب میں یوں کہا جائے گا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز فنا ہوگی جس پر حق تعالیٰ نے فنایت کا فیصلہ کیا ہے جنت اور جہنم تو بقاء کے لئے پیدا کی گئیں ہیں۔

فناء اور ہلاکت کے لئے نہیں اور ان دونوں کا تعلق آخرت سے ہے دنیا سے نہیں

اور حوریں بھی نہ قیام قیامت کے دوران ہلاک ہوں گی اور نہ صور پھونکنے کے وقت کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان حوروں کو بقاء کے لئے پیدا فرمایا ہے اور موت ان کے لئے نہیں لکھی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اوپر سات آسمانوں کو پیدا کیا اور سات زمینیں پیدا کیں ایک دوسرے کے نیچے، اوپر والی زمین اور آسمان دنیا کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے اور اسی طرح ہر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پانچ سو سال کا فاصلہ ہے، پانی ساتویں آسمان کے اوپر ہے اور رحمن کا عرش پانی پر ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور کرسی اس کے قدموں کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ ساتویں آسمانوں اور ساتویں زمینوں اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اور جو ٹرٹی کے نیچے ہے اور جو سمندر کی گہرائی میں ہے اور ہر بال اور درخت کے اگنے کا مقام کھیتی اور نبات اور ہر پتے کے گرنے کی جگہ اور تمام کلیوں کنکریوں مٹی ریت پہاڑوں کے چٹان، بندوں کے اعمال، باتیں، اور سانس ان سب چیزوں کا علم رکھتے ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی ان پر مخفی نہیں اور اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان پر عرش کے اوپر ہیں اور آپ کے سامنے آگ اور نور کی آڑ ہے اور ان چیزوں کی جس کو وہ خوب جانتے ہیں۔ اور اگر کوئی بدعتی اور مخالف اللہ تعالیٰ کے درج ذیل ارشادات۔

اور ہم اس سے نزدیک ہیں دھڑکتی رگ سے
زیادہ

وَنَحْنُ اقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

ترجمہ اور تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ
ہیں۔

(۲) وَهُوَ سَعَكُمْ آيُنَ مَا كُنتُمْ (سورة
الحديد)۔

کہیں نہیں ہوتا مشورہ تین کا جہاں وہ نہیں
ہوتا نہیں کا چوتھا اور نہ پانچ کا جہاں وہ نہیں
ہوتا ان میں چھٹا۔

اور یا تشابہات قرآن میں سے کسی سے استدلال کرے تو جواب میں ان سے کہو کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا علم مراد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان پر عرش کے اوپر ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں اپنی مخلوق سے جدا ہیں اس کے علم سے کوئی کام خالی نہیں۔ ابو جعفر الطائی محمد عوف

بن سفیان العمصی کی روایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خلال حافظ ہے اپنے زمانے کا امام ہے علم او معرفت میں پیش پیش ہے امام احمد بن حنبل ان کی صلاحیت کا اقرار کرتے تھے اور ان سے روایات لیتے تھے اور اپنے شہر کے رجال کے بارے میں ان سے پوچھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ امام احمد نے مجھے املاء کرایا اور حدیث کے ایک رسالے کا ذکر کیا اور پھر فرمایا جنت اور جہنم دونوں پیدا کی گئی ہیں جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں میں نے ایک محل دیکھا اور کوثر دیکھا اور پھر میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو اس میں فلاں فلاں چیز کی اکثریت دیکھی پس جس کا یہ عقیدہ ہو کہ جنت اور جہنم نہیں پیدا کئے گئے تو وہ اللہ کے رسول اور قرآن کو جھٹلاتا ہے جنت اور جہنم کا منکر ہے ایسے شخص کو توبہ کے لئے مہلت دی جائے گی اگر توبہ کرے تو ٹھیک ہے ورنہ قتل کیا جائے گا۔

ان ابواب میں اور یہ جن نقول، مباحث نکتوں اور فوائد کو یہ متضمن ہیں خوب غور فرمائیں جو اس کے علاوہ کسی اور کتاب میں آپ کو کبھی نہیں مل سکتے اور ہم نے اس میں کلام کو مختصر کیا اور اگر ہم اس کو پھیلاتے تو ایک ضخیم دفتر قائم ہو جاتا۔

ۛ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التَّكْلَانُ وَهُوَ الْمَوْفِقُ لِلصَّوَابِ۔



نواں بابجنت کے دروازوں کی تعداد کا بیان

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمراً حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. (سورة الزمر ۷۳)

اور ہانکے جائیں وہ لوگ جو ڈرتے رہے تھے اپنے رب سے جنت کو گروہ گروہ یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں اس پر اور کھولے جائیں اس کے دروازے اور کہنے لگیں ان کو داروغہ اس کے سلام پہنچے تم پر تم لوگ پاکیزہ ہو سو داخل ہو جاؤ اس میں سدا رہنے کو

اور جہنم کی صفت میں ارشاد فرمایا۔

”حتیٰ اذا جاءوها فتحت ابوابها“ بغیر واو کے اس کے بارے میں ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ یہ واو ثمانیہ کہلاتا ہے جس کو ابواب جنت پر اس لئے داخل کیا تا کہ یہ بات ظاہر کرے کہ جنت کے دروازے آٹھ ہیں اور چونکہ جہنم کے دروازے سات تھے اس لئے وہاں اس کو ابواب پر داخل نہیں کیا گیا یہ ایک قول ضعیف بلا دلیل ہے جس کو نہ عرب جانتے ہیں اور نہ عربیت کے ائمہ، بلکہ یہ بعض متاخرین کے استنباط میں سے ہے۔

دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ یہ واو زائدہ ہے اور بعد میں آنے والے فعل کا جواب ہے یہ قول بھی ضعیف ہے کیونکہ واو کی زیادتی عرب کے کلام میں معروف نہیں اور فصیح کلام کے شایان شان نہیں کہ اس میں بغیر کسی فائدہ اور مقصد کے کوئی حرف ہو تیسری جماعت کا کہنا ہے کہ جواب مخدوف ہے اور ”فتحت ابوابها“ کا عطف ”جاؤھا“ پر ہے یہ قول ابو عبید مبرد اور زجاج کا پسندیدہ ہے مبرد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حذف جواب اہل علم کے ہاں زیادہ بلغ ہے۔ ابو الفتح ابن جنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب واو کی زیادتی کو جائز قرار نہیں دیتے بلکہ وہ

جواب معلوم ہونے کی وجہ سے محذوف مانتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اس میں کیا راز ہے کہ آیت جنت میں جواب محذوف ہے اور آیت جہنم میں مذکور؟

جواب: یہ حالت دونوں جگہ بلوغ ہے کیونکہ جب فرشتے جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جائیں گے تو اس کے دروازے بند ہوں گے جیسے ہی یہ لوگ پہنچیں گے تو چانک ان کے سامنے دروازے کھول دیئے جائیں گے اور عتاب ان کو گھیر لے گا یہی اس جزاء کی حالت ہوتی ہے جو شرط کے بعد آتی ہے کیونکہ جہنم توہین اور رسوائی کا گھر ہے اس میں داخلے کے لئے داروغہ جہنم سے اجازت کی نوبت ہی نہیں آئے گی بخلاف جنت کے کہ وہ اللہ کے ہاں عزت والوں اور خواص اور اولیاء کا گھر ہے اس لئے جنتی جب جنت کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے بند پائیں گے تو یہ لوگ داروغہ جنت کو دروازہ کھولنے کی ترغیب دیں گے اور اولوالعزم پیغمبروں سے ان کے ہاں سفارش کروائیں گے چنانچہ ہر ایک پیغمبر اس مقام سے پیچھے ہٹے گا یہاں تک کہ معاملہ سید الانبیاء خاتم الانبیاء پر ٹھہر جائے گا آپ فرمائیں گے کہ میں ہی اس کا اہل ہوں چنانچہ آپ عرش کے نیچے آکر سجدے میں گر پڑیں گے جتنا اللہ چاہیں گے اسی قدر آپ کو سجدے میں رکھے گا پھر آپ کو سراٹھانے اور اپنی حاجت مانگنے کی اجازت ملے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولنے کی سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش کو قبول فرما کر دروازہ کھول دیں گے اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ اپنے رسول کے عظیم مرتبے کو ظاہر کرنے کے لئے کریں گے جنت بادشاہوں کے بادشاہ اور رب العالمین کا گھر ہے اس میں داخلہ بہت بڑے بڑے احوال پیش آنے کے بعد ہو گا اور بہت ساری شرائط اور تکلیفات کو برداشت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں محبوب ترین خاتم الانبیاء والرسل کو دروازہ کھولنے کے لئے سفارش کی اجازت دیں گے اور یہ سب سے عظیم نعمت اور بہت بڑی خوشی کا مقام ہو گا مشقت کے بعد اس لئے داخلہ ہو گا تاکہ کوئی جاہل اس کو ہوٹل اور سرائے نہ سمجھے کہ جو چاہے اس میں داخل ہو جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کی جنت بہت عالی شان اور مہنگی ہے اس میں جانے کے لئے لوگوں کو بہت ساری گھاٹیوں جنگلات اور خطرات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس شخص کی کیا حالت ہوگی جو خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے اور پھر بھی اپنی بے بنیاد امیدوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے

بخشش کی تمنا کرتا ہے اب قابل غور بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کو جنت اور جہنم کی طرف گروہ گروہ بنا کر جماعتی شکل میں کیوں لے جائیں گے؟ یہ اس لئے کہ ہر ایک جماعت اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ عملی اشتراک کی وجہ سے چلنے میں خوش ہوگی جنتی حضرات کو جنت کی خوشخبری ملے گی اور ساتھ چلنے میں ان کے دلوں میں فرحت پیدا ہوگی جیسا کہ دنیا میں نیکی کے کام کرتے وقت ان کے اجتماع کی وجہ سے دلوں میں قوت آجاتی تھی اور اسی طرح جماعتی صورت ان کی آپس میں انس اور ایک دوسرے کی وجہ سے خوشی کا باعث بنے گی اور جہنمیوں کو جماعتی صورت میں جہنم کی طرف لیجانے میں راز یہ ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے پر لعن طعن کرتے ہوئے اور ایک دوسرے سے ایذا حاصل کرتے ہوئے چلیں گے جو کہ ان کی رسوائی اور شرمساری میں بہت ہی ابلاغ طریقہ ہو گا۔

چنانچہ جنت کا داروغہ جنتیوں سے کہے گا تم پر سلامتی ہو یعنی ان کی ابتداء ہر شر اور مکروہ چیز سے سلامتی کی ضمانت کے ساتھ ہوگی کہ اب تم لوگ محفوظ ہو گئے آج کے بعد کوئی ناگوار بات تمہیں پیش نہیں آئے گی اور داروغہ جنت پھر ان کو خوشخبری دے گا کہ تم لوگ پاکیزہ ہو ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہاری سلامتی اور تمہارا داخلہ تمہاری پاکیزگی کی وجہ سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پاک لوگوں کے علاوہ دوسروں پر حرام کر دیا ہے حاصل یہ کہ جنتیوں کو سلامتی، پاکیزگی اور داخلے اور ہمیشہ رہنے کی خوشخبری ملے گی بخلاف جہنمیوں کے کہ جب وہ غم و تکلیف اور مصیبتوں کے عالم میں جہنم تک پہنچیں گے تو ان کے لئے دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہ جہنم میں گر پڑیں گے اور یہ سن کر

ألم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم کیا نہ پہنچے تھے تمہارے پاس رسول تم میں کہ آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم پڑھتے تھے تم پر باتیں تمہارے رب کی اور هذا۔ (سورۃ الزمر ۷۱)

مزید ان کی رسوائی ڈانٹ ڈپٹ میں اضافہ کرے گی چنانچہ وہ اقرار کر کے کہیں گے بے شک پیغمبروں نے ہم کو ڈرایا تھا اور یہ کہا تھا کہ جہنم بہت برا ٹھکانا ہے اور اگر آپ داروغہ جنت کی بات (ادخلوها) میں غور کریں گے جو انہوں نے اہل جنت سے کی اور اسی طرح داروغہ جہنم

کے قول (ادخلوا ابواب جہنم) میں غور فرمائیں گے تو اس میں آپ ایک باریک راز پائیں گے وہ یہ کہ جب دارالعبقوبت (جہنم) کے دروازوں کے پاس اتنی سخت گرمی غم اور سخت تکلیف ہوگی تو اس کے اندر والا عذاب تو بہت ہی بڑا اور سخت ہو گا لہذا یہ لوگ دروازوں کے قریب ہوتے ہی غم اور مصیبت اور تکلیف سے دوچار ہوں گے تو پھر ان کی مزید رسوائی اور تذلیل کے لئے ان سے کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ پھر ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا محض دروازوں میں داخل ہونے پر اکتفاء نہیں کیا جائے گا بلکہ اس سے آگے تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔

بخلاف جنتیوں کے کہ ان کو پہلی فرصت میں ان مقامات اور اعلیٰ منازل میں داخلے کی خوشخبری ملے گی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں غور فرمائیں۔

جنت عدن مفتحة لهم الابواب
متكثين فيها يدعون فيها بفاكهة
كثيرة وشراب. (سورة ص. ۵ - ۵۰)

باغ ہیں سدا بننے کے کھول رکھی ہیں ان کے
واسطے دروازے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ان
میں منگوائیں گے ان میں میوے بہت اور
پینے کی چیزیں۔

اس سے آپ کو کیا ہی عجیب نکتہ ملا وہ یہ کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کے دروازے ان پر بند نہیں کئے جائیں گے بلکہ بدستور پہلے کی طرح کھلے ہوئے چھوڑ دیئے جائیں گے اور جہنمیوں پر داخل ہونے کے بعد جہنم کے دروازے بند کر دیئے جائیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "نہا علیہم موصدة" (بیشک جہنم ان پر بند کر دی جائے گی) اسی سے دروازے کا نام وصید رکھا گیا یعنی وہ دروازے لمبے لمبے ستونوں میں بند کر دیئے جائیں گے یہ ستون دروازوں کے پیچھے پختگی کے لئے ہوں گے جیسا کہ بڑا پتھر دروازوں کے پیچھے اسی مقصد کے لئے رکھا جاتا ہے مقاتل فرماتے ہیں کہ یہ دروازے ان پر فٹ کر دیئے جائیں گے نہ کوئی دروازہ کھلے گا اور نہ ہی کوئی مصیبت باہر نکلے گی اور نہ ہمیشہ کے لئے کوئی روح باہر آئے گی جنت کے دروازوں کو کھلے رکھنے میں جنتیوں کے تصرف کی طرف اشارہ

ہے کہ وہ جیسے چاہیں آئیں جائیں اور جہاں رہنا چاہیں اور فرشتے بھی ہر وقت تحفے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی لے کر ان کے پاس آئیں گے اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جنت ایسا مقام ہے جس میں دنیا کی طرح دروازوں کے بند کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی باقی اس جملے میں صفت سے موصوف کی طرف جو ضمیر لوٹتی ہے اس میں اہل عربیت کا اختلاف ہے کوفیوں کے ہاں تقدیری عبارت یوں ہے ”مفتحتہ لہم ابوابہا“ اور عرب الف لام اور اضافت کو یکے بعد دیگرے لاتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں ”مررت برجل حسن العین“ ای عہنہ اللہ تعالیٰ کا قول ”فان الجحیم ہی المادئی“ ای ماواہ بھی اسی قبیل سے ہے۔

بھیروں کے ہاں تقدیری عبارت یوں ہے ”مفتحتہ لہم الابواب منہا“ ضمیر اور اس سے متصل کو حذف کیا یہ تقدیر عربیت کے لحاظ سے الف لام کو ہا اور الف سے تبدیل کرنے سے بہتر ہے اس لئے کہ الف لام کا وہ معنای نہیں ہے جو ہا اور الف کا ہے کیونکہ ’الہاء‘ اور ’الف‘ اسم ہے اور الف لام کو اسم نکرہ پر معرفہ بنانے کے لئے داخل کیا جاتا ہے حالانکہ حرف نہ تو اسم سے تبدیل کیا جاتا ہے اور نہ اس کا قائم مقام بن سکتا ہے۔

اسی طرح یہ حضرات کہتے ہیں کہ الف لام اگر ضمیر سے بدل ہوتا تو پھر یہ بات ضروری تھی کہ ”مفتحتہ“ میں الجنات کی ضمیر ہوتی اور معنی یوں ہوتا مفتحتہ ہی پھر الابواب کو اس سے بدل بناتے اگر معاملہ اس طرح ہے تو پھر نصب واجب ہے کیونکہ ”مفتحتہ“ نے ضمیر فاعل کو ایک مرتبہ رفع دیا ہے اب اس کے ذریعے دوسرے اسم کو رفع دینا جائز نہیں ہے اس لئے کہ ایک ہی فعل سے دو فاعلوں کو رفع دینا ممنوع ہے (الابواب) کو رفع دینا اس بات کی دلیل ہے کہ مفتحتہ ضمیر سے خالی ہے اور الابواب اس کی وجہ سے مرفوع ہے اور جب صفت میں ضمیر تھی تو اب دوسرے کا نصب متعین ہو گیا جیسے کہ آپ کہیں ”مررت برجل حسن الوجہ“ یہاں اگر آپ الوجہ کو مرفوع بنائیں اور حسنا کو تثنیہ دیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ پس الف لام اس وقت تک تعریف کے لئے نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں ضمیر نہ ہو جو کہ ”جنات عدن“ موصوف کی طرف لوٹتی ہو لفظ میں تو ضمیر ہے نہیں لہذا مخدوف ہو گا تقدیری عبارت یوں ہوگی ”ابواب منہا“ لیکن میرے ہاں یہ بات کوفیوں کے قول کو باطل نہیں کر سکتی کیونکہ انہوں

نے بدل سے وہی الف لام مراد لیا ہے جو ضمیر سے عوض ہے اور عرب کا جماع ان کے قول ”حسن الوجہ و حسن وجہہ“ اس پر شاہد ہے اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ تنوین الف لام کا بدل ہے اس معنی میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے اسی طرح مضاف الیہ تنوین کا بدل ہے اور تنوین اضافت کا بدل ہے ان کے کہنے کا یہ مقصد نہیں کہ جو معنی بدل کے ہیں وہی مبدل منہ کے بھی ہیں کیونکہ کبھی ایک میں ایسا معنی ہوتا ہے جو دوسرے میں نہیں ہوتا۔ کوئیوں کی مراد یہ ہے کہ ”لابواب“ کا الف لام ضمیر سے مستغنی کر دیتا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ ”ابوابہا“ اور یہ دونوں صحیح ہیں کیونکہ مقصود صفت اور موصوف کے درمیان ایسی چیز سے رابطہ پیدا کرنا ہے جو مستقل نہ ہو جب ضمیر موصوف کی طرف لوٹی تو استقلال کا توہم رفع ہو گیا۔

زمخشری نے اس آیت پر قابل اعتراض اعراب لگایا چنانچہ فرمایا کہ ”جنات عدن“ معرفہ ہے جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

”جنات عدن ذالتي وعد الرحمن عباده“ باغوں میں بسنے کے جن کا وعدہ کیا ہے الرحمن بالغیب۔ (سورۃ مریم ۶۱) نے اپنے بندوں سے ان کے بن دیکھے۔

اس کے نصب کی وجہ یہ ہے کہ یہ ”حسن ماہ کے لئے عطف بیان ہے اور مفتحتہ حال ہے اور عامل اس میں وہی ہے جو متقین میں ہے یعنی فعل کا معنی اور مفتحتہ میں البجات کی ضمیر عامل ہے اور ”لابواب“ ضمیر سے بدل واقع ہے تقدیر عبارت اس طرح ہوگی مفتحتہ ہی الابواب جیسے عرب کا قول ہے ”ضرب زید الید والرجل“ یہ بدل الاشتمال کے قبیل سے ہے اس اعراب پر اعتراض یہ ہے کہ ”جنات عدن“ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے معرفنے ہونے کا تقاضا کرتی ہو اور اللہ تعالیٰ کا قول ”التي وعد الرحمن عباده بالغیب“ بدل ہے صفت نہیں ہے کیونکہ جنات عدن کا حسن ماہ کے لئے عطف بیان بنانا آسان نہیں اس لئے کہ اس بات کا کوئی قائل نہیں کہ معرفہ کا نکرہ پر جاری کرنا عطف بیان ہے کیونکہ اس کے دو ہی قائل ہیں (۱) یہ صرف معرفوں میں ہو سکتا ہے جیسا کہ بصریوں کا قول ہے۔ (۲) بشرط مطابقت معرفوں اور نکرہوں دونوں میں ہو سکتا ہے جیسا کہ کوئیوں اور ابو علی فارسی کا قول ہے ان کا یہ کہنا کہ مفتحتہ میں البجات کی ضمیر ہے تو ظاہر اس بات کے خلاف ہے اور

”لابواب“ اس کی وجہ سے مرفوع ہے اور اس میں کوئی ضمیر نہیں۔

ان کا یہ کہنا کہ ”لابواب“ بدل الاشتمال ہے حالانکہ اس پر تصریح موجود ہے کہ اس میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ ضمیر ملفوظ بہ ہو یا مقدر ہو یہاں ملفوظ نہیں تو مقدر ہونا متعین ہے یعنی الابواب منھا اور ”مفتحة لہم ہی الابواب“ کو مقدر نکالنے میں ضمیروں کی تکثیر ہے اور حالانکہ ضمائر کی تقلیل ہی اولیٰ اور مقصود ہے صحیحین میں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے جس میں روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ اور اسی طرح صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں کسی چیز کے جوڑے کو خرچ کیا تو جنت کے دروازوں سے اس کو پکارا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے یہ بہت بہتر ہے پھر اگر وہ شخص نمازی تھا تو نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا اگر اہل جہاد میں سے تھا تو جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا اور اگر اہل صدقہ میں سے تھا تو صدقہ کے دروازے سے پکارا جائے گا اور جو شخص روزہ داروں میں سے ہو گا تو ”باب الریان“ سے پکارا جائے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔

کیا ایسا کوئی شخص ہے جس کو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا آپ نے فرمایا جی ہاں اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی ان میں سے ہوں گے۔

صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کر کے پھیروں کے ”اشھد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشھد ان محمداً عبدہ ورسولہ“ تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھول دیئے جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور امام ترمذی نے تشہد کے ساتھ ”اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین“ کا بھی اضافہ فرمایا ہے۔ ابو داؤد اور امام احمد رحمہما اللہ تعالیٰ نے یہ بھی زیادتی کی ہے کہ وضو کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اشھد ان لا الہ الا اللہ پڑھے۔

ف:- بعض لوگ انگلی بھی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، حالانکہ صحیح نہیں ہے۔ علماء نے اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ (مترجم)

امام احمد حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اچھی طرح وضو کر کے تین مرتبہ ”اشھدان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشھدان محمد ا عبده ورسوله“ پڑھے تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے۔

عقبہ بن عبد اللہ سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس شخص کے تین بچے بلوغ سے پہلے مر جائیں تو جنت کے آٹھوں دروازوں سے اس کا استقبال کیا جائے گا جس سے چاہے داخل ہو جائے۔



دسواں باب

جنت کے دروازوں کی کشادگی کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت اور ثرید کا پیالہ رکھ دیا گیا تو آپ نے ایک دست اٹھایا جو آپ کے ہاں بکری کے گوشت میں محبوب ترین چیز تھی آپ نے اس میں سے دانتوں سے نوچ نوچ کر کھایا اور پھر فرمایا میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا پھر دو سری بار دانتوں سے نوچ نوچ کر کھایا اور فرمایا میں قیامت کے ان لوگوں کا سردار ہوں گا۔ جب آپ نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ آپ سے پوچھتے نہیں تو فرمایا کہ آپ لوگوں نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ کیسے؟ تب صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کیسے آپ سردار ہوں گے فرمایا کہ جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو وہ ایک پکارنے والے کی پکار سنیں گے اور نگاہ سب کو دیکھ لے گی آخر تک حدیث شفاعت ذکر فرما کر آخر میں ارشاد فرمایا کہ پھر میں عرش کے نیچے آ کر اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر پڑوں گا پھر رب العالمین مجھے ایسے مقام میں کھڑا کریں گے جس میں نہ مجھ سے پہلے کسی کو کھڑا کیا ہو گا اور نہ بعد میں کسی کو کھڑا کریں گے پھر میں عرض کروں گا اے میرے رب میری امت کو بخش دیجئے اے میرے پروردگار میری امت کو بخش دیجئے۔ چنانچہ ارشاد ہو گا اے محمد ﷺ دائیں جانب کے دروازے سے اپنے امتہوں کو داخل کر جن پر کوئی حساب نہیں یہ لوگ اس کے علاوہ دوسرے دروازوں میں لوگوں کے ساتھ شریک ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد ﷺ کی جان ہے جنت کے کواڑوں میں دو کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنی مسافت مکہ اور مقام ہجر کے درمیان ہے (ہجر بحرین کی ایک جگہ کا نام ہے)۔

خالد بن عمرو العدوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عتبہ بن عزدان نے ہمیں خطبہ دیا اللہ تعالیٰ کے حمد و ثناء کے بعد فرمایا کہ بیشک دنیا انقطاع کی خبر دے چکی ہے اور اپنا رخ موڑ چکی ہے اس کی مثال یوں ہے کہ کوئی شخص اپنے برتن کا باقی ماندہ پانی بہا دے اور تم لوگوں کو

اس سے ایک لازوال گھر کی طرف منتقل ہونا ہے لہذا نیکی کے ساتھ منتقل ہو جاؤ اور پھر ہمیں بتایا کہ جنت کے چوکٹھوں کی درمیان چالیس سال کی مسافت ہے اس پر ضرور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ لوگوں سے بھری ہوئی ہوگی یہ حدیث موقوف ہے اور پہلی حدیث مرفوع تھی اگر اس بات کا ذکر کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو یہ فاصلہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے درمیان ہو گا اور شاید یہ سب سے بڑا دروازہ ہو اور اگر اس کا ذکر کرنے والا کوئی اور ہے تو اس کو ابو ہریرہ کی گزشتہ روایت سے واقفیت نہیں ہوگی لیکن اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں حماد بن سلمہ کے طریق سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جنت کے کواڑوں میں سے دو چوکٹھوں کے درمیان چالیس سال کی مسافت کا فاصلہ ہو گا۔ ایک دن اس پر ضرور آئے گا کہ یہ لوگوں سے بھری ہوئی ہوگی ازدحام کی وجہ سے اس پر گزرنا مشکل ہو گا خالد نے جریر سے اور اس نے حکیم بن معاویہ سے سات سال کی مسافت نقل کی ہے۔

سالم بن عبد اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے جس دروازے سے جنتی لوگ داخل ہوں گے اس کی کشادگی ایک عمدہ سوار کی مسافت سے تین دن چلنے کی مسافت ہوگی پھر زیادہ تنگی اور دباؤ کی وجہ سے ان لوگوں کے کندھے نکلنے کے قریب ہو جائیں گے اس کو ابو نعیم نے روایت کیا ہے اور یہ اس حدیث متفق کے مطابق ہے جس میں ہے کہ ”جنت کی دو چوکٹھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ مکہ اور بصری کے درمیان“ یعنی نہایت ہی عمدہ سوار عمدہ تیز گھوڑے پر رات دن سفر کرتا رہے تو اس قدر میں یا اس سے کم میں اتنی مسافت طے کر لے گا۔

حکیم بن معاویہ کی حدیث کے رواۃ میں اضطراب ہے کیونکہ حماد بن سلمہ نے جریر سے چالیس سال کی روایت نقل کی ہے اور خالد نے اس سے سات سال نقل کئے حدیث ابی سعید میں چالیس سال کا اندازہ ابو الہیثم کے درج کے طریق پر مرفوع ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ یہ احادیث منکر اور مدرج ہیں ابو حاتم رازی فرماتے ہیں کہ ضعیف ہیں امام نسائی نے کہا

ہے کہ یہ احادیث قوی نہیں ہیں پس شذوذ اور علت اور اضطراب سے صحیح سالم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے جس کی صحت پر اتفاق کیا گیا ہے حکیم بن معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کوئی ظاہری رفع نہیں ہے اور اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ بدرج حدیث میں موقوف ہو تو یہ حدیث عتبہ بن غزوان کی حدیث کی طرح ہوئی۔



گیارہواں باب

جنت کے دروازوں کی صفات

ولید ابن مسلم نے خلید سے اور انہوں نے حسن سے آیت ”مفتحتہ لہم الابواب“ کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ وہ ایسے دروازے ہوں گے جس میں چیزیں دکھائی دیں گی اور اسی طرح خلید نے قتادہ رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کیا ہے کہ ان دروازوں کا باطن (اندرونی حصہ) ظاہر (باہر کی جانب) سے اور ظاہر باطن سے دکھائی دیتا ہے آپ ان سے گفتگو کریں گے تو وہ جواب دیں گے اور جب ان سے کہا جائے گا کھل جا بند ہو جا تو اس حکم کو سمجھیں گے عبداللہ بن غیاث فزاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ہر مومن کے لئے جنت میں چار دروازے ہوں گے ایک دروازہ تو وہ ہو گا جس میں ملاقات اور زیارت کرنے والے فرشتے داخل ہوں گے دوسرا دروازہ حوروں کے لئے داخلے کا ہو گا تیسرا دروازہ ان کے اور جہنمیوں کے درمیان مقفل ہو گا یہ جب جہنمیوں کو دیکھنا چاہیں گے تو اس کو کھولیں گے تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر کیسی عظیم نعمت ہے چوتھا دروازہ ان کے اور دارالسلام کے درمیان ہو گا جس سے یہ لوگ جب چاہیں گے اپنے رب کے پاس جائیں گے۔“

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”میں ہی وہ اول شخص ہوں گا جو جنت کے دروازے کے کواڑ کو پکڑے گا اس پر کوئی فخر نہیں“ حضرت انس ابن مالک سے شفاعت کی طویل حدیث میں مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”میں جنت کے دروازے کا کواڑ پکڑ کر کھٹکھاؤں گا“

یہ حدیث اس میں صریح ہے کہ وہ کواڑ حسی ہو گا جس کو حرکت دی جائے گی اور کھٹکھٹایا جائے گا بو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

میں جنت کے دروازے کا کواڑ پکڑوں گا تو مجھے اجازت مل جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص ہردن ”لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین“ سو مرتبہ پڑھے گا تو اس کے لئے فقراور قبر کی وحشت سے امان کا ذریعہ ہو گا اور اس کے ذریعے وہ غناء حاصل کر لے گا اور جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔

فصل

جیسے کہ درجات مختلف ہوں گے کہ بعض دوسرے بعض سے اونچے ہوں گے اسی طرح دروازوں کی نوعیت مختلف ہوگی یعنی اوپر والی اونچی جنت کا دروازہ نیچے والے جنت کے دروازے سے عالیشان ہو گا یعنی جنتی اونچی ہوگی اتنا ہی اس کا دروازہ وسیع ہو گا شاید جنت کے دروازے کی چوکھوں کے درمیان مسافت کے بارے میں اختلاف روایات کی بھی یہی وجہ ہو کیونکہ بعض دروازے بعض دوسروں سے اعلیٰ ہوں گے۔

اس امت کے لئے ایک مخصوص دروازہ ہو گا جس سے صرف یہی امت داخل ہوگی دوسری امتوں کو یہ شرف حاصل نہیں ہو گا جیسا کہ مسند میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دروازے سے میری امت داخل ہوگی اس کی چوڑائی عمدہ گھوڑے کے شہسوار کی تین دن کی مسافت کے برابر ہوگی پھر بھی امت محمدیہ ﷺ اس پر اتنا ہجوم کرے گی کہ کثرت ازدحام کی وجہ سے ان کے کاندھے اکھڑ جائیں گے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے انہوں نے فرمایا جنت کے دروازے اس طرح ایک دوسرے سے اونچے ہوں گے پھر قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی ”حتی اذا جاء وہا و فتعت ابوابہا“ (سورۃ زمر ۷۳) فرمایا اس دروازے کے پاس ایک درخت ہو گا جس کے نیچے سے دو چشمے جاری ہوں گے ایک چشمے سے یہ لوگ پانی پییں گے تو ان کے پیٹوں میں کوئی گندگی اور میل کچیل باقی نہیں رہے گا اور دوسرے چشمے سے غسل کریں گے جس سے ان پر جنت کی تروتازگی آئے گی پھر ہمیشہ کے لئے نہ ان کے بال پراگندہ ہوں گے اور نہ ان کے چڑوں میں کوئی تبدیلی آئے گی پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی تائید میں یہ آیت ”طلبتہم

فادخلوها خالدین“ (سورۃ زمر ۷۳) تلاوت کر کے فرمایا کہ جنتی جنت میں داخل ہو جائے گا تو اپنے مقام اور ٹھکانے کو پہچانتا ہو گا ولدان (خادمین جنت) اس کا استقبال کریں گے تو یہ ان کے دیکھنے سے اتنا خوش ہو گا جتنا کہ کوئی شخص اپنے گھرے دوست کے بہت زمانہ غائب ہونے کے بعد اس کے آنے کی اطلاع سے خوش ہوتا ہے پھر یہ خادمین جنت ان کی بیویوں کے پاس جا کر ان کے دیکھنے کی خبر دیں گے تو وہ تعجب سے پوچھیں گی آپ نے ان کو دیکھا؟ پھر دروازے کی طرف اٹھیں گے اور اپنے گھر میں داخل ہو کر اپنے پلنگ پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے اور اپنے گھر کی بنیاد کی طرف نگاہ اٹھائیں گے تو اس کی بنیاد موتیوں پر رکھی ہوئی ہوگی پھر یہ ہرے اور سرخ اور پیلے رنگ کی چیزوں کو دیکھتے رہیں گے اس کے بعد اپنے گھر کی چھت کی طرف دیکھیں گے تو اگر وہ اس کے لئے پیدا نہ کی گئی ہوتی تو اس کی آنکھیں اچک لیتی یہ دیکھ کر جنتی کہے گا۔

الحمد لله الذی هدانا لهذا وما كنا شكر الله کا جس نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا
لنهدی لولا ان هدانا الله۔ اور ہم نہ تھے راہ پانے والے اگر نہ ہدایت
(سورۃ الاعراف ۴۳) کرتا ہم کو اللہ۔



جنت کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک کی درمیانی مسافت

لقہط بن عامر ایک وفد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جنت اور جہنم کیا ہیں آپ نے ارشاد فرمایا تیرے رب کی قسم جہنم کے سات دروازے ہیں ان میں سے کوئی دو دروازے ایسے نہیں جن کے درمیان ستر سال سوار ہو کر چلنے کی مسافت نہ ہو اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں سے کوئی دو دروازے ایسے نہیں جن کے درمیان ستر سال سوار ہو کر چلنے کی مسافت نہ ہو آگے تمام حدیث ذکر فرمادی اس سے یہ ظاہر ہے کہ یہ مسافت ایک دروازے سے لے کر دوسرے دروازے تک کے درمیان ہوگی اس لئے کہ مکہ اور بصرہ کی مسافت ستر سال سے اندازہ کرنے کا احتمال نہیں رکھتا اور اس کو ایک معین دروازے پر بھی محمول کرنا ممکن نہیں کیونکہ حدیث میں دامنهن بابان“ (کوئی دو دروازے ایسے نہیں) کے الفاظ آئے ہیں۔

واللہ اعلم

تیرھواں باب

جنت کی جگہ کہاں ہے؟

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

﴿وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ﴾
(سورة النجم - ۲۳ - ۱۵)

اور اس کو اس نے دیکھا ہے اترتے ہوئے
ایک بار اور بھی سدرۃ المنتہی کے پاس اس
کے پاس ہے بہشت آرام سے رہنے کی۔
یہ بات ثابت ہے کہ سدرۃ المنتہی آسمان کے اوپر ہے اس کا نام سدرۃ المنتہی اس لئے
رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو چیزیں نازل ہوتی ہیں اس کے پاس پہنچتی ہیں تو اس سے
لے لی جاتی ہیں اور جو اللہ کی طرف چڑھتی ہیں تو اس کے پاس پہنچ کر لے لی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ
نے فرمایا۔

وَفِي السَّمَاءِ زُرْقًا وَمَا تَوْعَدُونَ .
(سورة الزاریات ۲۲)
اور آسمان میں ہے روزی تمہاری اور جو تم
سے وعدہ کیا گیا۔

ابن ابی نعجم نے مجاہد رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد جنت ہے دوسرے
لوگوں نے بھی اس سے یہی نقل کیا ہے ابن منذر نے اپنی تفسیر میں اور دوسروں نے بھی مجاہد
سے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد جنت اور جہنم ہیں لیکن یہ مزید تفسیر کی طرف محتاج ہے کیونکہ
جہنم تو آسمان میں نہیں اسفل السافلین میں ہے بلکہ اس کا مطلب وہی ہے جو ابن ابی نعجم نے
مجاہد سے نقل کیا ہے۔ (یعنی صرف جنت) ابو صالح نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے
کہ خیر اور شر دونوں آسمان سے آتے ہیں اس تفسیر کے مطابق مطلب یہ ہو گا کہ جنت اور جہنم
کے اسباب تقدیر الہی سے آسمان میں ثابت ہیں۔

بشر بن شغاف فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے سنا فرما رہے
تھے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزتمند ابوالقاسم علیہ السلام ہیں اور جنت آسمان میں ہے

ابو نعیم نے بھی اس سے یہ روایت نقل کی ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہاں چاہیں گے وہاں رکھ دیں گے اور جہنم ساتویں زمین میں ہے اور ابن عباس کی دوسری روایت میں ہے کہ جنت چوتھے آسمان پر ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہاں چاہیں گے وہاں کر دیں گے اور جہنم ساتویں زمین میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہاں چاہیں گے وہاں رکھ دیں گے۔

مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جنت کہاں ہے؟ تو فرمانے لگے کہ سات آسمانوں کے اوپر ہے پھر میں نے عرض کیا جہنم کہاں ہے تو فرمایا کہ تہ بہ تہ سات سمندروں کے نیچے ہے۔

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنت سورج کی پٹی ہوئی شعاعوں سے لٹک رہی ہے ہر سال ایک مرتبہ پھیلتی ہے اور مومنوں کی روحیں زرا زیر کی طرح ہوں گی (زرا زیر زرزور کی جمع ہے چڑیا سے بڑا ایک پرندہ بعض بالکل کالا ہوتا ہے اور بعض چتہ کبوا) ایک دوسرے کو پہچانیں گی اور جنت کے پھلوں سے ان کو رزق دیا جائے گا اس حدیث سے اس کلام میں اور پہلے والے کلام میں تعارض معلوم ہوتا ہے لیکن اس میں تعارض نہیں ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس جنت کو جو سورج کی شعاعوں سے معلق ہے ہر سال ایک مرتبہ نباتات میوؤں اور پھلوں کی انواع سے پیدا فرماتے ہیں اس عظیم جنت کی یاد میں اور اس کے لئے نشانی کے طور پر ورنہ وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے سورج کی شعاعوں سے معلق نہیں وہ تو سورج کے اوپر اور بہت بڑی ہے صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نہایت بلندی میں ہے واللہ اعلم۔

یہ حدیث دو قسم کے الفاظ سے مروی ہے۔ (۱) ایک تو یہی جو گزر چکی (۲) جنت میں سو درجے ہیں ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان اللہ

تعالیٰ نے اس کو ان مجاہدین کے لئے تیار فرمایا ہے جو اس کے راستے میں جہاد کرتے ہیں ہمارے شیخ حدیث کے اس قسم کے الفاظ کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ حدیث اس کے منافی نہیں کہ جنت میں اس سے زیادہ درجات نہ ہو اس کی مثال وہ حدیث صحیح ہے جس میں وارد ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کے ننانوے (صفاتی) نام ہیں جس نے اس کا احاطہ کیا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا یعنی تمام ناموں میں سے اس قدر تو دونوں جگہوں میں کلام ایک ہی جملہ ہو گا اور اس کی صحت پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جنت کے سب سے اوپر والے درجے میں ہو گا جس سے بالا کوئی درجہ نہیں ہو گا یہ سو درجے تو ان کی امت جہاد سے حاصل کرے گی جنت کا بالائی حصہ کشادہ اور درمیان گنبد دار ہے یہی درمیان جنت فردوس ہے جس کی چھت عرش ہے جیسے کہ حدیث صحیح میں ہے نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب تم اللہ سے دعا مانگو تو جنت فردوس کی دعاء مانگو اس لئے کہ وہ جنت کا درمیانی اور بالائی حصہ ہے جس کے اوپر رحمن کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔

اگر کوئی (بطور اعتراض) کہے کہ جنت تو ساری کی ساری عرش کے نیچے ہے اور عرش اس کی چھت ہے اس لئے کہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ آسمان اور زمین اس میں سما سکتے ہیں اور عرش تو کرسی سے بہت بڑا ہے تو جواب میں کہا جائے گا کہ جب فردوس دو سری جنتوں کی نسبت عرش کے زیادہ قریب ہے کہ عرش کے علاوہ اس کے اوپر کوئی جنت نہیں ہے تو عرش ہی اس کی چھت بنی نہ کہ دو سری جنتوں کی اور اس جنت کی نہایت ہی کشادگی اور بلندی کی وجہ سے اس کی طرف چڑھنا دنی سے اعلیٰ کی طرف بتدریج آہستہ آہستہ ہو گا درجے ایک دو سرے کے اوپر ہوں گے جیسے کہ قاری قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور درجات جنت پر چڑھتا جا آپ کا ٹھکانا وہاں ہے جہاں آپ آخری آیت پڑھیں گے اس کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ اس کا ٹھکانا بالکل آخری آیت کے پاس ہو گا جو اس نے حفظ کی تھی دو سرا مطلب یہ ہے کہ اس کے محفوظ تلاوت میں سے آخری آیت کے پاس اس کا مقام ہے۔ واللہ اعلم



چودھواں بابجنت کی چابی

معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”لا الہ الا اللہ“ کی گواہی دینا جنت کی چابی ہے امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں وہب بن منبہہ سے نقل کیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کیا ”لا الہ الا اللہ“ جنت کی چابی نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں لیکن ہر چابی کے دانت ہوتے ہیں اگر آپ ایسے چابی لے کر آئیں گے جس کے دندانے ہوں تو آپ کے لئے دروازہ کھول لیا جائے ورنہ نہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے سوال کیا اے اللہ کے رسول جنت کی چابی کیا ہے آپ نے فرمایا ”لا الہ الا اللہ“ یزید بن سعید نے فرماتے ہیں کہ تلواریں جنت کی چابیاں ہیں۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں آپ کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتاؤں میں نے عرض کیا کیوں نہیں ضرور بتائے فرمایا۔ ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ جنت کا دروازہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر مطلوب کی ایک چابی مقرر کی ہے جس سے وہ کھولا جاتا ہے چنانچہ وضو کو نماز کی چابی مقرر فرمایا جیسے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے۔

بِسْتَاخِ الصَّلَاةِ الطَّهْوَرِ وضو نماز کی چابی ہے

حج کی چابی احرام ہے، نیکی کی چابی سچ ہے جنت کی چابی توحید ہے علم کی چابی اچھا سوال اور اچھی طرح غور سے کان لگا کر سنا ہے نصرت اور کامیابی کی چابی صبر ہے اور مزید ملنے کی چابی شکر ہے ولایت کی چابی محبت اور ذکر ہے فلاح کی چابی تقویٰ ہے، توفیق ملنے کی چابی رغبت اور ڈر ہے قبولیت کی چابی مانگنا ہے آخرت میں رغبت کی چابی دنیا میں زہد اختیار کرنا ہے۔ ایمان کی چابی ان چیزوں میں غور و فکر کرنا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو غور و فکر کرنے کی

دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس قریب ہونے کی چابی اس کے ساتھ اپنے دل کو اسی کے لئے تابعدار اور سالم رکھنا اور کسی کام کرنے یا چھوڑنے اور محبت رکھنے اور بغض رکھنے میں اس کی رضامندی سامنے رکھنا ہے اور حیاۃ قلب کی چابی قرآن میں تدبیر اور سحری کے وقت گڑگڑانا اور گناہوں کا چھوڑنا ہے رحمت اور احسان کی چابی خالق کی عبادت اور اس کے بندوں کی نفع رسانی میں ہے رزق کی چابی تقویٰ اور استغفار کے ساتھ کوشش کرنا ہے عزت کی چابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے آخرت کے لئے تیاری کی چابی امید کا گھٹانا ہے اور ہر بھلائی کی چابی اللہ اور دار آخرت میں رغبت ہے اور ہر برائی کی چابی دنیا کی محبت اور لمبی امید ہے خیر اور شر کی چابیوں کی پہچان علم کے ابواب میں عظیم اور نافع ترین باب ہے۔ اس کی معرفت اور رعایت کی توفیق اسی کو ملتی ہے جو بڑا ہی خوش نصیب ہو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خیر اور شر کے لئے ایک چابی اور ایک دروازہ مقرر فرمایا ہے جس سے آدمی شر میں داخل ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک، تکبر اور پیغمبروں کے لائے ہوئے احکامات سے اعراض اور اس کے ذکر سے غفلت کو جہنم کی چابی بتایا ہے اور جیسے کہ شراب کو ہر برائی کی چابی قرار دیا غنی کو زنا کی چابی اور بد نظری کو عشق کی چابی، سستی اور آرام کو ناامیدی اور محرومیت کی چابی اور معاصی کو کفر کی چابی اور جھوٹ کو منافقت کی چابی حرص اور کینہ کو بخل کی چابی قطع رحمی اور ناحق مال لینے اور رسول اللہ کے لائے ہوئے احکامات سے پہلو تہی کو ہر بدعت اور گمراہی کی چابی قرار دیا۔

ان امور کی وہی شخص تصدیق کرے گا جس میں بصیرت اور عقل سلیم ہو جس سے وہ اپنی بھلائی اور برائی کو جانتا ہو اس لئے ہر بندے کے لئے یہ لازمی ہے کہ وہ ان چابیوں کے پہچاننے میں توجہ سے کام لے اللہ ہی توفیق دینے والے اور انصاف کرنے والے ہیں اسی کے لئے بادشاہی اور تعریف نعمت اور فضل ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا جو کچھ وہ کرتا ہے اور لوگوں سے پوچھا جائے گا۔



پندرہواں باب

جنت کی مہر اور رکھلے ہوئے شاہی فرمان کا بیان جو
موت اور جنت میں داخل ہوتے وقت اہل جنت کے
لئے لگائی جائے گی

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيْنَ ،
وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ . كِتَابٌ مَرْقُومٌ
يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ . (سورة المطففين)
ہرگز نہیں بیشک اعمالنامہ نیکوں کا علیین میں
ہے اور تجھ کو کیا خبر علیین کیا ہے علیین
ایک دفتر ہے لکھا ہوا اس کو دیکھتے ہیں نزدیک
والے یعنی فرشتے۔

اللہ تعالیٰ نے کتاب الابرار (نیک لوگوں کے اعمالناموں) کے بارے میں اس لئے
خبر دی تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ حقیقی طور پر لکھی ہوئی ہوگی پھر اللہ تعالیٰ نے ”کتاب
الابرار“ (نیک لوگوں کے اعمال ناموں) کو خاص طور پر اس لئے ذکر کیا کہ ان لوگوں کے پاس
مقربین یعنی انبیاء فرشتے اور مومنین میں سے سرداروں کے ہاں حاضری کا شرف حاصل ہوگا
اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے کتاب الفجار (گناہگاروں کے اعمالناموں) کا کوئی ذکر نہیں
کیا۔ تاکہ کتاب الابرار (نیکوں کے اعمالناموں) کی عظمت ظاہر ہو جائے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ
کے بہت معزز اور ان کی خاص مخلوق ہیں جیسے کہ بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جن امراء
(یعنی مملکت کے خاص لوگوں) کی تعظیم کرتے ہیں تو ان کی شرافت کے اظہار کے لئے مہر
(خاص اجازت نامہ) لکھ لیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے ایک
خاص رحمت اور اپنے بندے پر ایک انعام ہوگا۔

عن البراء بن عازب قال . نحر جنامع براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی جنازة فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی القبر وجلسنا حوله كأن علی رؤسنا الطیر وهو یلحدله . فقال . اعوذ با اللہ من عذاب القبر . ثلاث مرات ، ثم قال ان المئومنین اذا کان فی اقبال من الاخرة و انقطاع من الدنيا ، تنزلت الیہ الملائكة كأن علی وجوهہم الشمس مع کل واحد منهم حنوط و کفن فجلسوا منه مدبصرہ ثم یجیی ملک الموت ، حتی یجلس عند رأسہ فیقول : أیتها النفس المطمئنة اخرجی الی مغفرة من اللہ و رضوان ، قال فتخرج تسبیل کما تسبیل القطرة من فی السقاء ، فیأخذها ، فاذا أخذها لم یدعوها فی یدہ طرفہ عین حتی یأخذوها فیجعلوها فی ذالک الکفن ، و ذالک الحنوط ، ویخرج منها کأطیب نفحة مسک و جدت علی الأرض ، قال . فیصعدون بہا فلا یمرن بہا (یعنی علی ملا من الملائكة) الا قالوا ما هذا الروح الطیب؟ فیقولون فلان ابن فلان بأحسن اسمائہ الی کانوا یسمونه بہا

ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ (ایک انصاری) کے جنازے کی طرف نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اس کے لئے لحد کھودی جا رہی تھی آپ نے تین بار ارشاد فرمایا میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں پھر فرمایا مومن بندہ جس وقت دنیا کے منقطع ہونے اور آخرت کی طرف متوجہ ہونے میں ہوتا ہے تو آسمان سے روشن چروں والے فرشتے اس کی طرف آتے ہیں ان کے چہرے آفتاب کی طرح روشن ہوتے ہیں ان کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے اس قدر فاصلہ پر بیٹھتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے پھر ملک الموت علیہ السلام آکر اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے پس کہتا ہے اے پاک جان اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکل : فرمایا پس جان اس طرح نکلتی ہے جس طرح مشک سے پانی کا قطرہ بہ جاتا ہے اس کو وہ پکڑ لیتا ہے جس وقت وہ پکڑتا ہے دوسرے فرشتے آنکھ ہچکنے میں اسے اپنے ہاتھوں میں

فی الدنيا، حتی ینتھوا بہ الی السماء
الدنیا، فیستفتحون لہ فیفتح لھم،
ولیشیعہ من کل سماءٍ مقربوہا الی
السماء الّتی تلیہا، حتی ینتھى بہا الی
السماء الّتی فیہا اللہ عزوجل، فیقول
اللہ عزوجل اکتبو کتاب عبدی فی
علین واعیدوہ الی الأرض، فانی منہا
خلقتھم، وفیہا أعیدھم ومنہا
أخرجھم تارہ اخری۔ قال :

فتعاد روحہ فی جسدہ ویأتیہ ملکان
فیجلسانہ فیقولان لہ من ربک فیقول:
ہاہ ہاہ ما ہذا الرجل بعث فیکم،
فیقول : ہاہ ہاہ لا ادری فینادی
مناد من السماء ان کذب عبدی
فافشوه فی النار، وافتحوا لہ باباً الی
النار فیأتیہ من حرہا وسمومہا،
ویضیق علیہ قبرہ حتی تختلف
اضلاعہ، ویأتیہ رجل قبیح الوجہ
قبیح الثیاب، متن الریح فیقول لہ :
أبشر بالذی لیسوؤک ہذا یومک
الذی کنت توعد۔ فیقول، من

ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اس کفن میں
اسے داخل کر دیتے ہیں اور اس خوشبو میں
اسے لپیٹ دیتے ہیں اس سے نہایت عمدہ
مشک جو زمین میں پایا جاتا ہے ایسی خوشبو
مہکتی ہے وہ اسے لے کر چڑھتے ہیں فرشتوں
کی کسی جماعت کے پاس نہیں گزرتے مگر وہ
کہتے ہیں کہ یہ روح کیسی پاکیزہ ہے وہ کہتے
ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے اس کا وہ بہترین نام
لیتے ہیں جس کے ساتھ دنیا میں پکارا جاتا تھا
یہاں تک کہ اس کو لے کر آسمان دنیا تک
پہنچ جاتے ہیں اس کے لئے دروازہ کھلواتے
ہیں اس کے لئے دروازہ کھولا جاتا ہے ہر
آسمان سے مقرب فرشتے اوپر کے آسمان تک
اس کے ساتھ چلتے ہیں یہاں تک کہ ساتویں
آسمان تک اس کو پہنچایا جاتا ہے اللہ عزوجل
فرماتا ہے میرے بندے کا اعمال نامہ علیتین
میں لکھ دو اور اس کو زمین میں لوٹا دو کیونکہ
میں نے اس کو اس سے پیدا کیا اسی میں ان کو
لوٹاؤں گا اور اسی سے دوسری بار ان کو
نکالوں گا فرمایا کہ اس کی روح اس کے جسم
میں دوبارہ لوٹا دی جاتی ہے دو فرشتے اس
کے پاس آتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں اس کو
کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا

ویأتیه رجل حسن . الوجه حسن رب اللہ ہے وہ اسے کہتے ہیں تیرا دین کیا
 الثیاب طیب الريح فيقول أبشر بالذی ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر کہتے
 يسرك هذا يومك الذی كنت توعده ہیں یہ شخص جو تم میں مبعوث ہوا ہے کون
 فيقول له من أنت فوجهك الذی یحیی ہے وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں وہ کہتے
 بالخير؟ فيقول أنا عمك الصالح، ہیں ان باتوں کا تجھے کس طرح علم ہوا وہ کہتا
 فيقول رب أقم الساعة، رب أقم ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اس پر ایمان
 الساعة حتی ارجع الی اهلی ومالی قال لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی فرمایا پس
 آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے میرے
 بندے نے سچ کہا اس کے لئے جنت کا بچھونا
 بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ اور جنت کی
 طرف دروازہ کھول دو فرمایا حضرت نے کہ
 اس کے پاس جنت کی ہوائیں اور خوشبو آتی
 ہے اور انتہائے نظر اس کے لئے قبر کشادہ
 کر دی جاتی ہے فرمایا اور ایک خوبصورت
 اچھے کپڑوں والا آدمی جس سے خوشبو مہکتی
 ہے اس کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے تجھ کو
 خوشخبری ہو اس چیز کے ساتھ جو تجھ کو خوش
 کرے اس دن کا تو وعدہ دیا گیا تھا میت اسے
 کہتی ہے تو کون ہے تیرا چہرہ بھلائی لاتا ہے وہ
 کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں کہتا ہے کہ اے
 میرے رب قیامت قائم کر تا کہ میں اپنے
 اہل اور مال کی طرف لوٹ جاؤں۔
 پھر فرمایا اور کافر آدمی جس وقت آخرت کے

وان العبد الکافر اذا کان فی انقطاع
 من الاخرة واقبال علی الدنيا، تنزل
 الیه من السماء ملائكة سود الوجوه
 معهم المسوح فيجلسون منه
 مدالبصره، ثم یحیی ملک الموت حتی
 یجلس عند رأسه فيقول . ایتها النفس
 الخبیثة، اخرجی الی سخط من اللہ
 وغضب "قال" فتفرق فی جسده
 فتزعها کما ینزع السفود من
 الصوف المبلول فیأخذها فاذا لم
 يدعوها فی یدہ طرفة عین حتی يجعلوها
 فی تلك المسوح ویخرج منها کانتن
 ریح جيفة وجدت علی وجه الأرض
 فیصعدون بها فلا یمرن بها علی
 ملامن الملائكة الا قالوا ما هذا
 الروح الخبیث؟ فيقولون . فلان ابن

فلان باقبح اسمائه التي يسمي بها في انقطاع اور دنیا کی طرف متوجہ ہونے میں
الدنيا حتى ينتهي الي سماء الدنيا ہوتا ہے سیاہ چہرے والے فرشتے اس کی طرف
فستفتح له فلا يفتح له . اترتے ہیں ان کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں نگاہ

ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بينخني کے فاصلہ پر آکر بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک
”لا تفتح لهم ابواب السماء الموت آجاتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ
ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في جاتا ہے کتا ہے اے خبیث جان نکل اللہ کی
سم الخياط (سورة الاعراف ۴۰) ناراضگی اور غضب کی طرف وہ جسم میں
فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في پراگندہ ہو جاتی ہے وہ کھینچتا ہے اس سے جس
سجين في الأرض السفلى وتطرح طرح آنکڑہ ترشول سے کھینچا جاتا ہے اس کو
روحه طرحاً . پکڑ لیتا ہے جس وقت وہ اس کو پکڑتا ہے

ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم . فرشتے آنکھ جھپکنے میں اس سے لے لیتے ہیں
ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء اور اس ٹاٹ میں بند کر دیتے ہیں اور اس
فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مردار سے بڑھ کر بدبو اس سے نکلتی ہے جو
مكان سحيق . (سورة الحج ۳۱) روئے زمین پر پایا جائے اس کو لے کر چڑھتے

فيعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان
فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول
هاه ها لا ادري فينادى مناد من
السماء ان كذب عبدى فافشوه في
النار، وافتحو له باباً الى النار فيأتيه من
حرها وسموها، ويضيق عليه قبره حتى
تختلف اضلاعه، ويأتيه رجل قبيح
الوجه قبيح الثياب، متن الريح فيقول
له : أبشر بالذي يسئوك هذا يومك
پڑھی (ترجمہ) ان کے لئے آسمان کے
ہیں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے
گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ خبیث روح کس کی
ہے وہ کہتے ہیں فلاں ابن فلاں ہے اس کا
نہایت برا نام لیتے ہیں جس کے ساتھ دنیا میں
اس کا نام رکھا جاتا تھا یہاں تک کہ اس کو
آسمان دنیا پر لے جاتے ہیں اس کا دروازہ
کھلوا یا جاتا ہے تو اس کے لئے نہیں کھولا جاتا پھر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت
پڑھی (ترجمہ) ان کے لئے آسمان کے

دروازے نہیں کھولے جاتے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اس کا نامہ اعمال سجہن میں لکھ دو جو کہ زمین کے نیچے ہے اور اس کی روح پھینک دی جاتی ہے پھر آپ نے آیت پڑھی (جس کا ترجمہ یہ ہے) اور جو شخص شرک کرے اللہ کے ساتھ پس گویا کہ وہ گر پڑا آسمان سے پس اچک لیتے ہیں اس کو پرندے یا پھینک دیتی ہے اس کو ہوا دور کے مکان میں۔ پس اس کے جسم میں روح لوٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں پھر کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہا ہا میں نہیں جانتا پھر کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے ہا ہا میں نہیں جانتا پھر کہتے ہیں یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجا گیا ہے پس کہتا ہے ہا ہا میں نہیں جانتا تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے اس نے جھوٹ بولا اس کے لئے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کی طرف دروازہ کھولو اس کی گرمی اور گرم ہوا آتی ہے اس کی قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں اور ادراس نکل آتی ہیں اس کے پاس ایک شخص بد شکل نہایت برے

الذی کنت توعد۔ فیقول، من

انت فوجهک الوجہ الذی یجیسی
بالشر

فیقول أنا عملک الخبیث فیقول یا
رب لاتقم الساعة . رواہ ابو داؤد
بنحوہ فهذا التوقع والمنشور الاول.

بدبودار کپڑے پہنے آتا ہے کہتا ہے تجھے وہ چیز مبارک جس کو تو برا سمجھتا تھا یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ برائی لایا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیرا بد عمل ہوں وہ کہتا ہے اے میرے پروردگار قیامت قائم نہ کر۔

فصل

یہ تو پہلا شاہی فرمان تھا دو سرے شاہی فرمان کے متعلق طبرانی نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی شخص اس اجازت نامے (جنت کے ٹکٹ) کے بغیر داخل نہیں ہوگا (جس کا مضمون یوں ہوگا) اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والے مہربان ہیں یہ فلان فلان کے بیٹے کے لئے اللہ کی طرف سے اجازت نامہ ہے کہ اس کو اونچے باغ (جنت) میں داخل کر دو جس کے میوے جھکے پڑے ہیں۔

عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ "ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یدخل الجنة احد الا بجواز بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذا کتاب من اللہ لفلان ابن فلان ادخلو. جنة عالیة قطوفها دابة

سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی دو سری حدیث میں اس طرح وارد ہے

ترجمہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط پر مومن کو (جنت کا) ٹکٹ دیا جائے گا (جس پر مکتوب ہوگا) بسم اللہ

عن سلمان الفارسی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یعطى المؤمن جوازاً علی الصراط

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ هَذَا
کتاب من اللّٰه العزیز الحکیم
لفلان ابن فلان ادخلوه جنة
عالية قطوفها دانية۔
الرحمن الرحيم یہ اللہ غالب اور حکمت والے
کی طرف سے فلاں فلاں کے بیٹے کے لئے
جنت کا ٹکٹ ہے کہ اس کو اونچے باغ میں
داخل کر دو جس کے میوے جھکے پڑے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ جس دن دو مٹھیوں میں لوگوں کو تقسیم کیا گیا تھا تو جو مومن دائیں
ہاتھ کی مٹھی میں پڑا تھا پھر وہ روح ڈالنے کے دن جنتی لکھا جاتا ہے پھر موت کے وقت جنتیوں کی
فہرست میں لکھا جاتا ہے اس کے بعد قیامت میں اس کو یہ شاہی اجازت نامہ دیا جائے گا۔

فَاللّٰهُ الْمُسْتَعٰن



سولہواں باب

جنت کا صرف ایک ہی راستہ ہے

اس بات پر تمام پیغمبر اول سے لے کر خاتم الانبیاء صلوات اللہ علیہم و سلامہ تک متفق ہیں کہ جنت کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور جہنم کے بہت سارے راستے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے جنت کے راستے کے لئے واحد کا صیغہ اور جہنم کے راستوں کے لئے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے چنانچہ ارشاد ہے

وان هذا صراطی مستقیماً فاتبعوه
ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن
سبیلہ (سورۃ الانعام ۱۵۲)
اسی طرح ارشاد ہے

وعلی اللہ قصد السبیل و منها جائر
(سورۃ النحل ۹) راہ کج (ٹیرھی) بھی ہے۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سمجھانے کے لئے ایک سیدھا خط کھینچ کر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے پھر اس کے دائیں اور بائیں جانب کئی ٹیرھی لکیریں کھینچیں پھر فرمایا یہ بھی (مختلف) راستے ہیں اور ہزار راستے پر شیطان مقرر ہے جو اس کی طرف دعوت دیتا ہے پھر اللہ کے رسول نے یہ مذکورہ آیت تلاوت فرمائی۔

اگر کوئی کہے کہ دوسری آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے سلامتی کے راستوں کو بھی (صیغہ جمع) سے ذکر کیا ہے جیسا کہ ارشاد ہے

قد جاءکم من اللہ نور و کتات مبین
(سورۃ المائدہ ۱۶۱۵) سے روشنی اور کتاب ظاہر کرنیوالی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مختلف راستے ایک ہی راستے میں جمع کئے گئے ہیں جیسے کہ

چھوٹے راستے بڑے شارع عام میں پہنچ کر ختم ہو جاتے ہیں اس سے مراد ایمان کے مختلف شعبے ہیں جس کا مرکز ایمان ہے جیسے کہ ٹہنیوں کا مرکز درخت کا تنہ ہوتا ہے اور یہ راستے اللہ تعالیٰ کے داعی کی دعوت کو قبول کر کے اس کے حکم کی اطاعت اور خبر کی تصدیق کرنے کے راستے ہیں اور جنت کا راستہ صرف یہ ہے کہ اس کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کیا جائے۔

بخاری شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔

عن جابر رضی اللہ عنہ قال "جاءت ملائكة الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم : انه نائم وقال بعضهم العين نائم والقلب يقظان فقالوا ان لصاحبكم هذا مثلاً فاضربوا له مثلاً. فقالوا مثله مثل رجل بنى داراً وجعل مادبة وبعث داعياً فمن اجاب الداعى دخل الدار واكل من المادبة ومن لم يجيب الداعى لم يدخل الدار ولم ياكل من المادبة فقالوا اولوها له يفقهها فقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان، الدار الجنة والداعى محمد فمن اطاع محمداً اطاع الله ومن عصى محمداً فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. (رواة الترمذی)

کہ (کچھ فرشتے) نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس اس وقت آئے جب کہ آپ سو رہے تھے فرشتوں نے آپس میں کہا تمہارے اس دوست (نبی کریم علیہ السلام) کے متعلق ایک مثال ہے ان کو اس کی سامنے بیان کرو دوسرے فرشتوں نے کہا وہ تو سوئے ہیں ان میں سے بعض نے کہا بیشک آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل تو جاگ رہا ہے پھر اس نے کہا ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے گھر بنایا اور لوگوں کے کھانا کھانے کے لئے دسترخوان لگایا اور پھر لوگوں کو بلانے کے لئے آدمی بھیجا لہذا جس نے بلانے والے کی بات کو مان لیا وہ گھر میں داخل ہو گا اور کھانا کھائے گا اور جس نے بلانے والے کی بات کو قبول نہ کیا وہ نہ گھر میں داخل ہو گا اور نہ کھانا کھائے گا یہ سن کر فرشتوں نے آپس میں کہا اس کو وضاحت کے ساتھ بیان

کردو تاکہ یہ اسے سمجھ لیں بعض فرشتوں نے کہا وہ تو سوئے ہیں دو سروں نے کہا بیشک آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل تو جاگ رہا ہے اور پھر کہا گھر سے مراد تو جنت ہے اور بلا نیوالے سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی اس نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔

اس کو ترمذی نے بھی روایت کیا جس کے الفاظ یوں ہیں۔

ایک دن نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہمارے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا جبرئیل میرے سر کے پاس ہے اور میکائیل میرے پاؤں کے پاس ہے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق مثال بیان کرو، پھر اس نے کہا سن اللہ کرے تیرے کان سنیں اور تیرا دل سمجھ لے آپ کی اور آپ کی امت کی مثال اس بادشاہ کی طرح ہے جو گھر بنائے اور پھر (اس میں مخصوص) محل بنائے پھر قاصد کو بھیجے جو

خرح علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً فقال: انی رأیت فی المنام كأن جبریل عند رأسی ومیکائیل عند رجلی یقول احدهما لصاحبه: اضرب له مثلاً: فقال اسمع سمع اذنک واعقل عقل قلبک: انما مثلك ومثل امتک کمثل ملک اتخذ داراً ثم بنی علیها بیتاً ثم جعلی مائدةً ثم بعث رسولاً یدعو الناس الی طعامه فمذموم من اُحباب الرسول ومنهم من ترکہ فالله هوا الملك والدار الاسلام

والبیت الجنة و أنت یا محمد الرسول لوگوں کو اس کے کھانے کی طرف بلائے پھر
 فمن اجابك دخل الاسلام ومن دخل ان میں سے بعض لوگوں نے قاصد کی بات
 الاسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة مان لی اور بعضوں نے ترک کر دی پس
 اکل ما فيها
 بادشاہ سے مراد خدا ہیں اور گھر سے مراد
 اسلام ہے اور آپ اے محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم قاصد ہیں پس جو شخص آپ کی بات مان
 لے گا تو اسلام میں داخل ہو گا اور جو اسلام
 میں داخل ہو گا تو وہ جنت میں داخل ہو گا اور
 جو جنت میں داخل ہوا تو اس نے ان کھانوں
 کو کھایا جو جنت میں ہیں۔

وصح الترمذی

عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال صلی حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت
 رسول اللہ العشاء ثم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 انصرف فأخذ بيدي حتى خرج بي عشاء کی نماز پڑھی نماز سے فارغ ہوئے تو
 الى بطحاء مكة فأجلسني ثم خط على عبد اللہ بن مسعود کا (یعنی میرا ہاتھ پکڑا اور
 خطباً ثم قال : لا تبرحن خطك فإنه مجھ کو لے گئے مکہ معظمہ کی کنکریلی زمین میں
 سينتهى اليك رجال فلا تكلمهم يعني بطحاء مكه وہاں مجھے بٹھایا اور میرے
 فانهم لا يكلمونك“ ثم مضى رسول چاروں طرف ایک گول دائرہ کھینچا پھر فرمایا تم
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حيث اراد اپنے نشان سے باہر نہ لکنا بلکہ اسی میں رہنا
 فبينما أنا جالس في خطي اذا تانى رجال کیونکہ تمہارے پاس کچھ آدمی آئیں گے تم
 ان سے نہ بولنا وہ بھی تم سے ہرگز نہ بولیں
 گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں چاہا تشریف لے
 گئے میں اپنے نشان کے اندر ہی بیٹھا ہوا تھا کہ

كأنهم الزط أشعارهم أجسامهم اتنے میں میرے پاس کچھ آدمی آئے جیسے
 أجسامهم لا آری عورة ولا آری بشرًا جات ہوں ان کے بال اور بدن بھی
 ویتھون الی لا یجاوزون الخط، ثم دیہاتوں جیسے تھے وہ میری طرف آرہے
 یصدرون الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ تھے مگر نشان کے باہر ہی رہے اندر نہیں
 وسلم حتی اذا کان اخر اللیل لکن آئے پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد طرف گئے الغرض جب خیر رات آئی تو وہ
 جاءنی وأنا جالس فقال "لقد رانی لوگ نہیں آئے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 منذ اللیلة ثم دخل علی فی خطی وسلم میرے پاس تشریف لائے میں اس وقت
 فتوسد فخذی فرقد." وکان رسول بیٹھا ہوا تھا حضور ﷺ نے فرمایا میں شروع
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رقد نفخ رات سے سویا نہیں ہوں پھر آپ میرے
 فبینا أنا قاعد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ نشان کے اندر تشریف لائے اور میری ران
 وسلم متوسد فخذی اذا برجال کو تکیہ بنا کر سو گئے اور آپ جب سوتے تھے
 علیہم ثياب نیض اللہ أعلم ما بہم من تو خرائے لیتے تھے اس اثناء میں کیا دیکھتا ہوں
 الجمال فانتھوا الی فجلس طائفة کہ بہت سے آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے
 منهم عند رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہیں خدا جانتا ہے کہ وہ کیسے خوبصورت تھے
 علیہ وسلم وطائفة منهم عند رجليه ثم وہ لوگ میرے پاس آئے ان کا ایک گروہ
 قالوا مارأینا عبداً قد اوتی مثل ما اوتی رسول اللہ کے سر کے پاس بیٹھ گیا اور ایک
 هذا النبی ان عینہ تنامان وقلبه یقظان حضور کے پیروں کے پاس پھر ان لوگوں نے
 اضر بوالہ مثلاً مثل سید بنی قصر اثم آپس میں کہا ہم لوگوں نے ایک بندہ کو بھی
 جعل مآدبہ فدعا الناس الی طعامہ نہیں دیکھا جس کو اتنا ملا ہو جتنا اس پیغمبر کو ملا
 وشرابه فمن اجابه اکل من ہے ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کا دل
 طعامہ جاگتا رہتا ہے ان کی مثال یوں سمجھو کہ ایک
 سردار نے ایک محل بنایا پھر اس نے دستر

و شرب من شرابه ومن لم یجبه عاقبه
 او قال عذبه ثم ارتفعوا واستيقظ
 رسول الله صلى الله عليه وسلم عند
 ذلك فقال : سمعت ما قال هؤلاء؟
 وهل تدري من هم؟ قلت الله ورسوله
 اعلم قال هم الملائكة ما المثل الذي
 ضربوه؟ قلت الله ورسوله اعلم قال
 الرحمن بنى الجنة دعا اليها عباده فمن
 اجابه دخل الجنة ومن لم يجبه عذبه.

خوان چنا پھر لوگوں کو بلایا کہ میرے کھانے کی
 چیزیں آکر کھاؤ اور پینے کی چیزیں آکر پیو سو
 جس نے اس کی دعوت قبول کی اس نے اس
 کے دسترخوان پر کھانے کی چیز کھائی اور پینے
 کی چیز پی لی اور جس نے دعوت قبول نہیں کی
 تو سردار نے اس کو سزا دی یہ کہنے کے بعد وہ
 سفید پوش آدمی اوپر چلے گئے اور رسول
 اللہ جاگ اٹھے اور فرمایا تم نے ان لوگوں کی
 باتیں سنی آپ جانتے ہیں کہ یہ کون تھے؟
 میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی
 زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا ان لوگوں نے
 جو مثال دی وہ یہ ہے کہ رحمن نے بہشت
 بنائی اور اپنے بندوں کو اس کی طرف بلایا
 جس نے اس کی دعوت قبول کی وہ بہشت میں
 داخل ہوا اور جس نے دعوت قبول نہ کی اس
 کو عذاب دیا۔



سترھواں باب

جنت کے درجات کا بیان

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر
اولی الضرر و الجاہدون فی سبیل اللہ
باموالہم و انفسہم فضل اللہ الجاہدین
باموالہم و انفسہم علی القاعدین
درجۃ و کلا وعد اللہ الحسنی و فضل
اللہ الجاہدین علی القاعدین اجر
عظیماً. درجات منہ و مغفرة و رحمة
و کان اللہ غفوراً رحیماً. (سورۃ
النساء ۹۵-۹۶)

برابر نہیں بیٹھ رہنے والے مسلمان جن کو
کوئی عذر نہیں اور وہ مسلمان جو لڑنیوالے
ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور جان سے
اللہ نے بڑھا دیا لڑنے والوں کا اپنے مال اور
جان سے بیٹھ رہنے والوں پر درجہ اور ہر
ایک سے وعدہ کیا اللہ نے بھلائی کا اور زیادہ
کیا اللہ نے لڑنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں
سے اجر عظیم

ابن جریر رضی اللہ عنہ اس آیت کے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ ستر درجے ہیں ہر دو درجوں
کے درمیان ایک عمدہ اور دبلا بہترین گھوڑے کی رفتار سے ستر سال کی مسافت ہے اور عبد اللہ
بن مبارک رحمۃ اللہ آیت ”لہم درجات عند ربہم“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ لوگ درجات
کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہوں گے ہر ایک اپنے ہی درجے کی فضیلت کو
دیکھے گا نہ اپنے سے نیچے درجے والے کو دیکھ سکے گا اور نہ اس کو یہ معلوم ہو گا کہ لوگوں میں
سے کسی ایک کو اس پر فضیلت حاصل ہے۔

غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ میں پہلے ایک درجے سے فضیلت
بیان کی اور پھر کئی درجوں سے یہ اس لئے کہ ایک درجے کی فضیلت مجاہد اور جہاد سے بیٹھے
ہوئے معذور کے درمیان ہے اور کئی درجوں سے فضیلت مجاہد اور بلا عذر جہاد سے بیٹھنے
والے شخص کے درمیان ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

کیا ایک شخص جو تابع ہے اللہ کی مرضی کا برابر ہو سکتا ہے اس کے جس نے کمایا غصہ اللہ کا اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور کیا ہی بری جگہ پہنچا لوگوں کے مختلف درجے ہیں اللہ کے ہاں اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ کرتے ہیں۔

افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط
من الله وما واه جهنم وبئس المصير.
هم درجات عند الله والله بصير بما
يعملون.

(سورة آل عمران ۱۶۲-۱۶۳)
اور ارشاد ہے

ایمان والے وہی ہیں کہ جب نام آئے اللہ کا تو ڈر جائیں ان کے دل اور جب پڑھا جائے ان پر اس کا کلام تو زیادہ ہو جاتا ہے اس کا ایمان وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ لوگ جو کہ قائم کرتے ہیں نماز کو اور ہم نے جو ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں وہی ہیں سچے ایمان والے ان کے درجے ہیں اپنے رب کے پاس اور معافی اور روزی عزت کی۔

انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله
وجلّت قلوبهم واذ اتليت عليهم آياته
زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون.
والذين يقيمون الصلوة ومما رزقناهم
ينفقون. اولئك هم المؤمنون حقا
لهم درجات عند ربهم ومغفرة
ورزق كريم.

(سورة الانفال ۲-۴)

حضرت ابی سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنتی اپنے سے اوپر کے بالا خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم اس روشن ستارہ کو دیکھتے ہو جو طلوع اور غروب کے وقت آسمان کے افق میں ہوتا ہے اور یہ بالا خانے بزرگی اور فرق مراتب کے سبب سے ہوں گے جو جنتیوں

وفي الصحيحين عن ابى سعيد بن
الخدري ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: ان اهل الجنة ليزن اهل
الغرف من فوقهم كما يترءون
الكوكب الدرى الغابر من الأفق من
المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم:

قالوا يا رسول الله، تلك منازل الانبياء کے درمیان پایا جائے گا صحابہ نے عرض کیا یا
لا يبلغها غيرهم؟ قال بلى والذى رسول الله کیا یہ بالا خانے انبیاء کے مکانات
نفسی بیدہ رجال آمنوا با الله وصدقوا ہوں گے؟ اور انبیاء کے سوا ان میں کوئی نہ جا
سکے گا آپ نے فرمایا ہاں قسم ہے اس ذات کی

جس کے قبضے میں میری جان ہے ان میں وہ
لوگ جا سکیں گے جو خدا پر ایمان لائے اور
پیغمبروں کی تصدیق کی۔

افق کے بارے میں بخاری کے الفاظ زیادہ واضح ہیں اور غابر کا معنی قریب الغروب
تارے کے ہیں دوسرے تاروں کو جو کہ سروں کے اوپر ہوتے ہیں چھوڑ کر اس کے ساتھ تشبیہ
اور مثال دینے میں دو فائدے ہیں ایک تو نگاہوں سے دور ہونے کی وجہ سے دو سرا فائدہ اس
کا یہ ہے جنت کے درجات ایک دوسرے سے اعلیٰ ہیں اگرچہ اوپر والا درجہ نیچے والے سے
بلندی میں نہیں ہو گا جیسے کہ باغات ہیں یا پہاڑ کی چوٹی سے لے کر اس کے دامن تک اونچائی
اترائی ہوتی ہے۔ واللہ اعلم

اسی طرح صحیحین میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جنتی
صلى الله عليه وسلم قال. ان أهل اپنے سے اوپر بالا خانے والوں کو اس طرح
الجنة لیتراءون اهل الغرفة في الجنة دیکھیں گے جیسے کہ تم آسمان کے کنارے
کما ترون الكوكب في افق السماء. ستارہ دیکھتے ہو۔

امام احمد رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے

عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جنتی اپنے سے اوپر کے بالا خانے
الله عليه وسلم قال : ان اهل الجنة والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسا کہ تم
نیزاؤن في الجنة كما تراءون أوتروا ایک دوسرے کو دیکھتے ہو یا جیسا کہ تم اس

الکوکب الدرّی الغارب فی الأفق روشن ستارہ کو دیکھتے ہو جو طلوع اور غروب
الطالع فی تفاضل الدرجات قالوا کے وقت آسمان کے افق میں ہوتا ہے
یا رسول اللہ اولئک النبیون؟ قال بلی، درجات کا تفاضل فرق مراتب کے سبب ہو گا
والذی نفسی بیدہ واقوام آمنوا باللہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
رصدقوا المرسلین۔ وسلم یہ بالا خانوں والے انبیاء ہوں گے؟
آپ نے فرمایا ہاں قسم ہے اس ذات کی جس
کے ہاتھ میں میری جان ہے ان میں وہ لوگ
جاسکیں گے جو خدا پر ایمان لائے اور پیغمبروں
کی تصدیق کی۔

اس حدیث میں (غارب) کا لفظ اور ابو سعید خدری کی حدیث میں (غابر) کا لفظ آیا
ہے اور لفظ (الطالع) تارے (کوکب) کی صفت ہے "ایک صفت غروب ہونے اور دوسری
طلوع ہونے کے اعتبار سے ہے۔"

اس معنی پر ایک دوسری حدیث صراحتاً "دلالت کر رہی ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
مروی ہے۔"

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی اپنے اوپر کے بالا
خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسا کہ
روشن ستارہ طلوع اور غروب کے وقت
آسمان کے کنارے دکھائی دیتا ہے یہ جنتیوں
کے درجات میں فرق کی وجہ سے ہو گا صحابہ
نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ درجوں
والے انبیاء ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں اور
قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری

عن أبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال : ان اهل الجنة
یترآون فی الغرف کما یرى
الکوکب الشرقی والکوکب الغربی
فی الأفق فی تفاضل الدرجات قالوا
یا رسول اللہ اولئک النبیون . قال : بلی
والذی نفسی بیدہ واقوام آمنوا باللہ
وصدقوا المرسلین .

جان ہے ان میں وہ لوگ جا سکیں گے جو خدا پر ایمان لائے اور پیغمبروں کی تصدیق کی۔

(۱) مسند میں ابو سعید خدری کی روایت ہے۔

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے آپس میں محبت رکھنے والے جنت میں ایک دوسرے کے بالا خانوں کو طلوع اور غروب کے وقت روشن ستارے کی طرح دیکھیں گے آپ سے پوچھا گیا یہ کون لوگ ہوں گے آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔

عن ابی سعید الخدری قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المتحابین لتری غرفہم فی الجنة کالکوکب الطالع الشرقی أو الغربی فیقال من من هولاء؟ فیقال : هولاء المتحابون فی اللہ عزوجل .

(۲) اسی طرح مسند میں بھی حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں اگر تمام عالم کے لوگ ایک درجے میں جمع ہو جائیں تو ان کے لئے کافی ہوگا۔

عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال : ان فی الجنة مائة درجة ولوان العالمین اجتمعوا فی احداهن وسعتهم .

(۳) مسند میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (قیامت کے دن) صاحب قرآن سے کہا جائے گا جب وہ جنت میں داخل ہوگا پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔

عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن اذا دخل الجنة اقرأ واصعد فیقرأ (صاحب قرآن سے کہا جائے گا جب وہ جنت میں داخل ہوگا پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔)

شیء معہ .

چنانچہ وہ پڑے گا اور چڑھے گا ہر آیت پر
ایک درجہ ملے گا یہاں تک کہ اس کا مقام
آخری آیت پر ہو گا جو وہ پڑھے گا۔

یہ حدیث اس بات پر صراحتاً دلالت کرتی ہے کہ جنت کے درجے سو سے زیادہ ہیں
اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو آیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ
جنت میں سو درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لئے تیار کئے ہیں
ہر دو درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے جب تم اللہ
تعالیٰ سے دعا مانگو تو جنت الفردوس کی دعاء مانگا کرو کیونکہ یہ جنت کا درمیان ہے اور اعلیٰ ترین
مقام ہے جس کے اوپر رحمن کا عرش ہے اور اس سے جنت کی نہریں پھوٹی ہیں تو اس حدیث
میں سو درجوں سے مراد تمام درجوں میں سے سو ہیں یا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سو درجے
اس کے انتہائی درجے ہیں اور ہر درجے کے ضمن میں اس سے کم ایک اور درجہ ہے۔

اس معنی (یعنی جنت کے درجے سو سے اوپر ہیں) پر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی
حدیث بھی دلالت کرتی ہے۔

عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے
صلی اللہ علیہ وسلم یقول: من صلی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہولاء الصلوات الخمس وصام شہر سے سنا آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص ان پانچ
رمضان کان حقا علی اللہ ان یغفر له نمازوں کو پڑھے اور رمضان کے مہینے کے
ہاجر او قعد حیث ولدته اس آیت روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ پر اس کی بخشش
یا رسول اللہ الا اخرج فاوذن الناس؟ حق ہے۔ ہجرت کرے یا وہیں بیٹھا رہے
جہاں اس کو اس کی ماں نے جنا ہے میں نے
عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں نکل کر لوگوں
میں اس کا اعلان نہ کر دوں؟ آپ نے ارشاد
فرمایا لوگوں کو عمل کرنے دو بیشک جنت میں
قال: لا ذر الناس یعملون وان فی الجنة
مائہ درجۃ بین کل درجتین منها مثل
ما بین السماء والأرض و اعلیٰ درجۃ
منہا الفردوس و علیہا یكون العرش

وہی اوسط شئی فی الجنة و منها
تفجرا أنهار الجنة و اذا سألتم الله
فسلوہ الردوس (رواہ الترمذی)
سو درجے ہیں ہر دو درجوں کے درمیان
فاصلہ ہے جس قدر زمین اور آسمان کا ہے
سب سے اعلیٰ درجہ ان میں فردوس کا ہے
اور اسی پر عرش ہے اور یہ اوسط جنت ہے
اور فردوس سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں
اور جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا
سوال کرو۔

و عن عبادة بن الصامت أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم: قال ان في الجنة
مائة درجة ثم ذكر نحو حديث معاذ
عبادة بن الصامت رضي الله عنه کہتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو
درجے ہیں پھر آگے حدیث معاذ کے طرح
بیان کی۔

ابو هريره رضي الله عنه کہتے ہیں رسول اللہ صلی
عن ابی ہریرہ قال: قال رسول اللہ
صلى الله عليه وسلم: في الجنة مائة
درجة ما بين كل درجتين مائة عام.
یہ جملہ روایات لفظ ”فی“ (یعنی فی الجنة) کے ساتھ بھی مروی ہیں اور اس کے بغیر
بھی مروی ہیں اگر ان روایات میں لفظ ”فی“ کو ثابت کیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہو گا کہ یہ
سو درجات جنت کے تمام درجوں میں سے کچھ درجے ہوں گے اور اگر ان روایات میں لفظ
”فی“ کا سقوط مانا جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہو گا کہ یہ سو بڑے درجات ہیں جو دو سرے چھوٹے
کئی درجات کو متضمن ہیں واللہ اعلم۔

دو درجوں کے درمیان سو سال کے فاصلے اور پانچ سو سال کے فاصلے والی روایت

میں کوئی تقاض نہیں کیونکہ یہ اختلاف تیز چلنے اور آہستہ چلنے کے اعتبار سے ہے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کو سمجھانے کی غرض سے ذکر فرمایا۔

اس پر ابو سعید خدری کی حدیث بھی دلالت کرتی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مائة درجة في الجنة ما بين
والدرجتين ما بين السماء والأرض ايے ہیں کہ دو درجوں کے درمیان اتنا
او بعد ما بين السماء والأرض قلت فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے
یا رسول الله لمن؟ قال للمجاهدين في درميان ہے یا ان دونوں سے بھی دور میں
نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ یہ
سبیل اللہ .

درجات کس کے لئے ہیں آپ نے ارشاد
فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں
کے لئے۔

○○○

اٹھارھواں باب

جنت کا سب سے اونچا درجہ اور اس کا نام

(۱) عن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إذا سمعتم المئوذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي و احدة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا لي الوسيلة، فانها منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وأرجو ان أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي.

عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم مؤذن کو سنو پس کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے پھر درود مجھ پر بھیجو اس لئے کہ جس نے ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر دس بار رحمت بھیجتا ہے پھر اللہ سے میرے لئے وسیلہ مانگو پس بیشک وہ جنت میں ایک درجہ ہے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے لئے وہ لائق ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا جس نے میرے لئے وسیلہ مانگا میری شفاعت اس پر واجب ہوگئی۔

عن ابی ہریرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا صليتم فسلوا الله لي الوسيلة قبل يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال اعلى درجة في الجنة لا ينالها الا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم نماز پڑھ لو تو اللہ سے میرے لئے وسیلہ مانگو آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وسیلہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جنت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے جو ایک ہی آدمی کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔

روایت اس طرح ہے "رجوان اکون انا هو" وجہ یہ ہے کہ یہ پورا جملہ "کان" کے اسم کی خبر ہے "کان" کا اسم اس میں ضمیر مستر ہے اور "انا" نہ ضمیر فصل ہے اور نہ تاکید بلکہ متبداء ہے۔

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة آت محمد بن الوسيلة والفضيلة والدرجة ۱" الرفيعة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته الا حلت له الشفاعة يوم القيامة

بخاری اور مسلم میں حضرت (1) جابر رضي الله عنه کی روایت ہے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کہے جس وقت اذان سنتا ہے اے اللہ پروردگار اس دعوت کاملہ پوری اور نماز قائمہ کے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی اور پہنچان کو مقام محمود پر جس کا تو نے وعدہ کیا ہے قیامت کے دن اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔

حدیث کے الفاظ میں "مقاماً" آیت قرآنی کے ساتھ موافقت کی وجہ سے نکرہ ہے کیونکہ جب یہ متعین ہو گیا اور شخص واحد میں منحصر ہوا تو معرفت کا قائم قائم بنا لہذا اس کے ساتھ معرفت والا معاملہ صحیح ہے اور یہ "وعدتہ" سے بدل بنانے کے بجائے بہتر ہے۔ فائدہ

عن ابی سعید الخدری قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الوسيلة درجة عند الله عز وجل ليس فوقها درجة فسلوا الله لي الوسيلة. (وذكره ابن أبي الدنيا وقال فيه) درجة في الجنة ليس في الجنة درجة اعلى منها فسلوا الله أن يثوبتنيها على رؤوس الخلائق.

ابو سعید خدری رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وسیلہ اللہ کے ہاں ایک درجہ ہے جس کے اوپر کوئی درجہ نہیں پس اللہ سے میرے لئے وسیلہ مانگو جنت میں ایک درجہ ہے جنت میں اس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں پس اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ وہ تمام مخلوق کے سامنے عطا کیا جائے۔

(۱) صحیح بخاری اور جامع ترمذی میں حضرت جابر کی اس روایت میں "۴ درجہ الرفيعة" کے الفاظ نہیں ہیں۔ قال ابن القيم في الزاد ان المختار صلوة التشهد ومن اللذكار دعوة الباب واما زيادة "والدرجة الرفيعة" ليس لها اصل۔ وهو الترمذی عرف الشذی ص ۵۳ مترجم۔

عن عائشہ قالت جاء رجل الي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله والله انك لأحب الي من نفسي وانك احب الي من اهلي وأحب الي من ولدي، واني لأكون في البيت فأذكرك فما اصبر حتي اتيك فأنظر اليك، واذا ذكرت موتي وموتك عرفت انك اذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين واني اذا دخلت الجنة خشيت أن لا اراك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتي نزل جبرئيل بهذه الآية.

ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا.
(سورہ النساء ۶۹)

اور جو حکم پانے اللہ کا اور اس کے رسول کا سو وہ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا کہ وہ نبی اور صدیق اور شہید اور نیک بخت ہیں اور اچھی ہے ان کی رفاقت۔

نبی کریم ﷺ کے اس درجے کا نام ”وسیلہ“ اس لئے رکھا گیا کہ یہ رحمن کے عرش سے قریب ترین درجات میں سے ہے لفظ ”وسیلہ“ کا اصل اشتقاق (قرب) سے ہے یہ (لعمدہ) کا وزن ہے (من وسل الیہ) سے لیا گیا ہے جس کا معنی (تقرب الیہ) یعنی قرب کے

لئے جیسا کہ لبید کے شعر میں ہے۔

بلکہ ہر عظیم الشان کی طرف قریب ہونے والا ہے۔

ہل کل ذی راہی الی اللہ واسئل

وسیلہ کے معنی ملانے کے ہیں کیونکہ یہ جنت کے عظیم شرافت والا نورانی مقام ہے صالح بن عبدالکریم فرماتے ہیں کہ فضہیل بن عیاض نے ہم سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ جنت کیوں حسین ہے؟ اس لئے کہ رب العالمین کا عرش اس کی چھت ہے عکرمہ نے ابن عباس سے نقل کیا۔

جنت میں تمہارے گھروں کی چھتوں کی نورانیت اللہ تعالیٰ کے عرش کے نور کی وجہ سے ہوگی۔

نہور سقف مساکنکم

نور عرشہ

بکر حضرت حسن سے نقل کرتے ہیں کہ جنت کا نام عدن اس لئے رکھا گیا کہ اس کے اوپر رحمن کا عرش ہے جس سے جنت کی نہریں پھوٹی ہیں اور عدنی حوروں کو دوسرے عام حوروں پر فضیلت حاصل ہے ”قربى اور زلفى“ کا ایک معنی ہے اگرچہ وسیلے کے اندر اللہ کی طرف تقرب کے معنی کے مختلف اقسام پائے جاتے ہیں۔

کلبی فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں اس کی خوب وضاحت فرمائی ہے چنانچہ ارشاد ہے۔

اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم ترجمہ: وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود الوسيلة ايهم اقرب .
(سورۃ الاسراء ۵۷)
ڈھونڈتے ہیں اپنے رب تک وسیلہ کہ کونسا بندہ بہت نزدیک ہے۔

اللہ کا قول ”ايهم اقرب“ میں جس وسیلہ کی تفسیر ہے یہ ان لوگوں کا وسیلہ ہے جن کی مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے تھے اور مشکلات میں پکارتے تھے (یعنی بزرگان اور اولیاء کا) اور اس میں آگے بڑھتے تھے حاصل یہ ہے کہ جیسے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی بندگی کرنے والے اور سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے اور سب

سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اور محبت کرنے والے تھے تو ایسا ہی آپ کا مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ترین مراتب میں سے ہو گا جو جنت میں سب سے اونچا درجہ ہے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی امت کو حکم دیا ہے کہ وہ آپ کے لئے اس درجے کی دعا مانگیں تاکہ اس دعا کے سبب ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب اور ایمان کی زیادتی کی سعادت حاصل ہو جائے اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے اس درجے کے اسباب بھی مقدر فرما دیئے ایک تو امت کا دعا مانگنا اس کے لئے اس وجہ سے کہ امت کو ہدایت اور ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے نصیب ہوا حدیث کے الفاظ ”صلت علیہ“ یہ ”علیہ“ اور ”لہ“ دونوں کے ساتھ مروی ہے جنہوں نے لام سے روایت کیا تو اس صورت میں معنی یہ ہو گا اس شخص کو حضور علیہ السلام کی شفاعت حاصل ہوگی اور جنہوں نے ”علی“ کے ساتھ روایت کیا ہے تو اس صورت میں معنی یہ ہو گا اس شخص پر میری شفاعت واقع ثابت ہوگی۔

واللہ اعلم

○○○

انیسواں باب

- (۱) اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر جنت کا سامان پیش کرنا
 (۲) اور جس قیمت کا اللہ تعالیٰ نے ان سے مطالبہ کیا
 (۳) مومنوں اور ان کے رب کے درمیان خرید و
 فروخت کا معاملہ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی (اور خدا کے ہاتھ مال و جان بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ) وہ لوگ اللہ کی راہ میں (یعنی جہاد میں) لڑتے ہیں جس میں (کبھی) قتل کرتے ہیں اور (کبھی) قتل کئے جاتے ہیں اس (قتال) پر (ان سے جنت کا) سچا وعدہ کیا گیا ہے تو ریت میں (بھی) اور انجیل میں (بھی) اور قرآن میں (بھی) اور یہ بات (مسلم ہے کہ) اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے اور تم لوگ اپنی اس بیع پر جس کا تم نے اللہ تعالیٰ سے معاملہ ٹھیرا لیا ہے خوشی مناؤ اور یہ بڑی کامیابی ہے۔

ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم
 و أموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في
 سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وعدا
 عليه حقاً في التوراة والانجيل والقرآن
 ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا
 ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو
 الفوز العظيم.

(سورة التوبة ۱۱۱)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں اور مالوں کو جنت کا ثمن بنایا کہ جب یہ

- لوگ ان کو اس میں خرچ کریں گے تو یہ ثمن بننے کا مستحق ہو گا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ عقد (خرید و فروخت) کیا اور تاکید کی مختلف قسموں سے اس کو موکد بنایا۔
- (۱) اللہ تعالیٰ نے یہاں جملہ خبریہ استعمال کیا اور حرف ان سے موکد بنایا۔
- (۲) صیغہ ماضی سے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی یعنی یہ معاملہ واقعی ثابت اور طے ہو چکا ہے۔
- (۳) اس عقد کی اضافت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف کی یعنی اس بیع میں مشتری اس کی ذات اقدس ہے۔
- (۴) اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ اس معاملے میں ثمن حوالے کرنے کا وعدہ ہے جس میں وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔
- (۵) لفظ و علیٰ کا استعمال جو کہ وجوب کے لئے آتا ہے اپنے بندوں کو بتانے کے لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات پر یہ لازم کیا ہے۔
- (۶) (وعدا علیہ خقاً) میں ”حقاً علیہ“ سے زیادہ تاکید ہے۔
- (۷) اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کا محل بتایا کہ یہ وعدہ آسمان سے نازل شدہ افضل ترین کتابوں تورات، انجیل، قرآن میں ہے۔
- (۸) اللہ تعالیٰ نے استفہام انکاری کے صیغے سے اپنے بندوں کو بتلایا کہ اس سے بڑھ کر کون وعدے کا پورا کرنے والا ہے۔
- (۹) اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ مومن اس عقد پر خوشی کا اظہار کریں اور اس کے تمام ہونے اور لازمی ہونے پر ایک دوسرے کو اس کی خوشخبری دیں کہ اس میں نہ خیار ثابت ہے اور نہ اس میں فسخ کا مکان ہے۔
- (۱۰) اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ اس بات کی خبر دی کہ مومنوں کی اللہ کے ساتھ یہ خرید و فروخت بہت بڑی کامیابی ہے آیت میں ”بیع“ بمعنی (بیع) کے ہے جو انہوں نے ثمن (مال و جان) کے عوض میں حاصل کیا اور وہ بیع جنت ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”باہتم“ کا معنی یہ ہے کہ تم لوگوں نے جو عوض اور ثمن پیش کی (تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہئے)

پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات اور علامات بیان کیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ٹھیرانا کہ معلوم ہو جائے کہ یہ عقد ان صفات کے حامل لوگوں سے ہوا ہے کسی اور کے ساتھ نہیں۔

اہل عقد کی صفات

(۱) اللہ تعالیٰ کی ناپسند کردہ چیزوں سے یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والے۔ (۲) اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ (۳) اور اس کی حمد و ثناء کرنے والے ہیں۔ (۴) 'السانعون' اس کی کئی تفسیریں ہیں۔ (۱) روزہ رکھنے والے ہیں۔ (۲) طلب علم کے لئے سفر کرنے والے ہیں۔ (۳) جہاد کرنے والے ہیں۔ (۴) دائمی طور پر طاعت کرنے والے ہیں تحقیق اس میں یہ ہے یہاں سیاحت سے مراد اللہ کے ذکر اور اس کی محبت اور انابت الی اللہ اور شوق لقاء میں دل کی سیاحت ہے جس پر مذکورہ افعال مرتب ہوتے ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ازواج کے بارے میں بیان کیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دیدیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں دوسری ازواج مہیا فرمادیں گے جو "سانحات" ہوں گی ظاہریات ہے کہ یہاں ان کی سیاحت سے مراد جہاد ہے اور نہ طلب علم کے لئے سفر اور نہ دائمی روزے ہیں بلکہ یہاں سیاحت سے مراد اللہ تعالیٰ کی محبت اور خشیت اور اس کی طرف انابت اور اس کے ذکر میں دلوں کی سیاحت ہے۔

غور کرنے کا مقام ہے۔

کہ حق تعالیٰ نے عبادت اور توبہ کو کیوں ساتھ ساتھ ذکر فرمایا؟ اس لئے کہ توبہ اللہ تعالیٰ کے ناپسند کردہ اعمال کے چھوڑنے کا نام ہے اور عبادت اللہ تعالیٰ کے پسند کردہ فعل کے کرنے کا نام ہے۔

حمد اور سیاحت کو ساتھ ساتھ ذکر فرمایا اس لئے کہ حمد اللہ تعالیٰ کی صفات کمال سے تعریف کا نام ہے اور زبان کی سیاحت اس کے افضل ذکر میں ہے اور یہ اس کے ذکر محبت اور اجلال میں دل کی سیاحت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی ﷺ کی صفات میں عبادت اور

سیاحت کو ساتھ ساتھ ذکر فرمایا کیونکہ (لفظ عبادت) بدن کی عبادت کا نام ہے اور سیاحت دل کی عبادت ہے۔

اور اس طرح حق تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کو ساتھ ساتھ ذکر کیا کیونکہ اسلام علانیہ طور پر ماننے کا نام ہے اور "ایمان" دل سے ماننے کا نام ہے جیسے کہ مسند میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث ہے۔

الاسلام علانیہہ والایمان فی القلب
اسلام کھلم کھلا (افعال) سے تابعداری ہے
اور ایمان دل میں ہوتا ہے۔

قنوت اور توبہ کو ساتھ ساتھ ذکر کیا (سورہ تحریم میں) اس لئے کہ "قنوت" اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال کے کرنے کا نام ہے اور توبہ اس کے ناپسند اعمال کے چھوڑنے کا نام ہے اور ثبوت اور بکارت کو متصل ذکر کیا اس لئے کہ ثبوت و طی شدہ عورت ہے جو مشکلات برداشت کر چکی ہے اور یہ اس کی صعوبت ہے اور یہ (بکارت) تو وہ سبزہ زار ہے جس میں ابھی تک کوئی نہیں چرا۔

رکوع اور سجدہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ساتھ ساتھ ذکر فرما کر دونوں کے درمیان واو (عاطفہ) داخل کیا اس بات کو بتلانے کے لئے کہ ان میں سے ایک کافی نہیں ہوتا ہے جب تک کہ دوسرا اس کے ساتھ نہ ہو اور اس کے بعد حدود کی حفاظت کو ذکر کیا کہ ان حدود کی حفاظت انسان کو خود بھی کرنی چاہئے اور دوسروں کو بھی اس کی حفاظت کا حکم دینا چاہئے اس آیت نے قلب انسانی کو اس بیع کی شرافت اور عظمت بتادی کہ اگر آپ بیع کے قدر و منزلت سے ناواقف ہیں تو آپ کو دیکھنا چاہئے اس میں مشتری (خریدنے والا) کون ہے؟ ثمن (قیمت) کیا چیز ہے؟ اور یہ معاملہ کن کے ہاتھوں طے ہوا؟ پس اس معاملے میں سامان انسان کی جان ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے مشتری (خریدنے والے) ہیں اور ثمن نعمت والے جنت ہیں اور اس عقد میں سفیر اس کی تمام مخلوق میں افضل ترین فرشتہ (جبریل) ہیں اور تمام بشریت میں سے افضل ترین ذات (محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے)۔

قد باعناک ان ترعنی مع الہم

قد ہیودک لامر لولفظت

جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ
 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 من خاف ادلج و من ادلج بلغ المنزل -
 الا ان سلعة اللہ غالية الا ان بسعة
 اللہ الجنة هذا حدیث حسن غریب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو
 شخص ڈرتا ہے اول رات بھاگتا ہے اور جو
 شخص بھاگتا ہے منزل تک پہنچ جاتا ہے خبردار
 اللہ کی متاع مہنگی ہے خبردار اللہ تعالیٰ کی متاع
 جنت ہے

ابو نعیم کی کتاب "صفتہ الجنة" میں حضرت انس کی روایت ہے۔

عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء
 اعرابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم قال : ما من الجنة؟ قال : لا اله
 الا اللہ .
 حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی
 آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جنت
 کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جنت کی
 قیمت "لا اله الا اللہ" ہے۔

اس حدیث کے شواہد بہت زیادہ ہیں۔

وفي الصحيحين من حدیث ابی ہریرة
 : ان اعرابياً جاء الی رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ،
 دلني علی عمل اذا عملته دخلت
 الجنة؟
 فقال أن تعبد اللہ ولا تشرك به شیاً
 وتقيم الصلاة وتؤتي الزکوة
 المفروضة و تصوم رمضان قال
 :والدی نفسی بیده لا أزيد علی هذا
 صحیحہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی
 روایت ہے ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
 عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا عمل بتلا
 دیجئے جب میں اسے کر لوں تو جنت میں
 داخل ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی
 عبادت کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا
 فرض نماز پڑھ اور فرض زکوٰۃ ادا کر رمضان
 کے روزہ رکھ کما اس نے اللہ کی قسم جس
 کے قبضہ میں میری جان ہے میں کوئی چیز بھی

نیا ولا أنقص منه فلما ولى قال من سره أن ينظر الي رجل من اهل الجنة فلينظر الي هذا.

اس پر کبھی بھی نہیں بڑھاؤں گا اور نہ اس میں کوئی کمی کروں گا۔ پھر جب وہ پھر کر جانے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ ایک جنتی آدمی کو دیکھے تو وہ اس کی طرف دیکھ لے۔

وفي صحيح مسلم عن جابر قال اتى النعمان بن قوئل الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت اذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم داخل هو جاؤں گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا جی ہاں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نعمان بن قوئل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بتلا دیجئے اگر میں فرض نماز پڑھا کروں حرام کو حرام اور حلال کو حلال جانوں تو جنت میں داخل ہوں گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا جی ہاں۔

وفي صحيح مسلم عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنة.

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مرے اور اس کا عقیدہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو جنت میں داخل ہو گا۔

وفي الصحيحين عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فأخبرني قال فبشرني أنه من مات من أمتك أو رجبته خبردي يا فرميا مجھے خوشخبری دی کہ جو کوئی آپ کی امت میں سے اس حال میں

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے آتا من ربي سے ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھے خبر دی کہ جو کوئی آپ کی امت میں سے اس حال میں

لا یشرك بالله شیاءٌ دخل الجنة قلت
وان زنی وان سرق؟ قال وان زنی
وان سرق.
مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ
ٹھہراتا ہو جنت میں داخل ہو گا میں نے عرض
کیا اگرچہ زنی کرے اور چوری کرے آپ
نے فرمایا اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے

وفي الصحيحين من حديث عبادة بن
الصامت قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم من قال أشهد ان لا اله الا
الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده
ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله
وكلمة ألقاها الى مريم وروح منه
وان الجنة حق وان النار حق ادخله
الله من اي ابواب الجنة الثمانية شاء،
وفي لفظ،
”ادخله الله الجنة على ما كان من كس عمل کے اوپر ہو۔“
عمل

وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم أعطى أبا هريرة نعيه
فقال اذهب بنعلي هاتين فمنا اقيت
من رواء هذا الحائط يشهد أن لا اله
الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة.
صحیح مسلم میں روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی دو
جو تیاں دیں اور فرمایا یہ میری دو جو تیاں
لے جاؤ (بطور علامت) اس باغ کے پچھے
جو شخص ملے جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا

کوئی معبود نہیں اس حال میں کہ اس کا دل
یقین رکھتا ہو کہ میں اس کو جنت کی بشارت
دوں۔

وقال روح بن عبادة عن حبيب بن
الشهيد عن الحسن قال: ثمن الجنة لا
اله الا الله.

عن جابر قال سمعت رسول الله صلي
الله عليه وسلم يقول لا يدخل احدا
منكم الجنة عمله ولا يخرج من النار
ولا انا الا بتوحيد الله تعالى.
حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا
کہ تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں
داخل نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کو جہنم سے
خلاصی دے سکتا ہے اور نہ میں (یعنی اپنے
عمل سے بچ سکتا ہوں) مگر اللہ کے ایک ماننے
سے (بچ جائیں گے)

فصل

یہاں ایک ضروری امر پر توجہ کرنا واجب ہے وہ یہ کہ جنت میں اللہ کی رحمت سے
ہی داخل ہو گا بندے کا عمل اگرچہ سبب ہے لیکن مستقل نہیں ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے
جنت میں داخل ہونے کے لئے اعمال کو سبب ٹھہرایا چنانچہ ارشاد ہے ”بما كنتم تعملون“
(سبب تمہارے نیک اعمال کے) تم جنت میں داخل ہو گے حالانکہ حدیث میں نبی کریم علیہ
الصلاة والسلام نے اعمال کے سبب داخل ہونے کی نفی کی ہے

لن يدخل احد منكم الجنة بعمله
فرمایا تم میں سے ایک بھی جنت میں اپنے عمل
کے سبب ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا۔

لیکن ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے (۱) پہلی وجہ جو سفیان ثوری وغیرہ نے

ذکر کی ہے یہ ہے کہ جہنم سے نجات اللہ تعالیٰ کے درگزر کرنے سے ہوگی اور جنت میں داخلہ اس کی رحمت سے ہوگا درجوں اور منزلوں کی تقسیم اعمال کی حیثیت سے ہوگی اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آئندہ آنے والی حدیثیں دلالت کرتی ہیں جس میں وارد ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے اعمال کی فضیلت کے بقدر منازل میں ٹھہرائے جائیں گے۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ (بعمل) میں باء جو دخول کی نفی کر رہی ہے یہ باء معاوضہ ہے جس میں عوضین میں سے ایک دوسرے کا مقابل ہوتا ہے اور جو باء (بما کنتم تعملون) میں دخول ثابت کر رہی ہے باء سببہت ہے جو سببہت کا تقاضا کرتی ہے اگرچہ یہ سببہت حصول میں مستقل نہیں ہے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دونوں باتوں کو اس حدیث میں جمع فرمایا چنانچہ ارشاد ہے۔

سیدھے رہ کر آگے بڑھتے رہو اور خوشخبری
 دیتے رہو یہ جان رکھو کہ تم میں سے کوئی
 ایک اپنے نیک عمل کی وجہ سے نجات نہیں پا
 سکتا (یہ سن کر) صحابہ نے عرض کیا اور نہ
 آپ اے اللہ کے رسول؟ آپ ﷺ نے
 فرمایا ہاں (میں بھی نیک عمل سے نجات نہیں
 پاسکتا ہو) مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت
 میں ڈھانپ لے۔

سد دو اوقار بوأؤأبشرواواعلمواان
 أحدا منكم لن ينجو بعمله قالوا ولا
 أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا الا ان
 يتعمدني الله برحمه

پس جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اپنی کوتاہی اور گناہوں کا علم ہو جائے تو وہ
 دل کی بصیرت سے ان دونوں باتوں کو جان سکتا ہے اور اس پر یقین کر سکتا ہے۔

”والله سبحانه وتعالى المستعان“



بیسواں باباہل جنت کا اللہ عز و جل سے جنت کی طلب اور شفاعت

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں میں سے عقلمندوں کی دعا ذکر فرمائی ہے۔

ربنا اننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان ان اے ہمارے رب ہم نے سنا کہ ایک پکارنے
 آمنوا بربكم فآمننا. ربنا فاغفر لنا دنوبنا والا پکارتا ہے ایمان لانے کو کہ ایمان لاؤ اپنے
 وكفرنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. رب پر سو ہم ایمان لے آئے اے ہمارے
 ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا رب اب بخش دے گناہ ہمارے اور دور
 تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. کر دے ہم سے برائیاں ہماری اور موت
 دے ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ اے (سورۃ ال عمران ۱۹۳، ۱۹۴)

ہمارے رب اور دے ہم کو جو وعدہ کیا تو نے
 ہم سے اپنے رسولوں کے واسطے سے اور
 رسوا نہ کر ہم کو قیامت کے دن بیشک تو وعدہ
 کے خلاف نہیں کرتا۔

- (۱) آیت کے آخری جملے کا معنی یہ ہے کہ پیغمبروں کی زبان سے آپ نے جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے اے پروردگار ہمیں عطاء فرما۔
- (۲) ایک جماعت کے قول کے مطابق آیت کا معنی یہ ہے کہ پیغمبروں پر ایمان لانے سے جو وعدہ آپ نے کیا ہے وہ عطاء فرما۔ اسم اور حرف کو ساتھ حذف کرنا آسان نہیں الا یہ کہ تقدیری عبارت اس طرح ہو جائے ”علی تصدیق رساک و طاعت رساک“ کیونکہ اس وقت دونوں تقدیری عبارتیں مساوی ہو جائیں گی لیکن پہلا معنی (علی السنۃ و رساک من دخول الجنۃ) راجح ہے کیونکہ ان حضرات کا سابق قول (ربنا اننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمننا) اس میں صریح ہے کہ یہ لوگ پیغمبروں پر ایمان لائے

ہیں اب اپنے ایمان کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے وہ چیز (جنت) مانگتے ہیں جس کا ان کے ساتھ پیغمبروں کی زبانی وعدہ کیا گیا تھا اور یہ دعا اور ایمان کا وسیلہ تصدیق کو بھی متضمن ہے کہ جیسے ہی پیغمبروں نے ان تک اللہ کا وعدہ پہنچایا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی اور اس کی ملنے کی دعا کرتے رہیں سلف اور خلف رحمہم اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہی کچھ کہا ہے۔

(۳) تیسرا قول (جس کو مصنف نے قیل کے ساتھ ذکر کیا ہے) آیت کا معنی یہ ہے کہ ”اے

اللہ پیغمبروں کی زبانی آپ نے جس کامیابی اور نصرت کا وعدہ کیا ہے ہمیں عطاء فرما“

لیکن پہلا معنی زیادہ کامل اور اہم ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا اس کے امر اور نہی اور اس کے پیغمبروں اور وعدوں اور وعیدوں اور اس کے اسماء و صفات اور افعال اور اس کے وعدے کے سچا ہونے اور اس کے وعید سے ڈرنے اور اس کے حکم کو ماننے سب کو شامل ہے اسی وجہ سے ایمان کو اللہ تعالیٰ کے وعدہ کئے ہوئی چیزوں اور اس کے عذاب سے نجات کے لئے وسیلہ بنانا صحیح ہے۔

بعض لوگوں کو اس پر شبہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے وعدہ پورا کرانے کی دعا

مانگتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اس کو ضرور پورا فرمائیں گے! پھر اس دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟

اس شبہ کا جواب یہ ہے یہ محض تعبد ہے جیسا کہ پیغمبر کی دعا ہے (رب احکم بالحق)

”رسول نے کہا اے رب فیصلہ کر انصاف کا“ اور ملائکہ کی دعا ہے (فاغفر للذین تابوا

واتبعوا سبیلک) (سورہ غافر) ان حضرات پر یہ بات مخفی ہے نہیں کہ یہ وعدہ کئی شرطوں

سے مشروط ہے مطلق نہیں ہے۔

(۱) اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رغبت اور اس سے وعدہ پورا کرنے کی دعا جیسا کہ یہ وعدہ

ایمان اور ایمان کی حالت میں مرنے سے متعلق ہے۔ (۲) اپنے اعمال کے ضائع کرنے والے کو

یہ وعدہ شامل نہیں اور جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے وعدہ پورا کرنے کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ ان کو

توفیق اور ثابت قدمی اور وہ اسباب مہیا کریں گے جس کی وجہ سے یہ وعدہ پورا کیا جائے گا اس

لحاظ سے یہ دعا بہت نافع دعاؤں میں سے ہے اور دوسری بہت ساری دعاؤں کی نسبت یہ

لوگ اس دعا کے زیادہ محتاج ہیں۔

اللہ کا قول (رب احکم) تو دشمنوں کے خلاف اللہ تعالیٰ سے امداد کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے دشمنوں کے خلاف امداد اور غلبہ کا فیصلہ کر دیں۔

اسی طرح فرشتوں کا سوال (اے اللہ توبہ کرنے والوں کی مغفرت فرما) اسباب مغفرت میں سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دشمنوں اور دوستوں سے معاملہ کرنے کے لئے اسباب پیدا فرماتے ہیں اور اپنے ارادے کے لئے ایسا ہی پیدا فرماتے ہیں جیسے کہ اپنے مراد کے وقوع کے لئے اسباب پیدا فرماتے ہیں۔

سبب اور سبب دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتے ہیں اگر اس سے آپ کو شبہ لگے تو آپ ان اسباب کی طرف دیکھیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں راضی ہوتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں یہ سب اس کی طرف سے آتے ہیں اللہ کی مشیت ان کی ابتدا ہے اور اس کی حکمت اس کی انتہا ہے یہ توحید کے دروازوں میں سے ایک بہت بڑا دروازہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے جاننے والے ہی داخل ہوں گے۔

دعا کرنے میں اس آیت کی نظیر حق تعالیٰ شانہ کا یہ ارشاد ہے تو کہہ بھلا یہ چیز بہتر ہے یا باغ ہمیشہ رہنے کا جس کا وعدہ ہو چکا پر ہمیز گاروں سے وہ ہو گا ان کا بدلہ اور پھر جانے کی جگہ ان کے واسطے وہاں ہے جو وہ چاہیں رہا کریں ہمیشہ ہو چکا تیری رب کے ذمے وعدہ مانگا

قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا .

ملا۔

اللہ کے مومن بندے اسی سے سوال کرتے ہیں اور فرشتے بھی ان کے لئے دعا کرتے ہیں جنت بھی اہل جنت کے لئے اپنے رب سے دعا کرتی ہے اور اہل جنت بھی جنت مانگتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام بھی اپنی لئے اور اپنے تابعداروں کے لئے جنت کی دعا مانگتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو اپنے رو برو کھڑا کریں گے جو مومن بندوں کے لئے جنت کی سفارش کریں گے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے کمال بادشاہی رحمت و احسان سخاوت اور

مہربانی اور مانگنے پر عطاء کا ثمرہ ہو گا جو کہ اس کے اسماء اور صفات کے لوازمات میں سے ہے اور اس کے آثار اور متعلقات کا تقاضہ ہے۔ اسماء و صفات کا اپنے آثار اور احکام سے معطل ماننا جائز نہیں ہے پس اللہ تعالیٰ جو اد ہیں تو سارا کا سارا جو وہی اسی کا ہے انسان کو چاہئے کہ اسی سے مانگے طلب کرے اور اسی کی طرف رغبت کرے سوال کرنے والے کو اسی نے پیدا کیا اور اس کے دل میں سوال کا لقاء کیا اور پھر جو کچھ اس نے مانگا وہ اس کے لئے پیدا فرمایا پس اللہ تعالیٰ سائل اور سوال دونوں کے خالق ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کے مانگنے سے خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے سے غصہ ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیا جائے تو غصہ ہوتا ہے اور بنی آدم سے جب مانگا جائے تو غضبناک ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیا جائے تو غصہ ہوتا ہے اور بنی آدم سے جب مانگا جائے تو غضبناک ہوتا ہے۔

آدم حین یسأل یغضب

اس کی مخلوق میں اس کو زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اس سے زیادہ مانگتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ دعا میں الحاج و زاری کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں جب بندہ اس سے مانگنے میں الحاج و زاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو محبوب اور مقرب بنا کر عطاء کرتے ہیں احادیث میں ارشاد ہے۔

جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ اس پر غصہ ہوتے ہیں۔

من لم یسأل اللہ یغضب علیہ

قال انس بن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یسأل الجنة ثلاثاً الا قالت الجنة: اللهم ادخله الجنة ومن استجار من النار باللہ ثلاثاً قالت النار اللهم اجره من النار۔

انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان تین بار جنت کی دعا مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے اور جو شخص اللہ کے نام سے تین بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے پروردگار اس کو جہنم سے پناہ دے۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما سأل العبد الجنة في يوم سبع مرات الا قالت الجنة يا رب ان عبدك فلان يسألني فادخلينه.

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ دن میں سات مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا نہیں کرتا مگر جنت کہتی ہے اے میرے پروردگار تیرا فلاں بندہ مجھے مانگ رہا ہے پس اس کو میرے اندر داخل فرما۔

وایضاً عنہ رضی اللہ عنہ قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما استجار عبد من النار سبع مرات الا قالت النار ان عبدك فلان استجار مني فأجره ولا يسأل عبد الجنة سبع مرات الا قالت الجنة يا رب ان عبدك فلان سألني فادخله الجنة.

یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ سات مرتبہ جہنم سے پناہ نہیں مانگتا مگر جہنم کہتی ہے کہ تیرے فلاں بندہ نے مجھ سے پناہ مانگی اس کو پناہ دیں اور کوئی بندہ سات مرتبہ جنت کی دعا نہیں مانگتا مگر جنت کہتی ہے اے میرے پروردگار تیرے فلاں بندے نے مجھے مانگا ہے اس کو جنت میں داخل فرما دیں۔

وأيضاً عنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال اسأل الجنة سبعاً قالت الجنة اللهم ادخله الجنة.

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سات مرتبہ کہے "سأل الجنة" (اے اللہ میں جنت مانگتا ہوں) جنت کہتی ہے اے پروردگار اس کو جنت میں داخل فرما دے۔

عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و امسالۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے الجنة واستعیدوا بہ من النار فانہما کثرت کے ساتھ جنت کی دعا اور جہنم سے پناہ شافعتان مشفعتان وان العبد اذا اکثر مانگا کرو اس لئے کہ یہ دونوں سفارش مسالۃ اللہ الجنة قالت الجنة یا رب کر نیوالی ہیں اور ان کی سفارش قبول کی جاتی عبدك هذا الذی سألنک فاسکنہ ہے جب کوئی بندہ کثرت سے جنت کی دعا کرتا ایہی، وتقول النار یا رب عبدی، هذا ہے تو جنت کہتی ہے اے میرے پروردگار الذی استعاذ بک منی فأعذہ تیرے اس بندہ نے آپ سے مجھے مانگا پس اس کو میرے اندر ٹھرا دے اور جہنم کہتی ہے اے میرے پروردگار تیرے اس بندہ نے تیرے ذریعہ مجھ سے پناہ مانگی ہے پس اس کو پناہ عطاء فرما۔

سلف کی ایک جماعت ایسی گزری ہے جو اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا نہیں مانگتے تھے بلکہ کہتے تھے ہمارے لئے یہ کافی ہے کہ ہمیں جہنم سے پناہ مل جائے ان لوگوں میں سے ایک ابوالصمہ بن سلمہ بن الشہم بھی ہے جو ایک رات سحری تک نماز میں مشغول تھے پھر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے اے پروردگار مجھے آگ سے پناہ دے اور کہا مجھ جیسا آدمی جنت مانگنے کی دعا کر سکتا ہے؟ ان لوگوں میں سے دو سرا عطاء سلمیٰ ہے جو جنت کی دعا نہیں مانگتے تھے ایک مرتبہ ان کو صالح مری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عزوجل فرمائیں گے میرے بندے کا اعمالنامہ دیکھ لو اگر تم اس میں دیکھ لو کہ اس نے مجھ سے جنت مانگی ہے تو میں اس کو جنت دوں گا اور مجھ سے جہنم کے بارے میں پناہ مانگی ہے تو میں اس کو جہنم سے پناہ دوں گا" یہ سن کر عطاء کہنے لگے میرے لئے یہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے پناہ دیدیں۔

امام ابو داؤد رضی اللہ عنہ نے اپنی سنن میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی نماز لمبی ذکر کرنے

کے قصے کی حدیث میں روایت کی ہے۔
 ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للفتى
 (يعني الذي شكاه) كيف تصنع يا بن
 اخي اذا صليت؟ قال اقربنا تحة
 الكتاب و اسأل الله الجنة و أعود به من
 النار، و اني لا ادري ما رندنتك
 و دندنة معاذ؟ فقال النبي صلى الله عليه
 و سلم و اني و معاذ احولنا ندندن.

کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے
 پوچھا (جس نے معاذ رضی اللہ عنہ کی شکایت کی تھی)
 اے بھتیجے جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں پھر کیا
 کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں سورۃ فاتحہ پڑھتا
 ہوں اور اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا کرتا ہوں
 اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں لیکن میں نہیں سمجھتا
 آپ کی آواز کو اور نہ معاذ کی آواز کو (یعنی
 معلوم نہیں کہ آپ اور معاذ کونسی دعائیں مانگتے
 ہیں صرف آواز اور گنگناہٹ آتی ہے الفاظ
 سمجھ میں نہیں آتے) آپ نے فرمایا ہم بھی
 اسی جنت اور جہنم کے گرد پھرتے ہیں (ف)
 یعنی اس قسم کی دعائیں مانگتے ہیں جس کا حاصل
 جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔

وفي سنن ابي داؤد عن جابر بن عبد الله
 قال : قال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم . لا يسأل بوجه الله الا الجنة .
 سنن ابی داؤد میں جابر بن عبد اللہ سے
 روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ارشاد فرمایا اللہ کی ذات کے واسطے سے جنت
 ہی مانگنی چاہئے۔

کتاب کے شروع میں بروایت لہث عن معاویہ عن صالح عن عبد المالك ابن ابی بشر
 گزر چکا ہے کہ جنت اور جہنم پر ایسا دن نہیں گزرتا جس میں یہ دونوں سوال نہ کرتی ہوں جنت
 کہتی ہے اے میرے پروردگار میرے پھل پک چکے ہیں اور نہریں جاری ہو چکی ہیں اور میرے

دوست (جنتی) میری طرف شوق میں ہیں پس ان کو جلد لے آ“ جنت بذات خود اہل جنت کا مطالبہ کرتی ہے اور ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور جہنم بھی اسی طرح کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم ہمیشہ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے رہیں اور ان کو کبھی نہ بھولیں جیسے کہ عبد اللہ بن عمر کی روایت ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے ارشاد فرمایا دو عظیم چیزوں کو مت بھولو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ دو عظیم چیزوں سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا جنت اور جہنم۔

کلیب بن حرب سے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ”پنی طاقت کے مطابق جنت کی طلب کرو اور اپنی طاقت کے مطابق جہنم سے بھاگو بیشک جنت کا طالب کبھی نہیں سوتا اور نہ جہنم سے بھاگنے والا سوتا ہے اور بیشک آخری دن کو مشکلات سے ڈھانپ لیا گیا ہے اور دنیا کو لذتوں اور شہوتوں سے گھیر لیا گیا ہے یہ دنیا تمہیں آخرت سے غفلت میں نہ رکھے“ ”نتہی“



اکیسواں بابجنت کے نام اور اس کے معانی اور اشتقاق

صفات کے اعتبار سے جنت کے چند نام ہیں اور ذات کے اعتبار سے سب کا معنی ایک ہے ذات کے اعتبار سے مترادف ہیں اور صفات کے اعتبار سے متابین باللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے کتابوں اور پیغمبروں اور آخرت کے دن اور جہنم کے ناموں کی بھی یہی حالت ہے۔

پہلا نام "جنت" ہے

یہ ایک عام نام ہے جو اس گھر اور اس کے تمام قسم کی نعمتوں لذتوں 'تروتازگی' سرور اور آنکھوں کی ٹھنڈک کو شامل ہے یہ لفظ اصل میں تھلے (ڈھالے) اور ستر (چھپانے) سے مشتق ہے جہن بھی اسی سے ہے کیونکہ وہ پلیٹ میں چھپا ہوا ہوتا ہے "جان" (جمع جن) بھی اسی سے ہے اس لئے کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہیں اور "جہن" (ڈھال) بھی اس سے مشتق ہے کیونکہ اس کے ذریعہ چہرے کو چھپایا اور بچایا جاتا ہے۔ "جہن" بھی اس سے مشتق ہے اس وجہ سے کہ اس کی عقل مستور ہوتی ہے "لہان" (چھوٹا باریک سانپ ہے)۔

فدقت و حلت و اسبکرت و اکملت

فلو جن انسان من الحسن جنت

یعنی اگر حسن کی وجہ سے انسان آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا تو اس کے محبوب کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے اور باغ کو بھی جنت اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں داخل ہونے والا آدمی درختوں میں چھپ جاتا ہے اسم کا اطلاق مختلف انواع کے بہت زیادہ درختوں والے مقام پر بھی ہوتا ہے جنتہ بالظہم وہ چیز جس سے آدمی اپنے آپ کو چھپا دیں جیسے ڈھال وغیرہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

اتخذوا ایمانہم جنتہ (سورۃ الجادہ ۱۶) بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال۔

یعنی ان قسموں کے وجہ سے مومنوں کے نکیر سے بچتے ہیں۔

اور ”جنتہ“ (بالکسر) جن بھی اسی سے ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

من الجنتہ والناس (سورۃ الناس ۶) جنوں میں اور آدمیوں میں (سے میں رب

کے پناہ میں آیا)

مفسرین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ فرشتوں کو ”جنتہ“ کہا جاتا ہے اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔

وجعلوا بینہ و بین الجنتہ نسباً۔ (سورۃ) اور ٹھہرایا ہے انہوں نے خدا میں اور جنوں میں ناتا۔ (الصافات)

ان کا کہنا ہے کہ نسب سے مراد کفار کا یہ عقیدہ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔

اس قول کو دو وجہوں سے راجح قرار دیا۔

(۱) کفار نے جو نسب بنایا تھا وہ فرشتوں اور اللہ کے درمیان تھا جنوں اور اللہ کے درمیان نہیں

تھا۔ (۲) فرشتوں کے بارے میں ارشاد ہے

ولقد علمت الجنتہ انہم لمحضرون۔ اور جنوں کو تو معلوم ہے کہ تحقیق وہ پکڑے

ہوئے آئیں گے۔ (سورۃ الصافات ۱۵۸)

یعنی فرشتوں کو معلوم ہے کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے وہ عذاب کے لئے حاضر کئے

جائیں گے۔ لیکن صحیح بات یہ نہیں جس کی طرف انہوں نے ذہاب کیا ہے۔ کیونکہ ”جنتہ“ سے

مراد جن ہی ہیں جیسا کہ ارشاد ہے

”من الجنة والناس“

اسی وجہ سے آیت میں دو قول ہیں۔

(۱) پہلا قول مجاہد رضی اللہ عنہ کا ہے۔ کفار قریش نے کہا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں تو حضرت ابو بکر

رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ پھر ان کی مائیں کون ہیں؟ تو کہنے لگے جنیوں کی سردار۔

کلبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جواب میں کہا ایک جنی سے شادی کی تو اس سے فرشتے

پیدا ہوئے قنودہ ﷺ فرماتے ہیں کہ کفار نے کہا اللہ تعالیٰ جنوں کے بہنوئی لگتے ہیں۔

(۲) دو سرا قول حسن ﷺ کا ہے۔ کفار کا جنوں کو اللہ کی عبادت میں شریک کرنا ہی ان میں نسب بنانا ہے۔ صحیح قول مجاہد ﷺ کا ہے اور جس آیت سے قول اول والوں نے استدلال کیا ہے وہ ان کے صحیح ہونے کو مستلزم نہیں۔ کیونکہ جب انہوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ فرشتے جنات میں سے ہیں گویا کہ اللہ اور فرشتوں کے درمیان یہ نسب جنوں سے پیدا شدہ ہے اور آیت (ولقد علمت الجنة انہم لمحضرون) میں ضمیر کا مرجع ”الجنة“ ہے معنی یہ ہے کہ جنوں کو معلوم ہے کہ وہ حساب کتاب کے لئے حاضر کئے جائیں گے۔ مجاہد ﷺ نے آیت مذکورہ سے اس طرح استدلال کیا ہے کہ اگر اللہ اور جنوں کے درمیان نسب کا تعلق ہوتا تو یہ حساب کے لئے حاضر نہ کئے جاتے۔ جیسا کہ یہود کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء
والله واحباءه قل فكم بعدكم
بذنوبكم۔ (سورۃ المائدہ ۱۷)

اور کہتے ہیں یہود اور نصاریٰ ہم بیٹے ہیں اللہ
کے اور اس کے پیارے تو کہہ پھر کیوں
عذاب کرتا ہے تم کو تمہارے گناہوں پر۔

آیت مذکورہ میں حق تعالیٰ نے یہود کو گناہوں کی وجہ سے عذاب ملنے اور عذاب کے لئے حاضر کرنے سے ان کے جھوٹے دعوے کی تکذیب کی۔ آیت مذکورہ میں یہ تقدیر بہ نسبت پہلے تقدیر کے زیادہ بلوغ ہے۔ آگے آپ خود غور فرماتے جائیں کیونکہ یہاں جنت کے نام ذکر کرنا مقصود ہیں۔

دو سرا نام

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا دو سرا نام ”دارالسلام“ ذکر کیا ہے۔

لہم دارالسلام عند ربکم (سورۃ الانعام ۱۲۷) انہی کے لئے ہے سلامتی کا گہرا پنے رب کے

ہاں

وَاللّٰهُ يَدْعُو اِلٰى دَارِ السَّلَامِ - اللہ تعالیٰ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف
(سورۃ ہونس ۲۵)

جنت اس لئے اس نام کے لائق ہے کہ وہ ہر آفت اور مصیبت سے سلامتی کا گھر ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ جنت اللہ کا بنایا ہوا گھر ہے اور سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس نے جنت
اور اہل جنت کو سلامتی دی۔

انہم فیہا سلام والحمدانکتہ
یدخلون علیہم من کل باب سلام
علیہم بما صبرتم - (سورۃ الرعد ۲۴۲۳)
ان کی ملاقات وہاں سلام ہوگی اور فرشتے
آئیں گے ان کے پاس ہر دروازے سے
کہیں گے سلامتی تم پر بدلے اس کے کہ تم
نے صبر کیا۔

اللہ تعالیٰ اوپر سے اہل جنت کو سلام کریں گے۔

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَاللَّهُ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ
ان کے لئے وہاں سے میوہ اور ان کے لئے
ہے جو کھائیں گے۔

اللہ تعالیٰ اہل جنت کو سلام کرنے کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث آئی
ہے۔ ان کی ہر بات میں سلام ہی سلام ہوگا۔ نہ بیہودہ بات اور نہ فحش اور نہ باطل کلام ہوگا۔
جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لَا يَسْمَعُونَ لَهَا لَوْ اَنَّهَا سَمِعَتْ
نہ سیں گے وہاں تک تک سوائے سلام کے
(سورۃ مریم ۶۲)

وَاُولٰٓئِكَ اِنْ كَانِ مِنْ اَصْحَابِ الرَّحْمٰنِ لَسَلَامٌ
اور جو اگر ہوا داہنے والوں میں تو سلامتی پہنچی
تھ کہ ان کو داہنے ہاتھ والوں سے۔

اکثر مفسرین نے اس کے معنی اور شان و رود میں مختلف اقوال ذکر کئے ہیں جس کے بعد
مقصود غلطی نہیں رہتا۔ آیت کا معنی یہ ہے واللہ اعلم۔

اے اصحاب یمین میں سے ہو کر دنیا سے جانے والے تیری لئے سلام ہو کہ آپ دنیا
اور اس کی نقلی جہنم اور اس کے عذاب سے سالم رہے۔

فرشتہ روح قبض کرتے وقت اس کو یہ خوشخبری دیتا ہے۔
خوشخبری حاصل کر راحت اور روزی کی اپنے رب کی طرف جو غصہ نہیں
ہے۔ آخرت کی بشارتوں میں سے یہ مومن کی پہلی بشارت ہے جو اس کو
دنیا سے جاتے وقت سنائی جاتی ہے۔

تیسرا نام

جنت کا تیسرا نام دارالخلد ہے۔ یہ نام اس لئے رکھا گیا کہ اہل جنت اس میں ہمیشہ رہیں
گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

بخشش ہے بے انتہا

عطاء غہر مجذوذ

ان هذا الزرقنا سالہ من نداد (سورۃ م
یہ ہے روزی ہماری دی ہوئی اس کو نہیں
نہڑنا یعنی ختم ہونا۔ (۵۷)

ارشاد ہے۔
اکلھا دائم و ظلھا و ماہم منها
مخرجین
میوہ اس کا ہمیشہ ہے اور سایہ بھی۔ وہ اس
سے نہیں نکالے جائیں گے۔

عنقریب جنت اور اس کے حرکات اہل کے فنائیت پر معتزلہ اور جہہہہہہہ کے قول کا
بطلان ذکر کیا جائے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

چوتھا نام

جنت کا چوتھا نام ”دارالمقامہ“ ہے۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے بات کو ذکر کرتے ہوئے
فرماتے ہیں۔

وقال الحمد لله الذي اذهب عنا
الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي
احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا
فيها نصب (سورة فاطر ۳۴)

اور کہیں گے شکر اللہ کا ہے جس نے اتارا ہم
کو آباد رہنے کے گھر میں اپنے فضل سے نہ
پہنچے ہم کو اس میں مشقت۔

مقاتل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”حللنا دار المقامة“ کا معنی ہے ”نزلنا دارا لملكوود“ یعنی
ٹھہریں گے ہمیشہ ہمیشہ نہ اس میں کبھی مریں گے اور نہ تبدیل ہوں گے۔
فراء اور زجاج فرماتے ہیں کہ ”المقامة“ کا معنی ”لاقامة“ کی طرح ہے۔ جیسے کہا جاتا
ہے ”قامت بالمكان اقامته ومقامته ومقاما“

پانچواں نام

جنت کا پانچواں نام ”جنتہ الماوی“ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (عندھا جنتہ
الماوی) ”ماوی“ اوی یاوی سے مفعول (ظرف کا صیغہ) ہے بمعنی ٹھکانا پکڑنا:
عطاء رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ ”ماوی“ وہ جنت ہے جس
میں حضرت جبرئیل اور دو سرے فرشتوں کا ٹھکانا ہے۔
مقاتل اور کلبی رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ جنت ہے جس میں شہداء کی روہیں
رہتی ہیں۔ کعب فرماتے ہیں کہ یہ وہ جنت ہے جس میں سبز پرندے جن میں شہداء کی روہیں
ہوتی ہیں چرتے ہیں۔

حضرت عائشہ اور زر بن حبیش رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جنتوں میں سے ایک جنت ہے۔
صحیح بات یہ ہے کہ یہ جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد

ہے

وأما من يخاف مقام ربه ونهى النفس
عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
(سورة النازعات ۴۰-۴۱)

اور جو کوئی ڈرا ہو اپنے رب کے سامنے
کھڑے ہونے سے اور روکا ہو اس نے جی کو
خواہش سے سو بہشت ہی ہے اس کا ٹھکانا

اور جہنم کے بارے میں فرمایا ”فان الجحیم
 صی المادی“ ”وماواکم النار“ یعنی جہنم ہی اس
 کا ٹھکانہ ہے۔

چھٹا نام

جنت کا چھٹا نام ”جنات عدن“ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

جنات عدن ہ التی وعد الرحمن
 عبادہ بالغیب۔ (سورۃ مریم)

باغوں میں بسنے کے جن کا وعدہ کیا ہے رحمن
 نے اپنے بندوں سے ان کے بن دیکھے۔ یعنی
 بغیر دیکھے

اسی طرح ارشاد ہے

جنات عدن یدخلونہا یحلون فیہا
 من آساور سن ذهب ولؤلؤا ولباسہم
 فیہا حریر (فاطر ۳۳)

باغ ہیں بسنے کے جس میں وہ جائیں گے وہاں
 ان کو گہنا پنہایا جائے گا کنگن سونے کے اور
 موتی کے اور ان کی پوشاک وہاں ریٹھی
 ہے۔

ارشاد ہے

ومساکن طہبتہ فی جنات عدن (سورۃ
 الصف ۱۲)

اور ستھرے گھروں میں بسنے کے باغوں کے
 اندر

اشفاق کے لحاظ سے سب پر ”جنات عدن“ دلالت کرتا ہے اس لئے کہ اس کا معنی
 اقامتہ اور دوام کے ہے۔ کہا جاتا ہے ”عدن بالمكان“ جب وہ اس میں قیام اختیار کرے۔
 ”وعدنت البلد“ میں نے اس کو وطن بنایا۔ ”وعدنت الابل بہکمان کذا“ اونٹ کو میں نے
 وہاں باندھا جہاں سے وہ ہٹا نہیں۔

جو ہری ^{صفتہ} کہتے ہیں۔ ”جنات عدن“ بھی اسی سے ہے بمعنی ”اقامتہ“ ”معدن“
 (ہکسر الدال) کا نام بھی اسی سے رکھا گیا۔ کیونکہ لوگ سردی اور گرمیوں میں وہاں قیام

کرتے ہیں۔ "العادون" چراہ گاہ میں شہری ہوئی اونٹنی۔

ساتواں نام

جنت کا ساتواں نام "دارالہیوان" ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وان الدار الاخرة لہی الہیوان (سورۃ اور پھلا گھر جو ہے سو وہی ہے زندہ رہنا۔

العنکبوت ۶۴)

اہل تفسیر کے ہاں اس سے مراد جنت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت یعنی جنت زندہ رہنے کا گھر ہے جس میں موت نہیں ہوگی۔

کلبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ وہ ایسی زندگی ہے جس میں موت نہیں۔ زجاج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ دائمی زندگی کا گھر ہے۔ اہل لغت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں "حیوان" بمعنی "حیاء" کے آیا ہے۔ ابو عبیدہ اور ابن قتیبہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں "حیوان" حیات ہی کا نام ہے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ "حیاء" اور "حیوان" الٰحی اہکسر الحاء ایک ہی ہیں۔

ابو علی فرماتے ہیں کہ یہ مصادر ہیں۔ پس حیاة دفعلاتہ کی طرح ہے اور حیوان نزوان اور غلیان کی طرح ہے۔ اور حی'ئی کی طرح ہے۔ عجاج نے کہا ہے

کناہما اذا الحیاة حی

(حیات اس لئے کنیت رکھی کہ حیاة ہی زندگی ہے)

ابو زید نے ان کی مخالفت کی اور فرمایا۔ کہ حیوان وہ ہے جس میں روح ہو "موتان" اور اموات وہ ہے جس میں روح نہ ہو۔

حق یہ ہے کہ "حیوان" دو قسم پر ہے۔ ایک مصدر ہے جیسا کہ ابو عبیدہ نے کہا دو سرا وصف ہے جیسا کہ ابو زید نے بیان کیا۔ ابو زید کے قول کے مطابق حیوان "حی" کی طرح ہے جو میت کی ضد ہے اور قول اول کو ترجیح دی جائے گی اس لئے کہ فعلان کا باب مصادر ہیں جیسے "نزوان" اور "غلیان" بخلاف صفات کے کہ اس کا باب "فعلان" ہے جیسے کہ "سکران" اور

”مضہمان“ قول ثانی کے ترجیح دینے والوں کو یہ جواب دیتے ہیں۔ ”فعلان“ کا وزن صفات میں بھی آتا ہے۔ جیسا کہ تیز اور ہلکے آدمی کو ”رجل مضہمان“ کہتے ہیں اور اسی طرح ”زفیان“ ہے صحاح میں ہے ”ناقتہ زفیان“ تیز اونٹنی۔ ”وقوس زفیان“ تیر کو جلدی چھوڑنے والا کمان۔ اللہ تعالیٰ کا قول ”وان الدار الاخرة لھي الھيوان“ دو معنوں کا احتمال رکھتا ہے۔

(۱) پہلا معنی یہ ہے کہ آخرت کی زندگی ہی زندگی ہے جس میں نہ بد مزگی ہوگی اور نہ ختم ہوگی اور نہ اس میں وہ عیوب شامل ہیں۔ جو اس زندگی میں ہیں۔ بناء بریں حیوان مصدر ہے۔

(۲) منقطع اور ختم نہیں ہوگا جس طرح اس دنیا میں زندہ چیزیں فنا ہوتی ہیں۔ تو یہ اس نام کے زیادہ حقدار ہے اس زندگی سے جس پر فنایت اور موت آئے گی۔

آٹھواں نام

جنت کا آٹھواں نام ”فردوس“ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

اولئک ہم الوارثون۔ الذین ہرثون
الفردوس ہم فہا خالدون۔ (سورۃ
المومن ۱۱)
وہی ہیں میراث لینے والے جو میراث پائیں
گے باغ ٹھنڈی چھاؤں کے اور اسی میں ہمیشہ
رہیں گے۔

اسی طرح حق تعالیٰ دو سری جگہ ارشاد فرماتے ہیں:

ان الذین امنوا وعملوا الصالحات
كانت لھم جنت الفردوس نزلا
خالدین فہا (سورۃ الکھف ۱۰۷)
جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے ہیں ان
کے لئے ٹھنڈی چھاؤں کے باغ مہمانی ہمیشہ
رہیں گے اس میں۔

فردوس ایسا نام ہے جس کا اطلاق تمام جنتوں پر ہوتا ہے۔ اور ایک قول کے مطابق جنت میں افضل اور اعلیٰ مقام کا نام ہے۔ گویا کہ دو سری جنتوں کے ہنسہ بہت یہی مقام اس نام کا مستحق ہے۔ فردوس کا اصل معنی باغ کے ہے جمع ”فردیس“ بمعنی ساتین، آتی ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فردوس اس باغ کو کہتے ہیں جس میں انگور ہوں۔ لہٰذا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فردوس وہ باغ ہے جس میں ہٹلوں والے انگور ہوں۔ جیسے کہا جاتا ہے ”کرم مفروس“ (گنجان بیلوں

(والا)

ضحاک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فردوس وہ باغ ہے جس میں گنجان درخت ہو۔ مبرو رضی اللہ عنہ نے اس کو پسند کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فردوس جو کلام عرب سے میں نے سنا ہے۔ گنجان درخت کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اغلب و اکثر انگور کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا جمع ”فراذیس“ آتا ہے۔ اس لئے شام کے دروازے کا نام فراذیس رکھا گیا ہے۔ شاعر جریر نے کہا ہے۔

فقد لمارکب اذا جدد المسهر بنا
 ما بعد نهرین من باب الفرادیس
 ہوا کہ باب فراذیس نیرن سے کیا ہی دور

- ہے -

مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فردوس روم میں ایک باغ ہے زجاج نے اسی کو پسند فرما کر کہا کہ یہ لفظ رومی زبان سے معرب ہے کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ فردوس وہ باغ ہے جس میں تمام وہ چیزیں موجود ہوں جو ایک باغ میں ہونی چاہئے۔
 حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔

وان كان ثواب الله كل مخلد

جنان من الفردوس فيها يخلد

نواں نام

جنت کا نواں نام ”جنت النعیم“ (نعت کا باغ) ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
 ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات
 لهم جنت النعیم (سورۃ النعمان)
 لئے نعت کے باغ ہیں۔

یہ بھی ایسا جامع نام ہے جو تمام جنتوں کے تمام قسم کی نعمتوں کو شامل ہے۔ یعنی کھانے پینے لباس، صورتیں، خوشبو، خوشگوار مناظر، وسیع محلات اور اس کے علاوہ دوسری ظاہری اور باطنی نعمتیں۔

دسواں نام

جنت کا دسواں نام "مقام الامین" (چین کا گھر) ہے

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

ان المتقین فی مقام امین (سورۃ الدخان ۵۱) بیشک ڈرنے والے چین کے گھر میں ہیں۔
مقام 'جائے اقامت' کو کہتے ہیں اور "امین" تمام آفتوں اور مصیبتوں سے امن کی جگہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے امن کی تمام صفات جمع کی ہوں۔ یعنی وہ زائل ہونے اور خرابی اور نقص کے تمام اقسام سے 'محفوظ' ہیں اور اس میں رہنے والے نکلنے اور تنگی اور عذاب سے مامون اور محفوظ ہیں۔ جیسا کہ "بلد الامین" اس کو شہر کو کہا جاتا ہے جس کے باشندوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے امن سے نوازا ہو کہ دوسرے لوگ اس سے خوف کھاتے ہوں، آپ غور فرمائیں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر (ان المتقین فی مقام امین) اور دوسرے مقام پر (یدعون فیہا بكل فاکھتہ المنہن) فرما کر کیسے اہل جنت کے لئے امن المکان اور امن الطعام جمع فرمایا۔ نہ ان کو میوؤں کے ختم ہونے کا خوف ہو گا اور نہ اس کے برے انجام اور مضر ہونے کا۔ اور اسی طرح نکلنے سے بھی محفوظ رہیں گے کہ نکلنے کا کوئی ڈر نہیں ہو گا اور نہ موت کا خوف ہو گا۔

گیارہواں نام

جنت کا گیارہواں نام "مقعد الصدق" اور "قدم الصدق" ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق (سورۃ التمر ۵۴-۵۵) نہروں میں بیٹھے سچی بیٹھک میں۔
جو لوگ ڈرنے والے ہیں باغوں میں ہیں اور

اس جنت کا نام مقعد صدق اس لئے رکھا گیا کہ اس میں مقعد الحسن کی تمام مقصود چیزیں حاصل ہوتی ہیں جیسے کہا جاتا ہے "مودۃ صادقۃ" (سچی محبت) جبکہ وہ ثابت اور تام ہو۔ اور کہا جاتا ہے "حلاوۃ صادقۃ" وحماتہ صادقۃ "الصدق فی الحدیث" اور "الصدق فی العمل" بھی اسی سے ہے۔ صدیق وہ شخص ہے جو اپنے قول کی تصدیق کے عمل سے تصدیق

کرے اور الصدق نفع کے ساتھ نیزے کی سختی کو کہا جاتا ہے۔ بہادر آدمی کے لئے کہا جاتا ہے "مہ نہ لڈو مصدق" (یعنی پورا سچا ہے) اور کہا جاتا ہے "ہذا مصداق ہذا" یہ اس کی تصدیق کر رہا ہے اور اسی سے ہے "قدم صدق" "لسان صدق" "مدخل صدق" "مخرج صدق" یہ سب کے سب اس چیز کے لئے استعمال ہوتے ہیں جو ثابت اور مقصود ہو اور اس میں ترغیب دی جا رہی ہو۔ بخلاف اس باطل جھوٹ کے جس کے تحت نہ کوئی فائدہ مقصود ہو اور نہ ثابت کو قطعی متضمن ہو۔ اور ایک قوم نے "قدم صدق" کی تفسیر جنت سے کی ہے اور ان اعمال سے تفسیر کی ہے جس کے ذریعہ جنت ملتی ہے۔ اور اس وعدے سے تفسیر کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا۔ اور اس اس کی تفسیر پیغمبر ﷺ سے کی ہے جس کے ہاتھ اور ہدایت سے انہوں نے یہ حاصل کیا۔ تحقیق یہ ہے کہ یہ سب حق ہیں کیونکہ جن کے لئے اللہ کی جانب سے پہلے سے نیکی شہر چکی ہے وہ نیکی اسکی وجہ سے ہوئی یعنی ان اسباب کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ہاتھوں ان کو مہیا کئے اور ان کا بدلہ قیامت میں ذخیرہ کیا۔ "لسان الصدق" وہ اچھے افعال کی سچی تعریف ہے۔ اور لسان صدق میں اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ تعریف مطابق للواقع ہے۔ اور حق کی تعریف ہے باطل کی نہیں ہے۔ مدخل الصدق اور مخرج الصدق سے وہ مدخل اور مخرج مراد ہیں جس میں آدمی اللہ کے ضمان میں ہو اس کا داخل ہونا اور نکلنا اللہ کی طاقت اور اس کی رضاء کے لئے ہو اور یہ دعاب (اخر جنی مخرج صدق الخ) بندہ کے لئے انفع ترین دعاؤں میں سے ہے۔ کیونکہ بندہ تو ہمیشہ یا تو کسی کام میں داخل ہوتا ہے اور یا خارج ہوتا ہے تو جب اس کا نکلنا اور داخل ہونا اللہ کی قوت اور اس کی رضا کے لئے ہو تو یہ سچ سے داخل ہو گا اور سچ سے نکلے گا۔

واللہ المستعان



بائیسواں باب

جنتوں کی تعداد کا بیان اس کی دو قسمیں ہیں

(۱) سونے کی دو جنتیں (۲) چاندی کی دو جنتیں

جنت

ایک جامع نام ہے جو جنت میں تمام چیزوں (ہاغات مہلات گھر وغیرہ) کو شامل ہے اور یہ جنتیں بہت زیادہ ہیں۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں بروایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے ام ریح بنت البراء رضی اللہ عنہا جو کہ حارث بن سراقہ کی والدہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں۔ کہنے لگی اے اللہ کے نبی۔ کیا آپ مجھے حارث کے ہارے میں کچھ بیان نہیں کریں گے؟ (حارث جنگ بدر میں تیر لگنے سے شہید ہوا تھا) کہ اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور اگر کہیں اور ہے تو میں اس پر روؤں؟

آپ نے ارشاد فرمایا۔ اے ام حارث آپ کا بیٹا فردوس اعلیٰ میں پہنچ چکا ہے۔

عن ابی موسیٰ الاشعری عن رسول ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جنتان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو جنتیں ایسی من ذہب آنتہما وحلیتہما وما فیہا ہیں جس کے برتن اور زیورات اور جو کچھ وجنتان من فضة آنتہما وحلیتہما ان کے اندر ہے سب سونے کا ہے اور دو وما فیہا وما بین القوم ان ينظروا الی جنتیں ایسی ہیں کہ اس کے برتن اور ربہم الارداء الکبریاء علی وجہہ فی زیورات اور ان میں جو کچھ ہے سب چاندی

جنة عدن:

کا ہے۔ جنت عدن میں لوگوں کا اپنے رب کی طرف دیکھنے میں کبریائی کی چادر آڑ ہوگی جو اللہ کی ذات پڑی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

ولمن خاف مقام ربه جنتان (سورة الرحمن) اور جو کوئی ڈرا کھڑے ہونے سے اپنے رب کے آگے اس کے لئے ہیں دو باغ (۲۶)

اس کے ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا

ومن دونهما جنتان (سورة الرحمن ۶۳) اور ان دو کے سوا دو باغ اور ہیں۔

یہ چار جنتیں ہیں اب اللہ تعالیٰ کے مذکورہ ارشاد ”ومن دونهما“ میں اختلاف ہے کہ آیا اس سے اوپر والی ”جنت مراد ہے یا نیچے والی“ ایک جماعت کہتی ہے کہ (من دونہما) سے مراد وہ ہے جو عرش سے زیادہ قریب ہے اس لحاظ سے یہ اوپر والی جنت ہے۔

دوسری جماعت کہتی ہے کہ (من دونہما) کا معنی ”من تحتہما“ ہے اور یہ لغت عرب میں منقول ہے چنانچہ کہتے ہیں ”هذا دون هذا“ یعنی یہ اس سے مرتبے میں کم ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ اس شخص کو کہتے ہیں جو اس کے تعریف میں مبالغہ کرے۔

”نادون ماتقول فوق مانی نفسہک“ (میں اس تعریف کا مستحق نہیں جو آپ کر رہے ہیں) صحاح میں ہے کہ لفظ ”دون“ ”فوق“ کا نقیض ہے جو کہ مقصد میں کوتاہی کرنے کو کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہا جاتا ہے ”هذا دون هذا“ یعنی یہ اس سے زیادہ قریب ہے سیاق پہلی والی دو جنتوں کی فضیلت پر دس وجوہات سے دلالت کرتا ہے پہلی وجہ پہلا وجہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قول ”ذواتا افنان“ ہے اس میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ فنن کی جمع ہے شنی کو کہتے ہیں دو سرا قول یہ ہے کہ یہ ”فن“ کی جمع ہے بمعنی صنف معنی یہ ہو گا کہ وہ دو باغ مختلف قسم کے میوؤں والے ہوں گے چنانچہ بعد والی دو جنتوں کی صفت میں یہ مذکور نہیں: دوسری وجہ: اللہ تعالیٰ کا پہلی دو کے بارے میں ارشاد ”لہمما عنان تجربان“ ہے جبکہ

دوسرے دو کی صفات میں ارشاد ہے ”فہما عنان نضاختن“ ”نضاختہ“ کا معنی فوارہ اور جاری چلتا چشمہ کے ہے جو کہ صرف خوار سے بہتا اچھا ہوتا ہے کیونکہ یہ فوران اور جریان دونوں کو متضمن ہوتا ہے۔

تیسری وجہ: اللہ تعالیٰ کا پہلی والی جنتوں کے بارے میں ارشاد ہے۔

”فہما سن کل فاکھتہ زوجان“ (ان دونوں میں میوہ قسم قسم کا ہو گا) جبکہ بعد والیوں کے بارے میں ہے ”فہما فاکھتہ ونخل ورومان“ (ان میں میوے ہیں کھجوریں اور انار) اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلی والی دو کا وصف اکمل ہے زوجان کے بارے میں اس پر اتفاق کے بعد کہ یہ صنف کا نام ہے اختلاف کیا گیا ہے ایک جماعت کا کہنا ہے کہ ”زوجان“ سے مراد رطب اور یا بس ہیں، یعنی ایسا یا بس جو اپنے فضیلت اور عمدگی میں رطب سے کم نہ ہو، اور وہ رطب سے بھی وہی فائدہ اٹھائے جو یا بس سے اٹھاتا ہو اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے جو مخفی نہیں۔

دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ زوجان سے مراد دو صنف ہیں ایک معروف مشہور اور دوسری مشکل کے اعتبار عجیب و غریب ہوگی۔

تیسری جماعت نے صرف یہ کہا ہے کہ یہ دو قسمیں ہیں آگے زیادہ کچھ نہیں کہا (مصنف کہتے ہیں) اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں لیکن ظاہر یہ ہے کہ ”زوجان“ سے مراد بیٹھا کڑوا، سرخ اور سفید ہے۔ کیونکہ اس لحاظ سے میوؤں کی مختلف قسمیں بہت ہی چاہت والی لذیذ اور خوشگوار ہوتی ہیں۔

چوتھی وجہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

متکئین علی فرش بطانئہا من تکیہ لگائے بیٹھے بچھونوں پر جن کے استرتانے کے ہیں (سورۃ الرحمن ۵۴)

یہ اس کی قدر و منزلت پر تنبیہ ہے۔ دوسری دو جنتوں کے بارے میں فرمایا۔

متکئین علی رفرف خضرو عبقری تکیہ لگائے بیٹھے سبز مسندوں پر اور قیمتی حسان (سورۃ الرحمن ۷۶) بچھونے نفیس پر

ررف کی تفسیر کشادگی اور نرمی سے کی گئی ہے اور ایک تفسیر فرش سے کی گئی ہے ہر تقدیر ان دو جنتوں کی فرش کی وہ صفت بیان نہیں کی گئی جو پہلی دو کی بیان ہوئی۔
پانچویں وجہ: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

و جنس الجنة دان اور میوہ ان باغوں کا جھک رہا

یعنی یہ قریب ہیں جن کا لینا بہت ہی آسان ہے جس طرح چاہیں لے سکتے ہیں یہ صفت دو سری دو جنتوں کی نہیں ہے۔
چھٹی وجہ: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

لومن لاصرات الطرف یعنی انہوں نے اپنی نگاہوں کو اپنی شوہروں پر محصور اور پابند کر لیا ہے۔ ان کی محبت اور رضامندی کی وجہ سے غیر کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتیں۔ اور یہ اس بات کو بھی متفہم ہے کہ ان کی شوہروں کی نگاہیں ان پر ہی لگیں ہوئیں ہیں۔ ان کے حسن نے ان کو غیر کی طرف نگاہ کرنے سے روک رکھا ہوا ہے۔
دو سری والی دو جنتوں کے صفات میں ارشاد ہے:-

حور ماصورات فی الطوام حوریں ہیں رکی رہنے والیاں نعیموں میں

اپنے شوہر پر اختیار سے نگاہ کا محصور کرنا ہی کمال ہے ہر صفت اس کے جو غیر کی وجہ سے اپنی نگاہ بند رکھتی ہے:

ساتویں وجہ: پہلی والی دو جنتوں کی حوروں کی صفات میں ہے کہ وہ رنگ کی صفائی اور چمکنے اور حسن میں یاقوت اور مرجان کے مانند ہیں۔ جبکہ بعد والی ذکر شدہ جنتوں کی حوروں کی صفات میں یہ مذکور نہیں ہے۔

آٹھویں وجہ: اللہ تعالیٰ نے پہلی والی دو جنتوں کے ہارے میں فرمایا ہے ”هل جوارا الاحسان الالاحسان“ (کیا بدلہ نیکی کا مگر نیکی) یعنی نیکی کا بدلہ صرف نیکی ہی ہے۔

یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان دو جنتوں کے رہنے والے دنیا میں کامل اور مطلق احسان کرنے والے تھے۔ تو ان کا بدلہ بھی کامل احسان سے دیا جائے گا۔

نویں وجہ: پہلی دو جنتوں کی صفات کو بیان کر کے ان دونوں کو اس کا شخص بدلہ ٹھرایا جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا تھا۔ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ جنتیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والے کی اعلیٰ جزاء ہے۔

تو جزاء مذکور کو خوف پر ایسا مرتب کیا جیسا کہ مسد کا ترتب سبب پر ہوتا ہے۔ پھر جب ڈرنے والوں کی دو قسمیں تھیں (۱) مقربین (۲) اور اصحاب یمین۔ تو پہلے مقربین کی دو جنتوں کو ذکر کیا اور اس کے بعد اصحاب یمین کی دو جنتوں کا ذکر کیا۔

دسویں وجہ: اللہ تعالیٰ کے ارشاد (ومن دونہما) کا سیاق دلالت کرتا ہے کہ یہ ”فوق“ کا نقیض ہے۔ جیسا کہ جوہری نے کہا ہے۔

اعترض

ان چار جنتوں کو صرف اس شخص پر کیسے تقسیم کیا گیا جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔

جواب

جب ڈرنے والوں کی دو قسمیں تھیں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تو دو عالی جنتیں ان میں سے مقربین کے لئے ہوئیں اور اس سے کم مرتبے والی دو جنت اصحاب یمین والوں کے لئے ہوئیں۔

اعترض

ان دونوں جنتوں میں تمام ڈرنے والے شریک ہوں گے یا ہر ایک کے لئے علیحدہ دو دو (باغات) ہوں گی؟

جواب

اس میں مفسرین کے دو قول ہیں جن میں سے قول ثانی کو دو وجہوں سے ترجیح دی گئی ہے۔ ایک ترجیح نقل سے ہے اور دوسری عقل سے۔ ترجیح نقلی یہ ہے کہ قول ثانی والے نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں ”ریاض الجنۃ میں دو باغ ہیں“ اور ترجیح عقلی یہ ہے کہ ان دو جنتوں میں سے ایک ادا کو اداء کرنے کا بدلہ ہے اور دوسرا محارم سے بچنے کا جنتی عورتوں کے ذکر میں دو مقامات پر ”فہین“ (ضمیر مونث) ذکر کیا گیا جبکہ اس کے علاوہ میں ”فہما“ (ضمیر تشبیہ) مذکور ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ فرش کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا ”فہین خیرات حسان“ تو پھر لفظی اور معنوی مشاکلت کے لئے دو جگہ پھر ضمیر مونث لائی گئی۔ واللہ اعلم



تیسواں باب

اللہ تعالیٰ نے دوسری جنتوں پر فضیلت ظاہر کرنے کے لئے بعض جنتوں کو خاص اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا اور اس میں درخت لگائے۔

اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں سے ایک گھر کو اپنے لئے چنا ہے اور اس کو اپنے عرش کے قرب سے مخصوص فرمایا ہے اور اس میں بذات خود درخت لگائے ہیں وہ جنت تمام جنتوں کی سردار ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر نوع سے اعلیٰ اور فضل کو پسند فرماتے ہیں۔ جیسا کہ فرشتوں میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کو اور بشر میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آسمانوں میں سے سب سے اونچے آسمان کو۔ اور شہروں میں سے شہر مکہ اور مہینوں میں سے ماہ محرم اور راتوں میں یلتہ القدر اور دنوں میں جمعہ کا دن اور رات میں سے اس کا وسط اور اوقات میں سے نماز کے اوقات کو چنا ہے۔

اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند کرے جس کو چاہے۔

بخلق ما يشاء ويختار (سورۃ القصص ۲۸)

ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ رات کی آخری باقی ماندہ تین گھڑیوں میں نزول فرماتے ہیں پس ان میں سے پہلی گھڑی میں اللہ تعالیٰ اس کتاب میں دیکھتے ہیں جس میں

عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل اللہ فی آخر ثلاث ساعات یقین من اللیل فینظر اللہ فی الساعۃ الاولى منهن فی الكتاب

دوسرا نہیں دیکھ سکتا جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں ثابت رکھتے ہیں پھر دوسری گھڑی میں جنت عدن کی طرف دیکھتے ہیں یہ وہ مسکن ہے جس میں اللہ کی ذات ہوتی ہے اور وہاں اس کے انبیاء اور شہداء اور صدیقین کے علاوہ کوئی ایک بھی نہیں ہوتا اور جنت عدن میں وہ نعمتیں ہیں جس کو نہ کسی ایک کی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے پھر آخری گھڑی میں اللہ تعالیٰ (آسمان دنیا) میں نزول کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں یہ سلسلہ طلوع فجر تک رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

اور قرآن پڑھنا فجر کا پیشک قرآن پڑھنا فجر کا ہوتا ہے روبرو (یعنی اس وقت رات اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں)

اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشک اللہ تعالیٰ نے فردوس کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور ہر شرک اور شراب کے عادی شخص اور منکبر پر اس کو ممنوع قرار دیا۔

الذی لا ینظر فیہ غیرہ فیمحوا ما یشاء ویثبت ثم ینظر فی الساعۃ الثانیۃ الی جنۃ عدن وہی مسکنہ الذی یسکن فیہ ولا یکون معہ فیہا احد الا الانبیاء والشہداء والصدیقون وفیہا ما لم ترہ عین احد ولا خطر علی قلب بشر ثم یهبط آخر ساعۃ من اللیل فیقول: ألا مستغفر یتغفرنی فأغفر لہ؟ ألا سائل یسألنی فأعطیہ ألا داع یدعونی فأستجیب لہ حتی یطلع الفجر قال تعالیٰ:

وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہوداً. (سورۃ الاسرار ۷۸).

عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں اپنے ہاتھ سے پیدا فرمائیں۔ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور تورات اپنی ہاتھ سے لکھی اور فردوس میں اپنے ہاتھ سے درخت لگائے۔ پھر فرمایا میری عزت اور جلال کی قسم اس میں نہ شراب کا عادی شخص داخل ہو گا اور نہ دیوث صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کا عادی شخص تو ہم نے پہچان لیا یہ دیوث کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا دیوث وہ شخص ہے جو برے شخص کو اپنے اہل میں ٹھہراتا ہے۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چار چیزیں اپنے ہاتھ سے پیدا فرمائی ہیں عرش، قلم، عدن اور حضرت آدم علیہ السلام اور پھر باقی تمام مخلوق کو کہا ہو جا تو وہ ہو گئیں۔
میسرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں تین چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور تورات اپنے ہاتھ سے لکھی اور جنت عدن میں اپنے ہاتھ سے درخت لگا دیئے۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا تورات اپنے ہاتھ سے لکھی اور جنت عدن میں درخت اپنے ہاتھ سے لگائے اس کے بعد جنت سے فرمانے لگے بات کر جنت بولی۔ (قد افلح المؤمنون) (کام نکال لئے گئے مومن)

شمر بن عطیہ سے روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت فردوس اپنے ہاتھ سے بنائی اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر روز پانچ مرتبہ کھولتے ہیں اور اسے کہتے ہیں میرے دوستوں کے لئے خوشبو زیادہ کر اور میرے دوستوں کے لئے حسن اور خوبصورتی میں اضافہ کر۔

مجاہد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کے درخت اپنے ہاتھ سے لگائے جب وہ مکمل ہو گئی تو اس کو بند کیا اب ہر سحری کے وقت کھولی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرتے ہیں تو وہ کہتی ہے۔ (قد افلح المؤمنون) کام نکال لئے گئے مومن یعنی (مومنین کامیاب ہو گئے)

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کے گرد ایک دیوار لگائی ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے اور اس کے درخت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لگائے اور اس سے کہا بول تو وہ بولی ”قد افلح المؤمنون“ (کام نکال لے گئے مومن یعنی مومنین کامیاب ہوئے)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے خوشخبری ہو تو بادشاہوں کا ٹھکانا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ جس کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے اور ایک اینٹ سرخ یا قوت کی ہے اور ایک اینٹ سبز زبرجد کی ہے اس کا گارا خالص مشک ہے اور اس کی کنکریاں موتی ہیں اور اس کی گھاس زعفران ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہا بول تو وہ بولی (قد افلح المؤمنون) اللہ تعالیٰ عزوجل نے فرمایا۔ میری عزت اور میرے جلال کی قسم کوئی بخیل مجھ سے بچ کر تجھ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی۔

ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون (سورة الخشر ۹)
اور جس کو بچا دیا گیا اپنے جی کے لالچ سے سو وہ لوگ وہی مراد کو پہنچے۔

اللہ تعالیٰ کے اس مہربانی کو دیکھئے کہ اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے درختوں اور جنت کو اپنے ہاتھ سے پیدا کردہ ذات (حضرت آدم عليه السلام) کے لئے بنایا اور اس کی اولاد میں سے افضل لوگوں کے لئے۔ اور اپنے دست سے پیدا کرنے کی شرافت کی وجہ سے یہ جنت عام جنتوں سے ممتاز ہے۔

یعنی اس جنت کا دوسری جنتوں میں وہ مقام ہے جیسا کہ نوع حیوان میں حضرت آدم عليه السلام کا۔

عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم سعيد رضي الله عنه نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال: سأل موسى عليه السلام ربه ما آذن عليه السلام نے ارشاد فرمایا موسیٰ عليه السلام نے اللہ آذنی أهل الجنة منزلة؟ قال رجل تعالیٰ سے سوال کیا کہ ادنیٰ جنتی کا کیا مقام ہے یجیب بعد ما دخل أهل الجنة فيقال له ارشاد ہوا ایک آدمی کو لایا جائے گا جبکہ تمام

ادخل الجنة فيقول رب كيف نوفق لوگ جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے اس نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضىت، رب فيقول له لك ذلك ومثله ومثله ومثله فقال في الخامسة رضىت ربي قال رب فاعلاهم منزلة؟ قال أولئك الذين اردت غرست كرامتهم بيدى وختمت عليها فلم ترعين و لم تسمع اذن و لم يخطر على قلب بشر .

تھا وہ عرض کرے گا اے میرے رب کیسے داخل ہو جاؤں گا اے میرے رب کیسے داخل ہو جاؤں گا اپنی اپنی جگہ لے چکے ہیں اور جو کچھ لینا تھا لے چکے ہیں اس سے کہا جائے گا کیا تو اس سے راضی ہے کہ تیرے لئے اتنا ہو جتنا دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے لئے تھا وہ عرض کرے گا ہاں اے پروردگار میں راضی ہوں اس پر ارشاد ہو گا اچھا تیرے لئے اتنا ہی ہے اور اس کے برابر اور اس کے برابر اور اسکے برابر (یعنی اس سے تین گناہ اور زیادہ)

السجدة، ۱۱) پانچویں مرتبہ وہ عرض کرے گا اے رب میں راضی ہوں اس پر عرض کرے گا اے رب مجھے سب سے اونچا درجہ عطا فرما اس پر ارشاد ہو گا یہی میری مراد تھی اس کے درخت میں نے اپنے ہاتھ سے لگائے ہیں اور اس پر مہر لگا چکا ہوں (اس کی اندر کی نعمتیں) نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ کسی بشر کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔ اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ کی کتاب (میں سے یہ آیت کریمہ) ہے (ترجمہ) سو کسی نفس کو معلوم نہیں جو چھپا دھری ہے ان کے واسطے آنکھوں کی ٹھنڈک

چوبیسواں باب

داروغہ جنت اور ان کے سردار کا نام

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

وسيق الذين اتقوا ربهم الي اور ہائیں جائیں گے وہ لوگ جو ڈر رہے تھے
الحنة زمراحتی اذا جاءوها وفتححت اپنے رب سے جنت کو گروہ گروہ یہاں تک
ابوابها وقال لهم خزنوها سلام عليكم“ کہ جنت پہنچ جائیں اس پر اور کھولے جائیں
(سورۃ الزمر ۷۳) اس کے دروازے اور کہنے لگے ان کو

داروغہ سلام پہنچے تم پر۔

”خزنتہ“ ”خازن“ کی جمع ہے جیسا کہ ”حفظتہ“ ”حافظ“ کی جمع ہے اس شخص کو
کہتے ہیں جس کو کسی چیز کی امانت و حفاظت سونپ دی گئی ہو۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں
جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا تو خازن (داروغہ جنت) کہے گا
آپ کون ہیں؟ میں جواب دوں گا محمد ہوں وہ کہے گا جی ہاں (دروازہ ضرور کھولوں گا) مجھے
اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی ایک کے لئے بھی دروازہ نہ کھولوں۔

اور اس سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے۔ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا جو شخص کسی چیز کی دو جوڑیں اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو جنت کے ہر
دروازے کا داروغہ (یعنی وہاں مقرر فرشتہ) اس کو پکارے گا کہ یہاں آ جاؤ یہ سن کر حضرت
ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے اندر اس کی قوت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے
امید ہے کہ آپ بھی ان لوگوں سے ہوں گے۔ اور حدیث کے دوسرے الفاظ میں ہے کہ

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کوئی شخص ہے جس کو ان سب سے آواز دی جائے گی۔ آپ نے فرمایا جی ہاں اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی ان لوگوں میں ہوں گے۔ جب مراتب ایمان کی تکمیل کی طرف حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی ہمت بلند ہوئی اور دل میں اس بات کا طمع پیدا ہوا کہ مجھے ان سب دروازوں سے پکارا جائے تو اللہ کے رسول سے سوال کر بیٹھے کہ آیا لوگوں میں ایسا کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ جس عمل پر یہ پکار آتی ہے اس عمل میں کوشش کر کے یہ شرف حاصل کر لے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حصول کی خبر دی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان میں سے ہونے کی خوشخبری دی۔ گویا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ جو شخص ان سب مراتب اعمال کی تکمیل کر لے تو یہ ممکن ہے کہ اس کو قیامت کے دن تمام دروازوں سے پکارا جائے؟

اللہ: کیا ہی بلند ہمت ہے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی۔

اللہ تعالیٰ نے جنت کے ان داروغوں کے سردار کا نام ”رضوان“ رکھا ہے جو کہ ”رضا“ سے مشتق ہے۔ اور جہنم کے داروغوں کے سردار کا نام ”مالک“ رکھا ہے یہ نام ”مالک“ سے مشتق ہے جس کے معنی قوت اور شدت ہے۔



پچیسواں باب

”سب سے پہلے جنت کا دروازہ کون کھٹکھٹائے گا“

یہی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی گذشتہ حدیث جس کو طبرانی نے کچھ زیادت کے ساتھ روایت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خازن (دروازہ کھولنے کے لئے) اٹھ کر کہے گا نہ میں آپ سے پہلے کسی ایک کے لئے دروازہ کھولوں گا اور نہ آپ کے بعد کسی ایک کے (دروازہ کھولنے کے لئے) اٹھوں گا۔ کیونکہ خازن کا یہ اٹھنا خاص طور پر آپ کی شان اور رتبے کے اظہار کے لئے ہو گا۔ آپ کے بعد کسی اور کی خدمت میں نہیں اٹھے گا۔ بلکہ جنت کے دوسرے داروغے انکی خدمت میں انھیں گے داروغہ جنت رضوان کی حیثیت دوسرے فرشتوں پر بادشاہ کی مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بندے اور پیغمبر کی خدمت میں کھڑا کریں گے چنانچہ وہ چل کر آپ کے لئے دروازہ کھولیں گے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں وہ پہلا شخص ہوں جو جنت کھولے گا مگر ایک عورت مجھ سے آگے بڑھے گی میں اسے کہوں گا تجھے کیا ہوا اور تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں (بیوہ) عورت ہوں جو یتیموں کی (پرورش) کے لئے بیٹھی رہی۔ یعنی دو سرا نکاح نہیں کیا۔

وقال زوی ابو ہریرہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ”انا اول من یفتح الجنة الا ان امرأة تبادرنی فاقول لها مالک ومن أنت؟ فتقول انا امرأة قعدت علی یتامی

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کہ چند صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ نکل کر ان کے قریب ہوئے تو آپ نے سنا کہ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ صحابہ میں سے ایک نے کہا عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کردہ مخلوق میں ابراہیم علیہ السلام کو

”خلیل“ بنایا دو سرا صحابی کہنے لگا یہ اللہ کے کلیم موسیٰ سے زیادہ عجیب نہیں کہ خود اللہ اس سے ہم کلام ہوئے۔ تیسرے صحابی نے کہا۔ حضرت عیسیٰ ﷺ اللہ کے کلمہ (کلمہ کن سے پیدا شدہ) اور اس کی روح ہے۔ چوتھے صحابی نے کہا۔ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے چنا۔ اتنے میں آپ سلام کر کے نکلے اور فرمایا میں نے تمہاری گفتگو اور تعجب سن ہونا سن لیا (تمہارا یہ کہنا) ابراہیم ﷺ خلیل اللہ ہے، یہ درست ہے۔ اور موسیٰ نجی اللہ ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور حضرت عیسیٰ ﷺ اس کی روح اور کلمہ ہے۔ یہ بھی درست ہے۔ اور حضرت آدم ﷺ کو اللہ نے چنا ہے درست ہے۔ خبردار سن رکھو میں اللہ کا صیب ہوں اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں اور میں قیامت کے دن پہلا شفاعت کرنے والا اور پہلا ہوں جس کی شفاعت قبول ہوگی۔ اور میں کوئی فخر کی بات نہیں کر رہا۔ اور اس روز حمد کا جھنڈا میرے پاس ہو گا اور میں کوئی فخر کی بات نہیں کر رہا۔ اور میں پہلا ہوں جو جنت کے کواڑ کو بلاؤں گا میرے لئے وہ کھولا جائے گا اللہ تعالیٰ مجھ کو اس میں داخل فرمائے گا اور میرے ساتھ مومن فقراء ہوں گے اور کوئی فخر نہیں ہے میں اگلوں اور پچھلوں میں سے اللہ کے نزدیک معزز ترین ہوں۔ کوئی فخر نہیں ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب لوگ اٹھائے جائیں گے میں پہلا قبر سے نکلنے والا ہوں گا۔ جب وہ چپ ہوں گے میں ان کا خطبہ دینے والا ہوں گا اور جب وہ آئیں گے تو میں انکا قائد ہوں گا جب وہ روک لئے جائیں گے تو ان کی سفارس کروں گا۔ جب وہ ناامید ہو جائیں گے تو ان کو خوشخبری دوں گا اس روز حمد کا جھنڈا میرے پاس ہو گا اور جنت کی چابیاں اس روز میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ اس روز میں اپنے رب کے باں اولاد آدم میں سے سب سے زیادہ عزت مند ہوں گا۔ اور یہ میں فخر سے نہیں کہہ رہا۔ اور میرے گرد اس روز ہزار خادم پھریں گے گویا کہ وہ پوشیدہ موتی ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن سب نبیوں سے بڑھ کر میرے تابعدار زیادہ ہوں گے اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھاؤں گا۔

چھبیس واں بابوہ امت جو سب امتوں سے پہلے جنت میں داخل ہوگی

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

”ہم قیامت کے دن قدیم اور سب سے پہلے لوگ شمار ہوں گے۔ علاوہ اس کے کہ ان کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ہمیں بعد میں دی گئی یعنی وہ (پہلی امتیں ہم سے صرف) اسی قدر آگے ہیں کہ ان کو کتاب پہلے دی گئی“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن ہم بعد میں

آنے والے اور سب سے پہلے لوگ ہوں گے اور ہم لوگ ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ سوا اس کے کہ ان لوگوں کو ہم سے پہلے کتاب ملی اور ہم کو ان کے بعد ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ اور اللہ نے ہم کو اپنے حکم سے وہ حق بتا دیا جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔

عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت انبیاء علیہم

السلام پر حرام کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ اور دوسری امتوں پر حرام کر دی گئی ہے یہاں تک کہ میری امت اس میں داخل ہو جائے۔

یہ امت تمام امتوں سے پہلے زمین سے نکلے گی (یعنی قبروں سے نکلے گی) اور موقف

میں اعلیٰ جگہ کی طرف پہلے جائے گی اور عرش کے سائے کی طرف سب سے پہلے جائے گی اور

سب سے پہلے ان کا فیصلہ ہو گا۔ اور سب سے پہلے پل صراط پر گزرے گی اور سب سے پہلے

جنت میں داخل ہوگی۔ جنت اس وقت تک انبیاء پر حرام ہے جب تک اس میں محمد ﷺ داخل

نہ ہو جائیں اور دیگر امتوں پر حرام جب تک اس میں محمد ﷺ کی امت داخل نہ ہو۔ سب سے

پہلے داخل ہونے کی دلیل ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبریل فأخذ بیدی فأرانی باب الجنة التي تدخل منه امی فقال ابوبکر یا رسول اللہ وددت انی کنت معک حتی أنظر الیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أما انک یا ابابکر اول من یدخل الجنة من امی.

اور میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئے اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل ہوگی۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو اس کو دیکھ لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر آپ تو وہ پہلے شخص ہیں جو میری امت میں سے جنت میں داخل ہوں گے۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا ”وددت انی کنت معک“ (کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا) اپنے یقین کو بڑھانے اور خبر کو مشاہدہ میں لانے کے لئے تھا۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تھا۔

رب ارنی کیف تعی الموتی قال اولم توئن قال ہاں ولكن لہطمئن قلبی (سورۃ البقرۃ ۲۶۰)

اور یاد کر جب کہا ابراہیم نے اے میرے پروردگار مجھ کو دکھلا دے کہ کیونکر زندہ کریگا تو مردے فرمایا کیا تو نے یقین نہیں کیا کہا کیوں نہیں: لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسکین ہو جائے۔

باقی ابن ماجہ کی حدیث میں جو آیا ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”حق نے سب سے پہلے حضرت عمر سے مصافحہ کیا اور سب سے پہلے اس کو سلام کیا جائے گا اور حضرت عمر ہی وہ پہلا شخص ہے جس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔“ یہ حدیث بہت منکر ہے۔ امام احمد رضی اللہ عنہ اس حدیث کے رواۃ میں سے داؤد بن عطاء کے متعلق فرماتے ہیں ”داؤد بن عطاء یس ہشمی“ امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”منکر الحدیث“

ستائیسواں باب

”اس امت کے وہ لوگ جو پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی صفات کا بیان“

عن ابی ہریرہ قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يتغوطون فيها ولا يتمخطون فيها أنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورثتهم المسك منهم زوجتان يری مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم على قلب رجل واحد يسبحون بكرة وعشيا

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے۔ وہ تھوکیں گے نہیں : نہ پاخانہ کریں گے اور نہ کھائیں گے ان کے برتن اور کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی۔ ان کی انگڑیاں شہدوں کا بندھن اگر کا ہوگا ان کا پسینہ مشک کا ہوگا۔ ہر آدمی کے لئے حور عین سے دو بیویاں ہوں گی ان کی ہڈیوں کا گودا گوشت کے اندر سے نظر آرہا ہوگا حسن کی وجہ سے ان میں اختلاف اور بغض و حسد نہیں ہوگا۔ ان کے قلوب بمنزلہ ایک شخص کے دل کے ہوں گے اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں گے۔

(۲) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے۔ اور وہ جماعت جو ان کے بعد

داخل ہوگی ان کے چہرے آسمان میں نہایت روشن اور چمکدار ستارے کی طرح ہوں گے۔ نہ پیشاب کریں گے اور نہ پاخانہ کریں گے نہ تھوکیں گے اور نہ کھانسیں گے انکی کنگھیاں سونے کی ہوں گی ان کا پسینہ مشک ہو گا ان کی انگلی ٹھہروں کا ایندھن اگر کا ہو گا ان کی بیویاں حور عین ہوں گی۔ ایک مرد کی سیرت پر اپنے باپ آدم علیہ السلام کی صورت رکھتے ہوں گے۔ ان کا طول ساٹھ گز آسمان کی جانب ہو گا۔

(۳) ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”قیامت کے دن جنت کی طرف سب سے پہلے جن لوگوں کو بلایا جائے گا وہ لوگ ہوں گے جو خوشی اور تکلیف میں اللہ کی حمد کرتے تھے۔“

(۴) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے میری امت کے وہ تین آدمی جو پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور وہ تین آدمی جو سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوں گے پیش کئے گئے وہ تین آدمی جو پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک شہید ہے دو سرا مملوک غلام ہے جس کی دنیا کی غلامی نے اس کو اس کے رب کی طاعت سے غافل نہ کیا ہو۔ تیسرا بچوں والا سوال نہ کرنے والا پاک دامن فقیر۔

اور وہ تین آدمی جو پہلے جہنم میں داخل ہوں گے۔ ایک زبردستی مسلط ہونے والا میرا دو سرا وہ مالدار ہے جو اپنے مال سے اللہ کا حق ادا نہ کرتا ہو اور تیسرا فخر کرنے والا فقیر۔

عن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم هل تدرون أول
من يدخل الجنة؟ قالوا الله ورسوله
اعلم. قال فقراء المهاجرين الذين
تتقى بهم المكاره ويموت أحدهم
وحاجة في صدره لا يستطيع لها قضاء
تقول الملائكة ربنا نحن ملائكتك
وخترتك ومكان سمواتك
عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرماتے
ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم
جانتے ہو کہ سب سے پہلے جنت میں کون
لوگ داخل ہوں گے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض
اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فقراء
مہاجرین جن کے ذریعہ سے مشکلات سے
بچنے کے لئے آڑ پکڑی جاتی تھی ان کا ایک

لا تدخلهم الجنة قبلنا فيقول عبادي اس حال میں مرتا ہے کہ اس کے دل میں لایشر کون بی شیاً تقی بهم المنکاره حاجت ہوتی ہے جس کی پورا کرنے کی یہ يموت أحدہم و حاجة في ۱۰ ۱۰ لم طاقت نہیں رکھتا (جب یہ لوگ جنت میں يستطيع لها قضاء فعند ذلك تدخل پہلے داخل ہوں گے) تو فرشتے کہیں گے اے عليهم الملائكة من كل باب "سلام" ہمارے رب ہم آپ کے فرشتے اور آپ کے عليكم عما صبرتم فنعم عقبي الدار"۔ داروغے اور آپ کے آسمانوں کے رہنے

والے ہیں ان کو ہم سے پہلے جنت میں داخل نہ فرما اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے۔ یہ میرے ایسے بندے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا ان کی وجہ سے مشکلات سے بچنے کے لئے آڑ پکڑی جاتی تھی ان کا ایک اس حال میں مرا ہے کہ اس کے دل میں ایک آرزو ہوتی ہے جس کے پورا کرنے کی یہ طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اس وقت ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے کہیں گے سلامتی تم پر بدلے اس کے کہ تم نے صبر کیا سو خوب ملا عاقبت کا گھر۔

جب اللہ تعالیٰ نے نبی آدم کی دو قسمیں ذکر کیں (۱) نیک بخت (۲) بد بخت تو پھر نیک بختوں کو بھی دو قسموں میں تقسیم فرمایا (۱) سابقین (۲) اصحاب یمن (فرمایا "والسابقون السابقون") اس آیت میں تین اقوال ہیں (۱) یہ تاکید لفظی ہے اور اس کی خبر اللہ تعالیٰ کا ارشاد (اولئک المقربون) ہے (۲) دو سرا قول یہ ہے کہ پہلا "السابقون" مبتدا ہے اور دو سرا "السابقون" علیحدہ خبر ہے جیسا کہ آپ کا کہنا "زید" یعنی زید جس کے متعلق آپ نے سنا ہے

اس سے مراد وہی زید ہے اور اس طرح دوسرے کا قول۔

انا ابو النجم و شعری شعری

میں ابو نجم شاعر ہوں میرا شعر میرا ہی شعر ہوتا ہے۔

اذ الناس ناس و الزمان زمان

جبکہ لوگ لوگ تھے اور زمانہ زمانہ تھا (یعنی اب زمانے اور لوگوں کا وہ معیار نہیں رہا)

ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ یہ سیبویہ کا قول ہے۔

(۲) تیسرا قول یہ ہے کہ پہلا (السابقون) ثانی کا غیر ہو تو معنی یہ ہو گا "السابقون فی الدنیا

الی العیارات ہم السابقون یوم القیامتہ الی الجنات" (یعنی دنیا میں بھلائیوں کی طرف

سبقت کرنے والے لوگ ہی قیامت کے دن جنتوں کی طرف سبقت کریں گے)

"والسابقون الی الایمان ہم السابقون الی الجنان" (ایمان کی طرف سبقت کرنے

والے لوگ ہی جنت کی طرف سبقت کرنے والے ہیں یہ توجیہ زیادہ ظاہر ہے۔ واللہ اعلم

اعتراف

اگر کوئی کہے کہ اس حدیث کے متعلق کیا کہو گے جس کو امام احمد اور ترمذی رحمہما اللہ نے روایت کیا ہے۔ اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔

عن بریدۃ ابن الحصیب قال: اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بلالاً فقال بلال بم سبقتنی الی الجنة فعا دخلت الجنة قط الا سمعت خشخشتك امامی ودخلت البارحة فسمعت خشخشتك امامی فأتیت قصر مربع مشرف من ذهب فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا الرجل من امة

بریدہ رضی اللہ عنہ بن حصیف سے روایت ہے ' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فرمائی تو حضرت بلال کو بلایا ارشاد فرمایا اے بلال رضی اللہ عنہ کس چیز کی وجہ سے تو مجھ سے پہلے جنت میں جاتا ہے اس لئے کہ میں جب بھی (خواب وغیرہ میں) جنت میں داخل ہوتا ہوں تو تیری پاؤں کی آہٹ اپنے آگے سنتا ہوں گذشتہ رات میں جنت میں داخل ہوا تو تیری پاؤں کی آہٹ اپنے آگے

محمد قلت أنا محمد لمن هذا القصر؟ سنی۔ پھر میں سونے کے بنے ہوئے بلند اور قالوا العمر بن الخطاب فقال بلال یا مربع محل کے پاس آیا میں نے پوچھا یہ محل رسول اللہ ما اذنت قط الا و صليت کس کا ہے! انہوں نے (فرشتوں) کہا محمد رکعتين وما اصابني حدث قط ﷺ کے ایک امتی کا ہے میں نے کہا میں محمد الاتوضأت عندها ورأيت أن لله علي ہوں یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا عمر ﷺ رکعتين فقال رسول الله صلى الله عليه بن الخطاب کا ہے۔ (یہ سن کر) حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ: میں نے کبھی بھی اذان نہیں دی مگر یہ کہ اس کے بعد دو رکعت نماز ادا کی اور مجھے جب حدیث (بے وضوئی) لاحق تو اسی وقت وضو کر لیتا ہوں اور اپنے اوپر اللہ کے لئے دو رکعتیں لازم خیال کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ پس اسی وجہ سے (آپ آگے بڑھتے ہیں)

جواب

اس حدیث کو تلقی بالقبول والتصدیق حاصل ہے لیکن یہ اس پر دلالت نہیں کرتی کہ رسول اللہ ﷺ سے بھی پہلے کوئی جنت میں جاسکے گا؟ باقی رہا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا پہلے جانا تو وہ اس طرح ہے جیسا کہ کوئی خادم اور دربان اپنے آقا سے پہلے چلتا ہے۔

ایک حدیث میں روایت کیا گیا ہے ”کہ نبی کریم ﷺ کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو بلال آپ کے آگے اذان دیتے ہوئے جائیں گے۔“

حضرت بلال کی سبقت یہاں رسول اللہ کے شرف اور فضیلت کے اظہار کے لئے ہوگی۔ یہ سبقت ایسی ہے جیسے کہ نماز سے پہلے وضو اور دخول مسجد کی طرف سبقت کی جاتی ہے۔

واللہ اعلم

اٹھائیسواں باب”فقراء کا اغنیاء سے جنت میں پہلے جانا“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء مسلمان اغنیاء سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے وہ (آدھا دن) پانچ سو سال کا ہو گا۔

جابر رضی اللہ عنہ بن عبد اللہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے فقیر لوگ مالداروں سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غنی مومن اور ایک فقیر کی جنت کے دروازے پر ملاقات ہوگی جو دنیا میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے فقیر مومن کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور غنی مومن کو روک لیا جائے گا جتنا اللہ کو روکنا منظور ہوگا پھر اس کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا پھر فقیر اس سے ملے گا تو کہے گا اے بھائی آپ کو کس چیز نے

عن ابی ہریرۃ أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یدخل فقراء المسلمین الجنة قبل اغنیائہم بنصف یومٍ وهو خمسمائہ عام۔

عن جابر بن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم أنه قال یدخل فقراء امتی الجنة قبل الاغنیاء بأربعین حزیفاً۔

عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التقی مئومنان علی باب الجنة مئومن غنی ومئومن فقیر کانا فی الدنیا فأدخل الفقیر الجنة وحبس الغنی ماشاء اللہ ان یحبس ثم ادخل الجنة فلقیہ الفقیر قال، ای اخی وماذا حبسک؟ واللہ لقد احتبست حتی خفت علیک فقال ای اخی وانی حبست بعدک محبساً فظیعاً کرہیہا ما

وصلت اليك حتى سال مني العرق مالو رو كا تھا خدا كى قسم آپ اتنے رو ك لئے گئے
وردہ الف بعد كلها أكلة حمض کہ میں تجھ پر خوف كھانے لگا وہ كے گا اے
لصدرت عنه.

بھائی آپ كے بعد مجھے بہت گبراہٹ اور
ناگوار طرح رو كا گیا تھا میں آپ تك نہیں
پہنچا یہاں تك كے مجھ سے اتنا پسینہ بہہ پڑا اگر
اس سے ہزار ایسے اونٹ پی لیتے جنہوں نے
كڑوی گھاس كھائی ہو تو وہ بھی اس سے سیراب
ہو جاتے۔

روایات میں سبقت كا اختلاف فقراء اور اغنیاء كے احوال كے اعتبار سے ہو گا بعض
پانچ سو سال پہلے جائیں گے اور بعض چالیس سال جیسا کہ گناہ گار موحدین اپنے احوال كے
اعتبار سے جہنم میں رہیں گے واللہ اعلم۔

یہاں ایک امر پر تنبیہ کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ ان فقراء كے پہلے داخل ہونے سے
یہ لازم نہیں آتا کہ ان كا مقام بھی جنت میں اونچا ہو کیونکہ بسا اوقات بعد میں داخل ہونے
والے كا مقام بہت اونچا ہو گا اگرچہ داخل ہونے میں دوسرا سبقت كر گیا ہو گا دلیل اس كی یہ
ہے کہ اس امت كے بعض لوگ جنت میں بغیر حساب و كتاب كے داخل ہوں گے جن كی تعداد
ستر ہزار ہے لیكن حساب كئے گئے لوگوں میں سے بعض ان كے اكثر سے افضل ہوں گے کیونکہ
جب غنی سے حساب لیا جائے گا اور اس كا حساب صحیح نكلے گا تو اللہ تعالیٰ اس كی قدر کریں گے
کیونکہ اس نے نیكى، بھلائی، صدقہ اور اچھے كاموں كی مختلف قسموں سے اللہ تعالیٰ كا تقرب حاصل
كر لیا ہو گا ظاہر بات ہے کہ یہ غنی اس فقیر سے درجے كے اعتبار سے بہت اونچا ہو گا جو اس سے
پہلے جنت میں داخل ہو چكا ہو گا اور یہ مذکورہ اعمال اس كے نہیں ہوں گے اور پھر خاص طور پر
اس صورت میں کہ غنی اس كے ساتھ دوسرے اعمال میں بھی برابر كا شریك رہا ہو اور انفاق
اسی كا زیادہ عمل ہو اللہ تعالیٰ كسى كى نیكى كا جراضاع نہیں كرتے یہاں فضیلتیں دو ہیں ایک
سبقت (پہلے جنت میں جانے) كى فضیلت اور دوسری اونچے درجے كى فضیلت یہ دونوں كبھی

جمع ہوتی ہیں اور کبھی جدا ہو جاتی ہیں کبھی ایک شخص کو سبقت کی فضیلت ملتی ہے اور دوسرے شخص کو اونچے درجے کی اور تیسرے کو دونوں نہیں ملتیں یہ ان دونوں باتوں کے مقتضی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔

وباللہ التوفیق



انتیس واں باب

جنتیوں کی وہ قسم جن کو جنت کی ضمانت دی گئی ہے

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

اور دوڑ و بختش کی طرف اپنے رب کی اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین ہے پر ہیز گاروں کے واسطے تیار ہوئی ہے جو خرچ کئے جاتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں اور غصہ دبا لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور اللہ نیکی کرنے والوں کو چاہتا ہے اور وہ لوگ کہ جب کچھ کھلا گناہ کر بیٹھیں یا برا کام کریں اپنے حق میں تو اللہ کو یاد کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں اللہ کے سوا اور کون ہے گناہ بخشنے والا اور اپنے کئے پر آڑے نہیں اور وہ جانتے ہیں انہی کی جزاء ہے بخشش ان کے رب کی اور باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ لوگ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے اور کیا خوب مزدوری ہے کام کرنیوالوں کی۔

وتسارعون الى مغفرة من ربكم وجنت عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا الذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزأهم مغفرة من ربهم وجنت تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين.

(سورة آل عمران ۱۳۳، ۱۳۶)

آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ جنت ”متقین“ کے لئے بنائی گئی ہے ان کے علاوہ کے لئے نہیں پھر متقین کے اوصاف بیان فرمائے ان کی حالت انفاق ذکر کی

کہ وہ تنگی اور فراخی میں سختی اور نرمی میں خرچ کرتے ہیں اس لئے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فراخی کی حالت میں تو خرچ کرتے ہیں لیکن تنگی میں خرچ نہیں کرتے آگے فرمایا کہ یہ متقین اپنے غصے کو دبا کر لوگوں کی ایذا رسانی سے بچتے ہیں اور درگزر سے کام لے کر انتقام سے رکھتے ہیں (یہ تو ان کا بندوں سے معاملہ ہوتا ہے) آگے ان کے اور ان کے رب کے درمیان ان کے گناہوں کے بارے میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ صادر ہوتا ہے تو یہ لوگ فوراً توبہ و استغفار اور اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
(سورۃ التوبہ : ۱۰)

اور جو لوگ قدیم ہیں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور مدد کرنیوالے اور جو ان کے پیرو ہوئے نیکی کے ساتھ اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے اور تیار کر رکھے ہیں ان کے لئے باغ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہ ان میں ہمیشہ رہا کریں گے یہی بڑی کامیابی ہے۔

آیت مذکورہ میں حق تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ جنت مہاجرین و انصار اور احسان میں ان کی تابعداری کرنے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے اس شخص کے لئے جنت کی کوئی امید نہیں کی جاسکتی جو ان حضرات کے طریقے سے خارج ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرُوا اللَّهَ إِيمَانًا وَآلَةً وَهِيَ هِيَ أَنْ تَكُونَ
وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَأُذِلَّتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ تَوَدُّرًا جَائِسًا أَنْ تَكُونَ
زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ أَنْ تَكُونَ
الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيَمُوتُونَ إِيمَانًا وَهُوَ رَبُّهُمْ
يَنْفَقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا هُمْ هُمْ هُمْ هُمْ هُمْ هُمْ هُمْ هُمْ هُمْ هُمْ

درجات عند ربهم ومغفرة ورزق نے جو ان کو روزی دی ہے اس میں سے
 کریم۔
 خرچ کرتے ہیں وہی ہیں سچے ایمان والے ان
 کے لئے درجے ہیں ان کے رب کے پاس
 (سورۃ الانفال ۳-۴)
 اور معافی اور روزی عزت کی۔

ان کی صفات یہ ہیں کہ یہ لوگ ظاہر اور باطنہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتے ہیں صحیح
 مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحابہ کی ایک جماعت جنگ حنین سے واپس آئی
 اور کہنے لگی فلاں شہید ہے فلاں شہید ہے فلاں شہید ہے یہاں تک کہ ایک آدمی پر گزرے تو
 اس کے بارے میں کہنے لگے یہ شہید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں میں نے اس
 کو اس چادر میں یا عباء میں جہنم میں دیکھا ہے جو اس نے مال غنیمت سے چرائی تھا پھر فرمایا اے
 ابن الخطاب جا اور لوگوں میں اعلان کرو کہ جنت میں مومن ہی داخل ہوں گے حضرت عمر
 رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا اور لوگوں میں اعلان کیا کہ جنت میں مومن لوگ ہی داخل
 ہوں گے۔

صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
 بلال کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کرو کہ جنت میں مسلمان آدمی (تابع دار) ہی داخل ہو گا۔
 صحیح مسلم میں حضرت عیاض بن حمار الجاشعی کی روایت ہے ایک دن رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا آگاہ رہو میرے رب نے مجھ کو حکم کیا کہ سکھلاؤں تم کو جو
 تم کو معلوم نہیں۔

ان باتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آج کے دن مجھ کو سکھائیں میں جو مال اپنے
 بندے کو دوں وہ حلال ہے اس کے لئے (یعنی جو شرع کی رو سے حرام نہیں ہے وہ حلال ہے)
 لوگوں نے اس کو حرام رکھا ہو جیسے سائبہ اور وصہہ اور بحیرہ اور حام وغیرہ جن کو مشرکین نے
 حرام کر رکھا تھا اور میں نے اپنے بندوں کو مسلمان بنایا (یا گناہوں سے پاک یا استقامت پر اور
 ہدایت کی قابلیت پر اور بعض نے کہا مراد وہ عہد ہے جو دنیا میں آنے سے پیشتر لیا گیا تھا) اور ان

کے پاس شیطان آئے اور ان کو ان کے دین سے ہٹایا اور جو چیزیں میں نے ان کے لئے حلال کی تھیں وہ حرام کیں اور ان کو حکم کیا میرے ساتھ شرک کرنے کا جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور بیشک اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو دیکھا پھر ان کو برا سمجھا عرب کے ہوں یا عجم کے سوائے ان چند لوگوں کے جو اہل کتاب میں سے باقی تھے (سیدھی راہ پر یعنی حضرت عیسیٰ کے امت کے لوگ جو توحید کے قائل اور تثلیث کے منکر تھے) اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھ کو اس لئے بھیجا کہ تجھ کو آزماؤں (صبر و استقامت میں کافروں کی ایذا پر) اور ان لوگوں کو آزماؤں جن کے پاس تجھ کو بھیجا۔ (کہ کون ان میں سے ایمان قبول کرتا ہے کون کافر رہتا ہے وغیرہ) اور میں نے تجھ پر کتاب اتاری جس کو پانی نہیں دھوتا (کیونکہ وہ کتاب صرف کاغذ پر نہیں لکھی گئی بلکہ سینوں پر نقش ہے) تو اس کو پڑھتا ہے سوتے اور جاگتے اور اللہ نے مجھ کو حکم کیا قریش کے لوگوں کو جلا دینے کا (یعنی ان کے قتل کا) میں نے عرض کیا اے پروردگار وہ تو میرا سر توڑ ڈالیں گے روٹی کی طرح اس کو ٹکڑے کر دیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو نکال دے جیسے انہوں نے تجھے نکالا اور جہاد کر ان سے ہم تیری مدد کریں گے اور خرچ کر تیرے اوپر خرچ کیا جائے گا (یعنی تو اللہ کی راہ میں خرچ کر اللہ تجھ کو دے گا) اور تو لشکر بھیج ہم ویسے پانچ لشکر بھیجیں گے (فرشتوں) اور جو لوگ تیری اطاعت کریں ان کو لیکر ان سے لڑ جو تیرا کمانہ مانیں۔ اور جنت والے تین شخص ہیں ایک تو وہ جو حکومت رکھتا ہے اور انصاف کرتا ہے سچا ہے اور نیک کاموں کی توفیق دیا گیا ہے دوسرے وہ جو مہربان ہے نرم دل ہر ناتے والے پر اور ہر مسلمان پر اور تیسرے جو پاکدامن ہے سوال نہ کرنے والا عیالدار۔ اور دوزخ والے پانچ شخص ہیں ایک تو وہ بے عقل (جس کو تمیز نہیں کہ بری بات سے بچے) جو تم میں تابعدار ہیں نہ وہ گھر بار چاہتے ہیں نہ مال (یعنی محض بے فکری حلال حرام سے غرض نہ رکھنے والے) دوسرے وہ خیانت کرنے والا (چور) جب اس پر کوئی چیز اگرچہ حقیر ہو کھلے وہ اس کو چراوے۔ تیسرے وہ شخص جو صبح و شام تجھ سے فریب کرتا ہے تیرے گھر والوں اور تیرے مال کے مقدمہ میں۔ اور اس کے بعد آپ نے بخیل اور جھوٹے کا ذکر کیا کہ وہ بھی دوزخی ہیں)

اور شہنشاہ کا یعنی گالیاں بکنے والا فحش کہنے والا۔ (اس کا ذکر کیا) صحیحین میں حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کیا میں تم کو جنتی لوگ نہ بتاؤں (جنتی ہر وہ کمزور آدمی اور کمزور خیال کئے گئے کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھائے تو اللہ ان کو سچا کرے۔ (یعنی اللہ کے ہاں ان کا اتنا بڑا مرتبہ ہو گا) اور کیا میں تمہیں جنتی لوگ نہ بتاؤں (جنتی) ہر اجڈ سخت گو اور متکبر آدمی ہے۔

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جنتی ہر سخت خوشخت گو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا مال جمع کرنے والا اور نہ دینے والا آدمی ہے۔ اور جنتی لوگ مغلوب اور ضعیف ہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے آدمی نہ بتاؤں۔ نبی جنتی ہیں صدیق جنتی ہیں۔ شہید جنتی ہیں۔ شرکے کو نے میں اللہ کی رضا کے لئے مسلمان بھائی سے ملنے کے لئے جانے والا شخص جنتی ہیں۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جنتی وہ جو خاوند سے محبت کرنے والی اور بہت بچے جننے والی عورت ہے کہ جب اس کا شوہر غصہ ہو جائے یا وہ خود غصہ ہو جائے تو آکر خاوند کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ میں آنکھ نہیں جھپکاؤں گی جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

ان اهل الجنة من ملا اذینہ من ثناء الناس خیراً و هو یسمع و اهل النار من ملا اذینہ من ثناء الناس شراً و هو یسمع۔

جنتی شخص وہ ہے جو لوگوں سے اپنی اچھی تعریف سن کر اپنی کانوں کو بھردے اور جنتی شخص وہ ہے جو لوگوں سے برائی سن کر اپنی کانوں کو بھردے (یعنی پہلے شخص کی اچھے لوگ تعریف کریں اور دوسرے شخص کی نیک لوگ برائی بیان کریں)۔

انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ ایک جنازہ لے کر گزرے انہوں نے اس کی اچھی تعریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔ پھر ایک دوسرا جنازہ لے کر گزرے اس کا برائی سے تذکرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی (یہ سن کر) حضرت عمر نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ایک جنازہ گزرا لوگوں نے اس کی اچھی تعریف کی تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی پھر دوسرا جنازہ گذرا لوگوں نے اس کا برائی سے تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی؟ (کیا واجب ہو گئی) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی تم نے بھلائی اور اچھائی کے ساتھ تعریف کی اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اور جس کی برائی کے ساتھ تعریف بیان کی اس کے لئے دوزخ واجب ہو گئی۔ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔

وفي اسحيحين عن انس بن مالك قال
مر بجنزة فائني عليه خير فقال نبى الله
وجبت وجبت وجبت ومر بجنزة
فائني عليها شرأ فقال وجبت وجبت
وجبت فقال عمر فداك أبى وامى
مر بجنزة فائني عليها خير فقلت
وجبت وجبت وجبت ومر بجنزة
فائني عليها شر فقلت وجبت وجبت
وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم. من اثنتم عليه خيراً
وجبت له الجنة ومن اثنتم عليه شراً
وجبت له النار وأنتم شهداء الله في
الأرض.

ایک دوسری حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ تم لوگ جہنمہوں سے جنتیوں کا امتیاز کر لو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ آپ نے فرمایا تعریف بیان کرنے سے اور مذمت کرنے سے نبی الجملہ جنتیوں کی چار قسمیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد میں ذکر کیا ہے۔

وسن بطع اللہ والرسول فاولئک مع
الذین أنعم اللہ علیہم من النبیین و
الصدیقین والشہداء والصالحین
وحسن اولئک رفہما (سورۃ النساء ۶۹)

اور جو شخص حکم مانے اللہ اور رسول کا سو وہ
ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا کہ
وہ نبی اور صدیق اور شہید اور نیک بخت ہیں
اور ان کی رفاقت اچھی ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں التجاء کرتے ہیں کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی ان
میں شامل فرمادیں۔



تیسواں باباکثر جنتی محمد ﷺ کے امتی ہوں گے

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تم لوگ اس پر راضی نہیں کہ تم اہل جنت کے چوتھائی حصے کے برابر ہو۔ (یہ سن کر) ہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر فرمایا کیا تم لوگ اس پر راضی نہیں کہ تم لوگ اہل جنت کے تہائی ہو (یہ سن کر) ہم نے اللہ اکبر کہا پھر فرمایا مجھے امید ہے کہ تم لوگ اہل جنت کے آدھے حصے کے برابر ہو گے۔ عنقریب میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ مسلمان کفار کے مقابلے میں اتنے ہیں جیسا کہ کالے بیل میں سفید بال ہوتا ہے یا سفید بیل میں کالا بال ہوتا ہے۔

حضرت بریدہ بن الحصیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جنتیوں کی ایک سو بیس صفیں ہوں گی جن میں اسی صفیں اس امت کی ہوں گی۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی

ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَىٰ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ . انبؤہ ہے پہلوں میں سے اور انبؤہ ہے پچھلوں
(سورۃ الواقعة ۴۰-۴۲) میں سے۔

آپ نے فرمایا تم اہل جنت کے چوتھائی ہو تم اہل جنت کے تہائی ہو۔ ”تم اہل جنت کے نصف ہو تم اہل جنت کے دو تہائی ہو۔“

اکتیس واں باب

جنت اور جہنم میں مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ ہوں گی

محمد بن سیر بن رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ جنت میں مرد زیادہ ہوں گے یا عورتیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا ابوالقاسم رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ”بیشک پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی انکے چہرے چودھویں رات کی چاند کی طرح ہوں گے اور جو جماعت اس کے بعد ہوگی ان کے چہرے آسمان میں روشن چمکدار ستارے کی طرح ہوں گے ہر آدمی کی (حور عین سے) دو بیویاں ہوں گی۔ ان کی ہڈیوں کا گودا گوشت کے اندر سے نظر آ رہا ہو گا۔“

جنت میں کوئی بے شوہر عورت نہیں ہوں گی۔ اگر ان عورتوں سے دنیا کی عورتیں مردالی جائیں۔ تب تو کوئی اشکال نہیں کیونکہ دنیا کی عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں اور اگر اس سے مراد حوریں ہوں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ دنیا میں بھی زیادہ ہوں۔

ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد حوریں ہی ہیں کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

”جنتی کے لئے حوروں میں دو بیویاں ہوں گی ہر بیوی ستر جوڑے پہنے ہوگی کہ اس کے ہڈیوں کا گودا ان کے کپڑوں کے اندر سے نظر آئے گا۔“

اعتراض

اس حدیث میں اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس متفق علیہ حدیث میں کیسے تطبیق کرو گے۔ حالانکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عید کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوا۔

آپ نے خطبے سے پہلے بغیر اذان اور بغیر اقامت کے نماز ادا کی پھر نماز کے بعد خطبہ دیا اور لوگوں کو نصیحت کی اور ان کو احکام دین یاد دلانے پھر آپ عورتوں کے پاس آئے اور ان کو نصیحت کی اس حال میں کہ حضرت بلال آپ کے ساتھ تھے اور ان کو صدقہ کا حکم دیا تو عورتوں نے اپنی انگوٹھیوں اور بالیوں کو ڈالنا شروع کیا نبی اکرم ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہما کو انکو جمع کرنے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے فرمایا بے شک تم میں سے کم عورتیں جنتی ہیں ایک عورت کہنے لگی کیوں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا اس لئے کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔“

دوسری حدیث میں ہے ”جنت کے کم باشندے عورتیں ہیں۔“

جواب

یہ حدیث تو اس پر دلالت کرتی ہے کہ یہ عورتیں جنت میں ان حوروں کے مقابلے میں زیادہ ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا کیا ہے اور جنت کے کم باشندے دنیاوی عورتیں ہوں گی تو حاصل یہ کہ دنیا کی عورتیں کم جنتی اور زیادہ جہنمی ہوں گی۔ زیادہ جہنمی اس لئے ہوں گی کہ عمران بن حصین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے آپ ﷺ کی یہ حدیث پہنچی ہے آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں جھانکا تو اکثر جہنم میں نے عورتوں کو دیکھا اور جنت میں جھانکا تو جنتیوں میں اکثر فقیروں کو دیکھا۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو اور زیادہ استغفار کرو اس لئے میں نے اکثر جہنمی تم (عورتوں) کو دیکھا ہے۔ ان میں سے ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ کس وجہ سے ہم میں سے زیادہ جہنمی ہیں؟ آپ نے فرمایا تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو اور میں نے تم سے بڑھ کر دین اور عقل میں ناقص اور عقلمند شخص پر زیادہ غالب آنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ ایک عورت کہنے لگی یا رسول اللہ ہمارے دین اور عقل کا نقصان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عقل کا نقص یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کی برابر ہے۔ یہ تو تمہاری عقل کا نقص ہے۔ اور تم چند

دن ٹھہرتی ہو کہ نہ نماز پڑھتی ہو اور نہ روزہ (یعنی ایام حیض و نفاس میں) یہ تمہارے دین کا نقصان ہے۔

عمارة بن خزیمہ بن ثابت سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم کسی حج یا عمرے میں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے جب ہم (مقام) الظمہ وان تک پہنچے تو وہاں ایک عورت اپنے کجاوے میں بیٹھی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ایک وادی میں داخل ہوئے ہم بھی آپ کے ساتھ داخل ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جگہ تھے کہ ہمارا گزر بہت سارے کوؤں پر ہوا ان میں ایک کوا سرخ چونچ اور سرخ پنچوں والا تھا جس کے پر یعنی زیر انما تھے (یعنی کالے اور سفید تھے) آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اتنی عورتیں داخل ہوں گی جیسا کہ ان کوؤں میں یہ (سرخ چونچ اور پنچوں اور چتہ مکبرا پروں والا) کوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جنت میں عورتوں کا کم ہونا مراد لیا۔ کیونکہ کوؤں میں یہ وصف بہت کم ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے آپ نے فرمایا ”نیک عورت کی مثال اعصم کوئے کی سی ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعصم کوا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کوا جس کے دونوں پنچوں میں سے ایک سفید ہو۔

ایک اور حدیث میں فرمایا ہے عائشہ کی مثال دیگر عورتوں میں ایسی ہے جیسا کہ کوؤں میں چتہ مکبرا کوا ہوتا ہے یعنی زیر انما کا)



بتیس واں باب

اس امت کے ان لوگوں کے اوصاف کا بیان
جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے

عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ ﷺ سے روایت ہے میں نے
صلی اللہ علیہ وسلم يقول یدخل الجنة
من امتی زمرۃ ہم سبعون الفا تضیی
وجوہہم اضاءۃ القمر لیلۃ البدر فقال
عکاشہ بن محصن الأسدی یرفع نمرۃ
علیہ ”یا رسول اللہ ادع اللہ أن یمعلنی
منہم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم اللهم اجعلہ منہم فقام رجل عن
الانصار فقال یا رسول اللہ ادع اللہ أن
یمعلنی منہم فقال سبقک بہا
عکاشۃ“

ابو ہریرہ سے روایت ہے میں نے
رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ میری امت
کی ایک جماعت جنت میں داخل ہوگی جو ستر
ہزار ہوں گے ان کے چہرے چودھویں
رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔
عکاشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ
اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل
کر دے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اے
پروردگار عکاشہ کو بھی ان میں شامل فرما (یہ
سن کر) انصار میں سے ایک شخص کھڑے
ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اللہ
سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل فرما
دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ
اس میں آپ سے آگے بڑھ چکا ہے۔

صحیح بخاری میں سہل بن سعد رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ضرور
بعض اور میری امت کے ستر ہزار یا سات لاکھ لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے،

ایک دوسرے کو پکڑے رہیں گے۔ یہاں تک کہ ان کا اول اور آخر جنت میں داخل ہو جائے۔ انکے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، یہ پہلی جماعت ہوگی جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگی۔ صحیحہ جہن کی اس حدیث پر ایک دوسری حدیث بھی دلالت کرتی ہے ”خصف بن عبدالرحمن کہتے ہیں کہ میں سعید بن جبہ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا۔ انہوں نے فرمایا تم میں سے گزشتہ رات ٹوٹنے والا ستارہ کس نے دیکھا؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا پھر میں نے عرض کیا کہ میں کسی نماز میں مشغول نہیں تھا لیکن مجھے ڈسا گیا۔ سعید بن جبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر آپ نے کیا کیا میں نے عرض کیا، میں نے جھاڑ پھونک کی تو انہوں نے فرمایا اس کام پر آپ کو کس چیز نے آمادہ کیا؟ میں نے عرض کیا اس حدیث نے جو شعبہ رضی اللہ عنہ نے ہم سے بیان کی، سعید بن جبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شعبہ نے تم سے کیا بیان کیا۔ میں نے عرض کیا کہ شعبہ نے بریدہ بن العصفی رضی اللہ عنہ سے نقل کر کے ہم سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دم کرنا نہیں ہے مگر نظر بد اور ڈنک کی وجہ سے جائز ہے سعید بن جبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے بہت اچھا سنا لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا میرے سامنے امتوں کو (یعنی ان کی حالت) پیش کیا گیا پس میں نے ایک نبی کو دیکھا جس کے ساتھ امتوں کی ایک جماعت تھی اور دوسرے نبی کو دیکھا جس کے ساتھ ایک یا دو امتی تھے اور ایک پیغمبر کو دیکھا جس کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں تھا۔ پھر ایک بہت بڑی جماعت مجھے دکھائی گئی تو میں نے گمان کیا کہ یہ میری امت ہے تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم ہے، لیکن آپ کنارے کی طرف دیکھیں جب میں نے دیکھا وہ بہت بڑی جماعت تھی تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور انکے ساتھ ستر ہزار افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے ” آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے گئے تو لوگوں نے ان بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کے بارے میں بحث شروع کی۔ کچھ لوگوں نے کہا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور کچھ لوگوں نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو حالت اسلام میں پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرا چکیں ہوں گے اور اسی طرح دیگر اشیاء کو ذکر کیا (یہ

سن کر) رسول اللہ ﷺ نکلے اور ارشاد فرمایا تم کس چیز میں بحث کر رہے ہو چنانچہ انہوں نے قصہ بتا دیا۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم کرتے ہیں اور نہ دم کرواتے ہیں اور نہ شگون پکڑتے ہیں اور صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں (یہ سن کر) عکاشہ بن معصن کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے ان میں شامل فرمادے آپ نے فرمایا تو ان میں سے ہے۔ پھر ایک دوسرے شخص کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل فرمادیں آپ نے فرمایا عکاشہ آپ سے سبقت کر چکے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس حدیث میں ”لا یرقون“ کا لفظ نہیں ہے۔ ہمارے شیخ کا کہنا ہے کہ یہ لفظ صحیح ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کا وصف بیان کیا جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے وہ اوصاف یہ ہے (۱) وہ لوگ توحید کے اعلیٰ مرتبے پر ہوں گے دوسروں سے دم نہیں کروائیں گے (۲) شگون نہیں پکڑیں گے (۳) صرف اپنے رب ہی پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ شگون بھی ایک قسم کا شرک ہے یعنی ان حضرات کا بد شگونی اور دم ترک کرنا۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل کی وجہ سے ہو گا جیسا کہ حدیث میں بد شگونی شرک ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص نے بد شگونی پکڑی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو توکل سے ختم فرمادیا۔ پس توکل بد شگونی کے منافی ہے ہرچہ بد نظری کا دم کرنا تو وہ دم کرنے والے کا احسان ہوتا ہے حضرت جبرئیل نے رسول اللہ ﷺ کو دم کیا ہے اور آپ نے دم کرنے کی اجازت دی ہے اور فرمایا کہ جس دم میں شرک نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کے بارے میں آپ سے اجازت چاہی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ”جو اپنے بھائی کو نفع پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو چاہئے کہ اپنے بھائی کو نفع پہنچائے“

یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ دم نفع اور احسان ہے اور مستحب ہے اور اللہ اور رسول کو مطلوب ہے۔ پس دم کرنے والا محسن ہے اور کروانے والا تو دوسرے کے نفع کا امیدوار ہے اور توکل اس کے منافی ہے (یعنی غیر سے امید رکھنا توکل کے منافی ہے) اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دم کیا ہے اور حضرت جبرئیل نے آپ کو دم کیا ہے۔ ہم

کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن آپ نے کروایا نہیں اور دو سری بات یہ ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا دم کرنے والا دم نہ کرے بلکہ یوں فرمایا کہ یہ مذکورہ لوگ دو سروں سے دم نہیں کروائیں گے۔ نبی کریم ﷺ کا منع کرنا ”باب طلب“ کو بند کرنے کے لئے ہے کیونکہ بسا اوقات آدمی ایسے شخص سے دم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے جو اس کا اہل نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم۔

صحیح مسلم میں عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میری امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ لوگ کون ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ داغ لگاتے ہیں اور نہ دم کرواتے ہیں اور نہ بد شگونی کرتے ہیں اور صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔

عن ابی مسعود قال قال رسول اللہ ﷺ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا (کہ موسم حج میں) الأمام بالموسم فترأى على امي ثم رأيتهم فاعجبني كثرتهم وهيتهم قدملأوا السهل والجبل فقال ان مع هولاء سبعين الفا يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محض: فقال يا رسول ادع الله ان يجعلني منهم، فقال رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم ”انت منهم فقام رجل اخر فقال سبقك عكاشة.

نے مجھے تعجب میں ڈالا کہ انہوں نے ہموار زمین اور پہاڑ کو بھردیا تھا۔ جبرئیل نے کہا ان کے ساتھ ستر ہزار لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ منتر پڑھواتے ہیں اور نہ داغ لگاتے ہیں بلکہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں (یہ سن کر عکاشہ ابن معصم رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل فرمادے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تو ان میں

ہے پھر ایک شخص اور بھی کھڑے ہو کر یہی
عرض کرنے لگے لیکن آپ ﷺ نے فرمایا کہ
عکاشتہ آپ سے سبقت کر گیا ہے۔ (یعنی یہ
بات پہلے عکاشتہ ﷺ نے کر دی ہے)



تینتیس واں باب

اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے مٹھی بھر کر جنت میں داخل فرمائیں گے

ابو امامتہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میری امت کے ستر ہزار افراد کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کریں گے اور ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار ایسوں کو داخل کرے گا جن پر کوئی حساب اور عذاب نہیں ہو گا اور میرے رب کے دونوں ہاتھوں کی مٹھی سے تین مٹھیاں۔

عتبہ بن عبد اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے میری امت کے ستر ہزار لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے اور پھر ہر ہزار لوگ ستر ہزار لوگوں کے لئے سفارش کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہتھیلی سے تین مٹھی بھر کے ڈالیں گے (یہ سن کر) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ پہلے والے ستر ہزار لوگ اللہ سے اپنے والدین اور اپنے بیٹوں اور اپنے قبیلوں کے لئے سفارش کریں گے اور میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے آخری تین مٹھیوں میں سے ایک میں شامل فرمادیں گے۔

ابوبکر بن عہد اپنے والد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری امت کے تین لاکھ افراد کے جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اور زیادہ کر راوی کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر اشارہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر کہا یا رسول اللہ! اس میں ہمارے لئے زیادتی فرما آپ نے فرمایا اے عمر یہ کافی ہے اور ارشاد فرمایا اے خطاب کے بیٹے مجھ اور آپ کو

کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل فرمائیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ عزوجل چاہے تو وہ سب لوگوں کو ایک ہی مٹھی میں لے کر جنت میں داخل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر نے سچ کہا۔

صالح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تین مٹھیوں والے لوگ وہ ہیں جو ”یوم القبضتہن“ (دو مٹھیوں والے دن) پہلی مٹھی میں پڑھ چکے تھے۔ پھر اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ پہلے تو ایک مٹھی کے برابر ہوں اور پھر تین لہیس بن جائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ”یوم القبضتہن“ میں ان کی صورتوں اور اشباح کو جمع فرمایا تھا یہ لوگ اس وقت چیونٹیوں کے مانند تھے اور لپوں والے دن تو ان کے اجسام اور خلقت کامل ہو چکی ہوگی تو اس لحاظ سے تین لہیس دو مٹھیوں کے برابر ہو سکتی ہیں۔
واللہ اعلم۔



چونتیس واں باب

جنت کی مٹی اور گارے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں اور ہم اہل آخرتہ میں ہوتے ہیں لیکن جس وقت آپ سے جدا ہو جاتے ہیں تو دنیا ہمیں اچھی لگتی ہے اور بیوی بچوں سے ملتے ہیں تو بدل جاتے ہیں (یعنی پھر وہ کیفیت باقی نہیں رہتی) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اس حال پر رہو جس حال پر میرے پاس ہوتے ہو تو فرشتے تم سے تمہارے گھروں میں مصافحہ کرنے لگیں اور اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کریں گے جو گناہ کرے گی اور اللہ اس کو بخشیں گے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ فرمایا ایک اینٹ اس کی سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی اس کا گارا خالص مشک سے ہے اس کی کنکریاں اس کی موتی اور یا قوت ہیں اس کی مٹی زعفران ہے جو شخص اس میں داخل ہوا چین سے ناز و نعمت میں رہے گا مشقت نہیں دیکھے گا ہمیشہ زندہ رہے گا مرے گا نہیں ان کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے ان کی جوانی فنا نہیں ہوگی۔ تین آدمی ایسے ہیں۔ جن کی دعا رو نہیں ہوتی ایک روزہ دار کی افطار کے وقت دوسرے عادل بادشاہ کی تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالیٰ شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لئے کھول دیئے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے۔ میں تیری ضرورت دیکھوں گا۔ گو (کسی مصلحت سے) کچھ دیر ہو جائے۔

غن ابی سعید۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألہ ابن صیاد عن توبۃ الحنۃ فقال درمکۃ بیضاء مسک خالص فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم "صدق".

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن صیاد سے (جو کاہن قسم کا لڑکا تھا) جنت کی مٹی کے بارے میں پوچھا اس نے کہا سفید میدہ مشک خالص سے ہے

آپ ﷺ نے فرمایا کہ ابن صیاد نے سچ کہا۔

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کے پاس آکر عرض کرنے لگے اے محمد آج آپ کے صحابہ مغلوب ہو گئے، آپ ﷺ نے فرمایا کس چیز کی وجہ سے مغلوب ہو گئے، اس شخص نے کہا یہودیوں نے ان سے پوچھا کہ داروغہ گمان جنم کی تعداد کتنی ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم نہیں جانتے جب تک ہم اپنے نبی سے نہ پوچھیں، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا ایسی قوم مغلوب ہوتی ہے کہ جن سے اس چیز کے متعلق پوچھا جائے جس کو وہ نہیں جانتے اور وہ کہیں کہ ہمیں معلوم نہیں جب تک ہم اپنے نبی سے نہ پوچھ لیں (یعنی اس سے کوئی مغلوب نہیں ہوتا) اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا یہی (یہود) اللہ کے دشمن ہیں۔ جنہوں نے اپنے پیغمبر (حضرت موسیٰ علیہ السلام) سے اللہ کو اپنے سامنے دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ان اللہ کے دشمنوں کو میرے پاس لے آؤ میں ان سے جنت کی مٹی کے بارے میں سوال کروں گا۔ جو کہ میدہ ہے۔ چنانچہ جب یہود آپ ﷺ کے پاس آئے تو کہنے لگے اے ابوالقاسم داروغہ گمان جنم کی تعداد کتنی ہے؟ آپ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اتنی اور اتنی تعداد ہے اور دوسری بار ایک انگلی کو بند فرمایا یعنی ان کی تعداد انیس ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا جنت کی مٹی کس چیز کی ہے؟ (یہ سن کر) یہود ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے۔ اے ابوالقاسم روٹی ہے آپ ﷺ نے فرمایا میدے کی روٹی ہے۔ جنت کی مٹی میں یہ تین صفات ہیں جن میں کوئی تضاد نہیں۔ سلف کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ جنت کی مٹی دو قسموں کو متضمن ہے (یعنی مشک اور زعفران معتب بن سہی فرماتے ہیں کہ جنت کی مٹی مشک اور زعفران کی ہے۔

اس میں دو اور معنوں کا بھی احتمال ہے۔ ایک یہ کہ مٹی زعفران کی ہے لیکن جب اس کو پانی میں گوندا جائے تو مشک بن جاتا ہے اور ”طین“ (گارے) پر بھی ”تراب“ (مٹی) کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس پر دو سرا لفظ دلالت کرتا ہے ”وملاطھا المسک“ ”ملاط“ کے معنی گارا کے ہیں۔ علاء بن زیادہ کی حدیث میں ہے ”ترا بہا الزعفران وطہنہا المسک“ تو جب جنت کی مٹی پاکیزہ ہے اور پانی بھی پاکیزہ (جنت کی مٹی زعفران کی ہے اور گارا مشک کا

(ہے) تو ان کے اختلاط (گونڈنے) سے ایک اور خوشبو پیدا ہو جاتی ہے جو کہ یہی مشک ہے۔
دوسرا معنی یہ ہے کہ رنگ کے اعتبار سے زعفران ہے اور خوشبو میں مشک ہے۔ اور
وہ بہت ہی خوبصورت چیز ہوتی ہے جس کا رنگ اور چمک زعفرانی ہو اور خوشبو مشک کی ہو۔
اسی طرح اس کی تشبیہ میدے کے ساتھ دی ہے یعنی وہ سفید روٹی جس کا رنگ نرم ہونے کے
ساتھ ساتھ مائل بہ زردی ہو۔

یہ وہ معنی ہیں جو سفیان ابن عیینہ نے ابن ابی نجیح کے حوالے سے مجاہد رضی اللہ عنہ سے
نقل کیا ہے ”جنت کی زمین چاندی کی ہے اور مٹی مشک کی“ یعنی سفیدی میں اس کا رنگ چاندی
کی طرح ہے اور خوشبو مشک والی ہے۔

عن بی سریرة عن النبی صلی اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
وسلم أرض الجنة بیضاء عرصتها کہ جنت کی زمین سفید ہے۔ جس کی کھلی جگہ
صخور الكافور وقد أحاط بها کافور کے چٹان ہیں جس کو کستوری نے ایسا
المسک مثل کثبان الرمل فیہا انہار گھیرا ہے جیسا کہ ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں
مطر دة فیجتمع فیہا أهل الجنة أدناہم اور اس میں نہریں جاری چلتی ہیں۔ جس میں
وآخرهم فیتعارفون فیبعث اللہ ریح تمام اہل جنت ان کے ادنیٰ اور آخر والے
الرحمة فتھیج علیہم ریح المسک بھی اکٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کو
فیرجع الرجل الی ازواجہ وقد از داد پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی ہوا بھیجے
حسنًا وطیبًا فتقول لقد خرجت من گاجوان پر کستوری کی ہوا چلائے گا چنانچہ یہ
عندی بانابک معجبة وآنابک الان جنتی اپنی بیوی کی طرف اس حال میں لوٹے گا
اشبہا باہا۔ کہ اس کے حسن اور خوشبو میں اضافہ ہوا

ہو گا بیوی کہے گی کہ آپ میرے پاس سے
اس حال میں نکلے تھے کہ میں آپ کے حسن
پر تعجب کر رہی تھی اور اب تو میں آپ پر
بہت ہی تعجب کر رہی ہوں۔

ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے کہا اے جبرئیل لوگ مجھ سے جنت کے بارے میں پوچھیں گے تو جبرئیل علیہ السلام نے کہا ان کو بتادو کہ جنت سفید موتی کی بنی ہوئی ہے اس کی زمین سونے کی ہے۔ شاید حضرت جبرئیل علیہ السلام دو جنتوں میں سے افضل کی حالت بتا رہے ہوں۔
واللہ اعلم۔



پینتیس واں باب

جنت کے نور اور سفیدی کا بیان

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الجنة بيضاء وأحب الزي إلى الله البياض فليلبسها أحياءكم وكفنوا فيه موتاكم ثم أمر برعاء الشاء فجمعت فقال من كان منكم ذا غنم سود فليخلط بها بيضاء فحدثته امرأة فقالت يا رسول الله انى اتخذت غنما سودا فلا أراها تنمو قال
عفرى

تمہارے زندہ لوگ اس کو پہنا کریں اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو پھر آپ ﷺ نے چرواہوں کے جمع کرنے کا حکم دیا چنانچہ ان کو جمع کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص تم میں سے کالی بکریوں والا ہے اس کو چاہئے کہ اس کے ساتھ سفید بکریاں ملا لے (یہ سن کر) ایک عورت آپ کی خدمت میں آکر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے کالی بکریاں پال رکھی ہیں میں نے اس کو کبھی بڑھتے نہیں دیکھا آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ان کو سفید بنا دو۔

زمیل بن سہاک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد بیان کرتے ہیں میری ملاقات مدینہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہوئی جس وقت ان کی بینائی جا چکی تھی۔ میں نے پوچھا اے ابن عباس جنت کی زمین کس چیز کی ہے؟ فرمایا چاندی کی سفید مرمر کی ہے جو شیشے کی مانند ہے۔ میں نے پوچھا

اس کی نورانیت کیسی ہے؟ فرمایا وہ گھڑی جو آپ طلوع شمس سے پہلے دیکھتے ہیں یہ اس کا نور ہے۔ خبردار اس میں نہ سورج ہے اور نہ سردی ہے۔ آخر تک حدیث بیان کی۔ جو انشاء اللہ آگے آئے گی۔

عبداللہ بن احمد اپنے والد (امام احمد رحمۃ اللہ علیہ) کے مسند میں ایک حدیث ذکر کرتے ہیں جس میں ہے کہ جنت میں چاند اور سورج کو بند کر دیا جائے گا لوگوں کو ان میں سے ایک بھی نظر نہیں آئے گا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ہم کس چیز سے دیکھیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جیسے اس گھڑی کو آپ کا دیکھنا اور یہ گھڑی دن میں اس وقت ہوتی ہے جب سورج طلوع ہو کر زمین کو روشن کر دیتا ہے اور خود پہاڑ کے سامنے ہوتا ہے۔ (یعنی اس وقت زمین پر سورج خود نہیں ہوتا۔ صرف اس کی روشنی ہوتی ہے)

اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار ہے کوئی شخص جنت کی طرف تیز چلنے والا جنت ایسی جگہ ہے جس میں کوئی خطرہ نہیں، رب کعبہ کی قسم، جنت چمکتا ہوا نور ہے۔ کھل کھلاتا ہوا پھول ہے۔ مضبوط محل ہے جاری نہر ہے، پکا ہوا پھل ہے۔ حسین و جمیل بیوی ہے۔ بہت سارے جوڑے ہیں۔ ہمیشگی اور سلامتی کا گھر ہے۔ اور اونچے خوشگوار محل میں میوے، سبزے اور دھاریدار چادریں اور نعمتیں ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ اے اللہ کے رسول ہم جنت کی طرف تیزی سے چلنے والے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا "انشاء اللہ" کہو (یہ سن کر) سب لوگوں نے کہا انشاء اللہ۔

چھتیس واں باب

(جنت کے بالا خانوں اور محلات کا بیان)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا

لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية .
 بنورة الزمر ۲۰
 لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لئے (جنت کے) بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے ہیں جو بنے بنائے تیار ہیں۔

آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اطلاع دی ہے کہ جنت کے بالا خانے ایک دوسرے کے اوپر حقیقی طور پر تیار کئے گئے ہیں تاکہ دلوں میں یہ وہم پیدا نہ ہو کہ یہ صرف نمونہ ہی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی ایسی صورت بتا دی گویا کہ اتنا اس کا مشاہدہ کر رہا ہے اور لفظ ”مبنیۃ“ (غرف) اول اور ثانی دونوں کے لئے صفت ہے یعنی ان کے لئے عالیشان محلات ہیں اور اس سے اونچے اور محلات ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا

اولئك يجزون الغرفة بما صبروا والاصوات
 الفرقان ۷۵
 ان کو بدلہ ملے گا کوٹھوں کے جھروکوں سے اس لئے کہ وہ ثابت قدم رہے

”الغرفۃ“ جس ہے جیسا کہ ”الجنة“ جس ہے غور کرنے کا مقام ہے کہ حق تعالیٰ نے آیات مذکورہ میں اہل جنت کو جاہلوں کی بدگوئی پر صبر کرنے کے بدلہ کیسے کیسے القابات اور اقوال سے دیا جو خضوع عاجزی ہیں بالا خانوں اور سلام کو متضمن ہیں کہ اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان کو سلام کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وما اموالکم ولا اولادکم بالقی اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ نہیں تقربکم عندنا زلفی الامن امن وعمل کہ نزدیک کر دیں ہمارے پاس تمہارا درجہ

صالحا فاؤلئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ہے بدلہ دو گناہ ان کے لئے کام کا اور وہ (سورۃ سبأ ۳۷)

جھروکوں میں بیٹھے ہیں دلجمعی سے۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا

يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن. (سورۃ الصف ۱۲)

بخشے گا وہ تمہارے گناہ اور داخل کرے گا تم کو باغوں جس کے نیچے بہتی ہیں نہریں اور ستھرے گھروں میں بسنے کے باغوں کے اندر

اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کے متعلق فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح دعا مانگی:

بولی اے رب بنا میرے واسطے اپنے پاس ایک گھر بہشت میں۔

رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. (سورۃ التحریم ۱۱)

حضرت علیؑ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کچھ بالا خانے ایسے ہیں جس کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے دکھائی دے گا (یہ سن کر) ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ کس کے لئے ہیں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا یہ اس شخص کے لئے ہیں جو کلام کو اچھے کر کے اور کھانا کھائے اور ہمیشہ روزے رکھے رات کے اس حصے میں نماز پڑھے کہ لوگ سو رہے ہوں۔

عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أن فی الجنة غرفاً یری ظهورها من بطونها بطونها من ظهورها فقام اعرابی فقال یا رسول اللہ لمن ہی؟ قال لمن طیب الکلام وأطعم الطعام وادام الصیام وعمل باللیل والناس نيام.

ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں مومن

عن ابی موسیٰ الاشعری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان للمثومن فی الجنة خیمۃ من لؤلؤة واحدة بحوفة طولها ستون میلاً فیہا اهلون یطوف علیہم المثومن فلا یرى بعضهم بعضاً۔
 کے لئے ایک ایسے موتی کا بنا ہوا ایک خیمہ ہو گا جو کہ اندر سے خالی ہو گا جس کی لمبائی ساٹھ میل ہے اس میں اس کے اہل خانہ (بیویاں وغیرہ) ہوں گے پر گھومے گا لیکن وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے۔

ایک صحیح حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لئے مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنائیں گے اور ابو موسیٰ ؓ کے حدیث میں وارد ہے اس شخص کے بارے میں کہ جو اپنے بچے کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اور "انا للہ وانا الیہ راجعون" پڑھتا ہے تو حق تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام "بیت الحمد" رکھو۔

ایک حدیث میں بروایت عائشہ ابو ہریرہ اور ابن ابی اوفیٰ مذکور ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا کہ حضرت خدیہ رضی اللہ عنہا کو اس کے رب کا سلام پہنچا دو اور حضرت جبریل ؑ نے آپ ؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ حضرت خدیجہ کو جنت میں ایک ایسے گھر کی خوشخبری دیں جو کھوکھلے موتی کا ہے اس میں نہ شور ہے اور نہ رنج۔

(قصص) سے مراد یہاں کھوکھلا موتی ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جنت میں موتی کا بنا ہوا ایک ایسا محل ہے جس میں نہ سردی ہے اور نہ مستی اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے لئے تیار کیا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا پس میں نے وہاں سونے کا ایک محل دیکھا میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ جبریل نے ایک قریشی جوان کا ہے میں نے گمان کیا کہ وہ جوان میں ہی ہوں میں پوچھا وہ قریشی جوان کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ محل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔

مغیث بن سمی فرماتے ہیں کہ جنت میں کچھ محلات سونے کے ہوں گے اور کچھ چاندی کے اور کچھ موتیوں کے اور کچھ محلات یاقوت کے بنے ہوں گے اور کچھ زبرجد سے عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے ادنیٰ درجے کے جنتی کا ایک موتی سے بنا ہوا ایک محل ہو گا جس کے کمرے اور دروازے سب اسی کے بنے ہوں گے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کچھ بالا خانے ایسے ہیں کہ اس میں رہنے والا شخص اس کے پیچھے کی چیزوں پر نہیں ڈرے گا اور وہ شخص اس کے باہر ہو تو اس کے اندر کے چیزوں کا خوف نہیں کرے گا پوچھا گیا اے اللہ کے رسولؐ یہ کس کے لئے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس شخص کے لئے جس نے کلام (اخلاق) کو اچھا بنایا اور برابر روزے رکھے اور کھانا کھلایا اور سلام پھیلایا اور اس وقت نماز پڑھتا ہو جب کہ لوگ سو رہے ہوں پوچھا گیا یا رسول اللہ عمدہ کلام کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس سے مراد سبحان اللہ، الحمد للہ واللہ اکبر کا پڑھنا ہے۔ پوچھا گیا برابر روزوں سے کیا مراد ہے ارشاد فرمایا اپنے اہل و عیال کو کھانا کھلانا پھر پوچھا گیا سلام کا پھیلانا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اپنے بھائی دعا سلام کرنا پوچھا گیا کہ وہ نماز کونسی ہے جس کو اس وقت پڑھی جاتی ہے کہ لوگ سو رہے ہو ارشاد فرمایا عشاء کی نماز ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے بالا خانوں کے متعلق بیان نہ کروں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ پر قربان ہو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جواہرات کے مختلف انواع کے بنے ہوئے کچھ بالا خانے جو (گویا آئینوں کے بنے ہوئے ہیں کہ) ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں اور ان کے اندر سے باہر کی سب چیزیں نظر آتی ہیں اس میں وہ نعمتیں اور لذتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہیں راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ (مذکورہ صفات کے حامل) بالا خانے کس کے لئے ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ اس شخص کے لئے ہیں جو سلام پھیلاتا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور ہمیشہ روزے رکھتا ہے اور رات کو اس وقت تہجد کی نماز

پڑھتا ہے جب کہ لوگ سو رہے ہوں راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان چیزوں کی کون طاقت رکھتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اس کی طاقت رکھتی ہے اب میں اس کے بارے میں تفصیل سے تم لوگوں کو آغا کرتا ہوں جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی ملاقات کی اور اس کو سلام کیا تو اس نے سلام کو پھیلا دیا اور جس شخص نے اپنے اہل و عیال کو کھانا کھلایا یہاں تک ان کو سیر کیا تو اس شخص نے کھانا کھلا دیا اور جس شخص نے رمضان اور ہرمینے کے تین روزے رکھے تو اس نے روزوں پر مداوت کی اور جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی تو اس نے رات کو ایسے وقت نماز ادا کی جب کہ لوگ (یہود، نصاریٰ، مجوس) سو رہے تھے۔



سینتیس واں باب

جنتی جنت میں داخل ہو کر اپنے اپنے ٹھکانوں اور محلات کو خود پہچانیں گے اگرچہ انہوں نے اس کو پہلے نہیں دیکھا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا
والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل
اعمالہم . سیہدیہم ویصلح باہم
ویدخلہم الجنة عرفہا ہم ۔
مجاہد ” فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں داخل ہوتے ہی اپنی اپنی منزلوں کی طرف ایسے روانہ ہوں گے گویا یہ لوگ جب سے پیدا ہوئے ہیں یہاں کے باشندے ہیں کوئی بھی ان کی رہنمائی نہیں کرے گا۔

ابی صالح کی روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جنتی ان لوگوں سے جو جمعہ کی نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں زیادہ اپنے گھروں اور رہائش گاہوں کو پہچانتے ہوں گے۔

محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ جنتی اپنے گھروں کو ایسا پہچانیں گے جیسا کہ تم دنیا میں اپنے گھروں کو پہچانتے ہو جب جمعے کی نماز پڑھ کر واپس لوٹتے ہوں یہ جمہور مفسرین کا قول ہے ان سب کے اقوام کا خلاصہ وہ ہے جو ابو عبید ” نے بیان کیا ہے کہ جنتیوں کے سامنے ان کے گھروں کے ایسے اوصاف بیان کئے جائیں گے جس سے وہ بغیر رہنمائی پہچان لیں گے۔

مقاتل بن حیان فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ بات پہنچی ہے کہ نبی آدم کی حفاظت پر مقرر

فرشتہ جنت میں چلے گا اور ابن آدم اس کے پیچھے چلے گا یہاں تک کہ اس کو گھر کے آخری کونے تک پہنچا دے گا تو وہ جنتی اس میں ان سب چیزوں کو پہچان لے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطاء کی ہوں گی پھر جب وہ اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے پاس جائے گا تو فرشتہ وہاں سے واپس لوٹ جائے گا۔

حسن ” فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو جنت کی صفات بتا دی ہیں جب یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان صفات سے اپنی جنت کو پہچانیں گے اس قول کے مطابق یہ پہچان دنیا میں ہوئی ہے لہذا معنی یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس جنت میں داخل کریں گے جس کی پہچان اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کرائی ہے اور پہلے قول کے مطابق پہچان آخرت میں ہوگی یہ سب توجیہات اس وقت معتبر ہیں جب کہ ہم (عرفنا) کو تعریف (پہچاننے) سے مان لیں اس میں ایک دوسرا قول بھی ہے کہ (عرفنا) عرف سے ہے جس کا معنی خوشبو ہے زجاج رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے (معنی ہو گا) جنت کی خوشبو اسی سے ہے ”طعام معرف“ یعنی خوشبو دار کھانا ایک قول کے مطابق یہ (عرف) سے مشتق ہے جس کا معنی (تابع) ہے یعنی اہل جنت کی لذتیں اور مزے لگاتار ہوں گے کہیں صحیح قول پہلا ہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اتنا بتا دیا ہے جسے وہ اپنی منزل کو پہچانیں گے اور غیر کی طرف تجاوز نہیں کریں گے۔

عن ابی سعید الخدری ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا علی قنطرة بین الجنة والنار یتقاصون مظالم كانت بینہم فی الدنیا حتی اذا ہذبوا ونقوا اذن لهم بدخول الجنة والذی نفسی بیدہ ان احدہم بمنزلہ فی الجنة اذمنہ بمسکنہ کان فی الدنیا

ابو سعید خدری سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن جنم سے چٹھہ کارا پائیں گے تو ان کو جنت اور جنم کے درمیان ایک پل پر روک دیا جائے گا جہاں وہ آپس کے دنیائی مظالم کا ایک دوسرے سے بدلہ لیں گے یہاں تک جب خوب گناہوں سے صاف کئے جائیں گے تو پھر ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں

میری جان ہے کہ اہل جنت میں ایک شخص
 جنت میں اپنے گھر کو اس گھر کی ہنسبت اچھی
 طرح پہچانتا ہوگا جس میں وہ دنیا میں رہتا تھا۔
 ایک دوسری سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم اپنے احوال اور ٹھکانوں کو اتنا نہیں
 جانتے جتنا کہ جنت میں جنت میں داخل ہوتے وقت اپنی بیویوں اور منزلوں کو پہچانتے ہیں۔



اڑتیسواں باب

جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کا منظر اور ان کا استقبال

اس بارے میں پہلے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وہی الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرًا“ (اور ہانکیں جائیں گے وہ لوگ جو ڈر رہے تھے اپنے رب سے) گزر چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ”یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا“ (اور جس دن ہم تقویٰ والوں کو رحمن (کے دارالنعیم کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے) حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے مذکورہ آیت کی تفسیر دریافت کی۔ چنانچہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وفد تو سوار لوگوں کو ہی کہا جاتا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے جب یہ جنتی لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو سفید اونٹوں سے ان کا استقبال کیا جائے گا جن کے پر لگے ہوں گے اور ان پر سونے کے کجاوے ہوں گے اور ان کے جوتوں کا تسمہ نور ہو گا جو ہر قدم پر اتنا چمکے گا جتنی نگاہ جاتی ہے۔ جس کی زنجیر سرخ یا قوت سے بنی ہوگی اور سونے کے تختوں سے بنے دروازے میں لگی ہوئی ہوگی یہ لوگ جنت کے دروازے کے پاس پہنچ جائیں گے اور جنت کے دروازے پر ایک درخت ہے جس کی جڑ سے دو چشمے جاری ہیں۔ جب یہ لوگ ایک چشمے کا پانی پیں گے تو اس سے ان کے چہروں پر جنت کی تروتازگی آئے گی اور جب دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو ہمیشہ کے لئے ان کے بال پراگندہ نہیں ہوں گے پھر وہ جنتی لوگ اس زنجیر کو بجائیں گے تو اس کے بجنے کی آواز ہر حور کو سنائی جائے گی اور پیغام پہنچایا جائے گا کہ اس کا شوہر آگیا ہے تو وہ جلدی سے اٹھے گی اور جنت کے قیم (نگران) کو بھیجے گی تاکہ جنتی کے لئے دروازہ کھول دے اگر اللہ اس کو اپنی پہچان نہ کراتے تو یہ اس کی

نورانیت اور تروتازگی کی وجہ سے اس کے سامنے سجدے میں گر پڑتا۔ وہ کہے گا میں آپ کا خادم ہوں آپ کی خدمت پر مامور کیا گیا ہوں۔ چنانچہ یہ اس کے پیچھے چلے گا۔ یہاں تک کہ اپنی بیوی کے پاس پہنچے گا وہ جلدی سے اٹھ کر خیمے سے باہر آئے گی اور ان سے معاف کرے گی اور کہے گی تو میرا محبوب ہے اور میں تیری محبوبہ ہوں اور میں راضی ہوں کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ اور میں نعمت ہی نعمت میں رہوں گی کبھی خستہ حال نہیں ہوں گی اور میں ہمیشہ جوان رہوں گی کبھی بوڑھی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہ اپنے گھر میں داخل ہو گا۔ اس کی بنیاد سے لیکر اس کی چھت تک سو ہاتھ کی اونچائی ہوگی جو موتیوں اور یاقوت کے چٹانوں سے تیار کیا گیا ہو گا۔

اس میں سرخ اور سبز اور زرد رنگ کے ستون ہوں گے ایک ستون دوسرے کا ہمیشہ شکل نہیں ہو گا۔ پھر یہ اپنے آراستہ اور مزین تخت کے پاس آئے گا تو وہاں پلنگ پر پلنگ لگے ہوں گے جن پر ستر بچھونے ہوں گے اور ان بچھونوں پر ستریویاں ہوں گی ہر بیوی ستر جوڑے پینے ہوں گی اس کے پنڈلی کی ہڈی کا گودا اس کی کھال کے اندر سے دکھائی دے گا۔ جنتی ایک رات کی مقدار ان سب کے ساتھ جماع کو پورا کرے گا۔ ان کے نیچے کئی جاری نہریں ہوں گی۔ صاف پانی کی نہریں جس میں کوئی کدورت اور بوہد نہیں ہو گا اور جھاگ اتارا ہوا خالص شہد کی نہریں ہوگی جو شہد کی مکھیوں کے پیٹوں سے نکلا ہوا نہیں ہو گا اور ایسی شراب کی نہریں جس میں پینے والوں کے لئے مزدہ ہو گا جو آدمیوں کے پیروں کی نچھوڑی ہوئی نہیں ہوگی۔ اور ایسی دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا مزہ بد لا ہوا نہیں ہو گا اور نہ وہ مویشیوں کے تھنوں سے نکلا ہو گا۔

اور جب کھانے کو دل چاہے گا تو سفید پرندے اپنے پروں کو اٹھائے ہوئے ان کے پاس آئیں گے اور یہ ان کے پہلوؤں میں سے جس قسم کا گوشت چاہیں گے کھالیں گے پھر وہ اڑ کر چلے جائیں گے۔ وہاں میوے لٹک رہے ہوں گے جب ان کے کھانے کو دل چاہے گا تو شئی ان کی طرف جھکے گی وہ لوگ جس محل سے جس انداز میں چاہیں کھڑے تکیہ لگائے ہوئے اس کو کھائیں گے۔ یہی اللہ تعالیٰ کے ارشاد (وجنی الجنة دان) (اور میوہ ان باغوں کا جھک رہا

(ہے) کا مصداق ہے۔ اور ان کے آگے موتیوں کی مانند خدام کھڑے ہوں گے۔

ابن ابی الدنیا اس آیت (یوم نحشر الممتین الی الرحمن وفداً) کے متعلق ابن سعد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا خدا کی قسم ان لوگوں کو پیادہ جمع نہیں کیا جائے گا بلکہ ایسے اونٹوں کو لایا جائے گا کہ مخلوق نے آج تک اس طرح نہیں دیکھا جن پر سونے کے کجاوے ہوں گے اور لگائیں زبرد کی ہوں گی چنانچہ یہ لوگ ان پر سوار ہو کر جنت کے دروازے پر آئیں گے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرے انکو جماعتی صورت میں جنت کی طرف لایا جائے گا جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو وہاں ایک درخت پائیں گے جس کے تنے کے نیچے سے دو چشمے جاری ہوں گے یہ لوگ ان میں سے ایک کی طرف ایسے جائیں گے گویا کہ ان کو وہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے اس سے پانی پییں گے جس کی وجہ سے ان کی پیٹیوں کی گندگی تکلیف وغیرہ دور ہو جائے گی پھر دوسرے چشمے پر جائیں گے اس سے پاکی حاصل کریں گے جس سے ان پر جنت کی تروتازگی آئے گی۔ اس کے بعد نہ ان کی نگاہوں میں کوئی تبدیلی آئے گی اور نہ ان کے بال پراگندہ ہوں گے بلکہ ایسے معلوم ہوں گے کہ ان کو تیل لگایا گیا ہو پھر داروغہ گمان جنت کے پاس پہنچیں گے وہ کہیں گے تم پر سلامتی ہو تم پاکیزہ ہو۔ ہمیشہ کے لئے داخل ہو جاؤ پھر ولدان (خادمین جنت) ان کا استقبال کریں گے اور ان کے گرد ایسے گھومیں گے جیسے دنیا کے بچے اس گھرے دوست کے گرد گھومتے ہیں جو کافی زمانہ غائب رہنے کے بعد آیا ہو۔ اور وہ ولدان جنتیوں سے کہیں گے۔ اس عزت کی خوشخبری سنو جو اللہ نے تمہارے لئے تیار کی ہے، راوی کہتے ہیں کہ پھر ان لڑکوں میں سے ایک لڑکا حوروں میں سے اس کی ایک بیوی کے پاس جا کر اطلاع دے گا کہ فلاں آگیا اس کا وہ نام لے گا جس سے دنیا میں اس کو پکارا جاتا تھا۔ وہ حور کہے گی آپ نے اس کو دیکھا؟ وہ کہے گا ہاں میں نے دیکھا ہے وہ یہ میرے پیچھے آرہے ہیں چنانچہ وہ خوشی کی وجہ سے جلدی اٹھ کر دروازے کی چوکھٹ پر آئے گی۔ جب یہ جنتی اپنی جگہ تک پہنچے گا تو اپنے گھر کی بنیاد کی طرف دیکھے گا تو وہ موتیوں کی چٹانوں پر رکھی ہوئی ہوگی اس پر ایک محل ہو گا جس میں سبز زرد، سرخ ہر قسم کے رنگ ہوں

گے = پھر سراٹھا کر اس کی چھت کی طرف نگاہ کرے گا تو وہ بجلی کی طرح چمکدار ہوگی، اگر اللہ نے اس کو اسی جنتی کے لئے نہ بنایا ہوتا تو اس کے دیکھنے سے اس کی بینائی جاتی رہتی۔ پھر سر جھکا کر اپنی بیویوں کی طرف اور چنے ہوئے آبخوروں اور برابر بچھے ہوئے غالیچوں اور جگہ جگہ پھیلے ہوئے مخمل کے نہالچوں کی طرف دیکھے گا۔ تو تھک جائے گا اور کہے گا۔ شکر اللہ کا جس نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ کرتا تو ہم راہ پانے والے نہ تھے۔ پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ تمہارے لئے یہ طے ہے کہ ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی موت نہ آئے گی۔ ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بڑھا پانہیں آئے گا اور ہمیشہ صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہ ہو گے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہو گا تو اس کو جنتیوں کی صورت دی جائے گی اور انکے لباس اور زیورات پہنائے جائیں گے اور اپنی بیویوں اور حشم و خدم کی طرف دیکھے گا تو اس کو اتنی زیادہ خوشی ہوگی کہ اگر وہاں موت ہوتی تو یہ فرط خوشی سے مر جاتا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کیا آپ نے یہ انتہائی بڑی خوشی دیکھی لی تیرے لئے یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ اور اسی طرح عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب جنت میں داخل ہو گا تو موتیوں کی مانند ستر ہزار خدام ان کا استقبال کریں گے۔ اور غلمان کی اتنی بڑی دو صفیں ہوں گی جس کے اطراف دکھائی نہیں دے گا یہاں تک جب یہ ان کے درمیان سے گزرے گا تو وہ سب اس کے پیچھے چلیں گے۔

ابو نعیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو گا اور اس کے آگے ایک فرشتہ داخل ہو گا جو جنت کی گلیوں میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ چلے گا اور اس سے کہے گا دیکھ لے، تو نے کیا دیکھا؟ وہ جنتی کہے گا میں نے سونے اور چاندی کے بہت سارے محلات اور اکثر بہت سے انسان دیکھے۔ فرشتہ اس سے کہے گا یہ سب تیرے لئے ہیں۔ یہاں تک کہ جب یہ ان کے پاس پہنچے گا تو وہ ہر دروازے سے اس کا استقبال کریں گے۔ اور ہر جگہ سے آواز آئے گی ہم تیرے لئے ہیں۔ فرشتہ پھر اسے کہے گا آگے چل اور تو نے کیا دیکھا؟ جنتی کہے گا میں نے خیموں کے بہت سارے لشکر اور بہت سارے انسانوں کو دیکھا چنانچہ فرشتہ کہے گا یہ سب بھی تیرے لئے ہیں جب یہ ان کے پاس پہنچے گا تو وہ اس کا استقبال کریں گے اور کہیں گے ہم سب

تیرے لئے ہیں ہم سب تیرے لئے ہیں۔

صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہما کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ستر ہزار یا ستر لاکھ (راوی کو شک ہے) افراد اس حال جنت میں داخل ہوں گے کہ بعضوں نے بعض کا ہاتھ پکڑا ہوگا (یعنی جماعتی صورت میں ایک دوسرے کو پکڑ کر) ان کا پہلا شخص داخل نہیں ہوا ہوگا۔ یہاں تک ان کا آخری شخص بھی داخل ہو جائے گا ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی مانند چمکدار ہوں گے۔



انتالیسواں باب

جنتیوں کی عمر میں اور ان کے قد کی
لمبائی چوڑائی اور ڈیل ڈول

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عزوجل آدم علی صورته طولہ ستون ذراعاً فلما خلقتہ قال له اذهب فسلم علی اولئک النفر وہم نفر من الملائکۃ جلوس فاستمع ما یحیونک فانہا تحیتک وتحیۃ ذریعتک قال نذهب فقال السلام علیکم فقالوا السلام علیک ورحمۃ اللہ قال کل من یدخل الجنۃ علی صورۃ آدم طولہ ستون ذراعاً فلم یزل ینقص حتی الآن

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت میں پیدا کیا ہے اس کی لمبائی ساٹھ گز تھی جس وقت اس کو پیدا کیا فرمایا جا اور اس جماعت کو سلام کہہ فرشتوں کی ایک جماعت وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور سن وہ کیا جواب دیتے ہیں وہ تیرا اور تیری اولاد کا جواب ہو گا وہ گیا اور کہا السلام علیکم فرشتوں نے کہا السلام علیک ورحمتہ اللہ آپ نے فرمایا ہر شخص جو جنت میں جائے گا آدم کی صورت پر ہو گا اور اسکی لمبائی ساٹھ گز ہوگی ان کے بعد مخلوق کی لمبائی اب تک کم ہوتی رہتی ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان کے بدن پر بال نہ ہوں گے بے ریش ہوں گے سفید

وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل اہل الجنۃ جرداً مرداً بیضاء جعاداً

مکحلین ابناء ثلاث و ثلاثین وهم
 علی خلق آدم ستون ذراعاً فی عرض
 سبعة أذرع.
 گھنگھریا لے بالوں والے سرنگی آنکھوں والے
 تیس تینتیس سال کے عمر میں ہوں گے قد
 اپنے جدا مجد حضرت آدم علیہ السلام کے
 برابر ساٹھ ہاتھ ہوگا چوڑائی سات ہاتھ
 ہوگی۔

عن انس بن مالک قال: قال رسول الله
 صلی الله علیه وسلم یبعث اهل الجنة
 علی صورة آدم فی میلاد ثلاث و ثلاثین
 سنة جرذاً مرداً مکحلین ثم یدهب
 بهم الی شجرة فی الجنة فیکسون منها
 لا تبلی ثيابهم ولا ینفنی شبابهم.
 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل
 جنت کو اٹھایا جائے گا اس حال میں کہ وہ اپنے
 باب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر
 تینتیس سال کی عمر میں ہوں گے بدن پر بال نہ
 ہوں گے بے ریش، سرگین آنکھوں والے
 نوجوان ہوں گے پھر ان کو جنت میں ایک
 درخت کے پاس لایا جائے گا اس سے ان کو
 کپڑے پہنائے جائیں گے پھر نہ ان کے کپڑے
 بوسیدہ ہوں گے اور نہ ان کی جوانی فنا
 ہوگی۔

عن ابی سعید الخدری قال قال
 رسول الله صلی الله علیه وسلم من
 مات من اهل الجنة من صغیر أو کبیر
 و دون نبی ثلاثین سنة فی الجنة لا
 یریدون علیها ابداً و کذا نذ اهل
 النار.
 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت
 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 اہل جنت میں سے جو مرجائے چھوٹا ہو یا بڑا تو
 جنت میں ان کو تیس سال کا بنایا جائے گا کبھی
 اس سے زیادہ عمر کے نہ ہوں گے یہی حال
 دوزخیوں کا بھی ہوگا (یعنی ان کی جوانی

شباب، اعضاء، بدن بالوں وغیرہ میں سے کسی چیز میں تغیر نہیں آئے گا۔

اگر یہ حدیث محفوظ ہو یہ یا قبل والے حدیث (جس میں تینتیس کا ذکر ہے) کے متعارض نہیں ہے کیونکہ عرب کی عادت ہے کہ جب وہ ایسے عدد کا ذکر جس میں اس سے اوپر زیادتی بھی ہو کرتے ہیں تو وہ زیادتی کبھی لکھتے ہیں اور کبھی نہیں لکھتے اور یہ ان کے کلام میں مشہور و معروف ہے۔

عن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم ستين ذراعاً بذراع الملك على حسن يوسف وعلى ميلاد عيسى ثلاث وثلثين سنة وعلى لسان محمد مرد مكحلون.

حضرت انس رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی جنت میں داخل ہوں گے اس حال میں (قد میں) آدم علیہ السلام کے لمبائی کے برابر ہاتھ ہاتھ ہوں گے فرشتے کے ہاتھ کے اعتبار سے، حضرت یوسف علیہ السلام جیسے خوبصورت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تینتیس سال اور محمد صلى الله عليه وسلم علیہ السلام جیسے اخلاق بے ریش اور سرگیں آنکھوں والے ہوں گے۔

عن ابی ہریرۃ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن أهل الجنة يدخلون الجنة على قدر آدم ستون ذراعاً زحني ذلك قطعت سرهم.

ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں داخل ہوں گے اس حال میں کہ ان کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ساٹھ ہاتھ ہوگا۔

ان کے حسن کے بارے میں پہلی حدیث گزر چکی ہے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی مانند

روشن ہوں گے۔

جنتیوں کے اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ اور نکال ڈالی ہم نے جو ان کے جیوں میں تھی
إخواناً علی سرر متقابلین۔
خفگی بھائی ہو گئے تختوں پر بیٹھے آمنے سامنے۔

آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں اور دلوں کی کیفیت بتادی کہ ان کے

چہرے کھل کھلاتے اور دل باغ و بہار ہوں گے صحیح معنی میں روایت ہے۔

أخلاقهم علی خلق رجل واحد علی جنتی ذیل ڈول کے اعتبار سے ایک آدمی کی
صورة ایہم آدم علیہ السلام سنون صورت پر ہوں گے (قد) اپنے باپ حضرت
ذراعاً فی السماء؟
علیہ السلام کی صورت پر ساٹھ ہاتھ لمبا ہو گا

(یعنی ان میں کوئی لمبا اور کوئی پستہ قد والا

نہیں ہو گا)

روایت میں لفظ ”خلق“ بفتح الحاء سکون اللام ہے اور لفظ ”خلق“ جس طرح

”خلق“ بضم الحاء کی جمع ہے اسی طرح ”خلق“ بفتح الحاء کی بھی جمع ہے۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جنتی لوگ، لمبائی چوڑائی عمر میں برابر ہوں گے اگرچہ حسن

وجہ میں جدا ہوں گے۔ اسی وجہ سے اس کی تفسیریوں کی کہ اپنے باپ حضرت آدم کی صورت

پر آسمان کی جانب ساٹھ ذراع ہوں گے۔ اخلاق کے بارے میں بھی پہلی حدیث گزر چکی ہے کہ

اہل جنت کے قلوب بمنزلہ ایک شخص کے ہوں گے ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہو گا صبح

اور شام اللہ کی تسبیح کریں گے اور اسی طرح حق تعالیٰ نے ان کی بیویوں کے متعلق بھی بیان کیا

ہے کہ وہ جنتیوں کی ہم عمر ہوں گی کوئی بوڑھی اور کوئی جوان نہیں ہوں گی اس لمبائی چوڑائی

کے برابر ہونے اور ہم عمر ہونے میں جو حکمت ہے وہ کسی پر مخفی نہیں۔ کیونکہ یہ لذتوں کے

پورا ہونے میں نہایت ہی اہلغ اور اکمل ہے۔ اسی وجہ سے ایک جنتی ایک دن میں ایک سو

کنواری عورتوں سے صحبت کرے گا۔ جیسا کہ آئندہ انشاء اللہ آنے والا ہے۔ طول اور عرض کا

تناسب بھی مخفی نہیں کیونکہ اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادہ ہو جائے تو اعتدال اور

تناسب فوت ہو جاتا ہے اس لئے کہ یا تو وہ دبلا لہبا ہو گا یا موٹا پستہ قد ہو گا اور یہ دونوں چیزیں غیر مناسب ہیں۔

واللہ اعلم

○○○

چالیسواں باب

سب سے اعلیٰ اور اونی درجے کا جنتی

سب سے اونچا درجہ اولاد آدم کے سردار ”صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

تَمَلِكُ الرِّسْلِ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰی بَعْضٍ
مَنْبِہٍ مِنْ كَلِمِ اللّٰهِ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ
دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسٰی بْنِ مَرْیَمَ الْبِیْنَتِ
بَعْضُوں كے درجے اور دیئے ہم نے عیسیٰ
(سورة البقرة ۴۵۳)

یہ سب رسول فضیلت دی ہم نے ان میں
سے بعض کو بعض سے کوئی تو وہ ہے کہ کلام
فرمایا اس سے اللہ تعالیٰ نے اور بلند کیا
بعضوں کے درجے اور دیئے ہم نے عیسیٰ
بن مریم کو معجزے صریح۔

مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”منہم من کلم اللہ“ سے مراد حضرت موسیٰ اور ”ورفع
بعضہم درجات“ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حدیث اسراء (معراج) میں جس کی صحت پر اتفاق
ہے وارو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب موسیٰ علیہ السلام سے آگے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا
اے میرے پروردگار میرا تو یہ گمان نہیں تھا کہ آپ مجھ سے کسی کو اونچا لے جائیں گے۔ پھر
اللہ کے رسول اتنی بلندی میں چلے گئے جس کو اللہ ہی جانتے ہیں یہاں تک کہ سدرۃ العنتہما ہی
سے بھی آگے بڑھے۔

صحیح مسلم میں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جب تم موذن کو سنو (یعنی اس کی آذان سنو) پس کہو جس طرح موذن
کہتا ہے پھر مجھ پر درود بھیجو اس لئے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس
بار رحمت بھیجتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لئے وسیلہ مانگو پس بیشک وسیلہ جنت میں ایک درجہ
ہے جو اللہ کے بزرگوں میں سے ایک ہی بندے کے لائق ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا

جس نے میرے لئے وسیلہ مانگا میری شفاعت اس پر واجب ہوگئی۔

اسی طرح صحیح مسلم میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ سب سے ادنیٰ جنتی کا کیا مقام ہے؟ ارشاد ہوا کہ ایک آدمی کو اس وقت لایا جائے گا جبکہ اہل جنت جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ پس اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ کہے گا اے رب کیسے داخل ہو جاؤں جبکہ لوگ اپنی اپنی جگہ جا چکے ہیں اور جو کچھ لینا تھا لے چکے ہیں۔ اس سے کہا جائے گا کیا تو اس پر راضی ہے کہ تیرے لئے اتنا ہو جتنا دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے پاس ہوتا ہے وہ کہے گا اے رب میں راضی ہوں ارشاد ہو گا تیرے لئے اس کے برابر پانچ گنا اور پانچویں مرتبہ وہ کہے گا اے رب میں راضی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ان میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ ارشاد ہوا یہی لوگ آپ کی مراد ہیں ان کی جنت کے درخت میں نے اپنے ہاتھ سے لگائے اور ان کی نعمتوں پر مہر لگادی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے اور نہ کسی کان نے سنی ہے اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے ادنیٰ درجے کا جنتی وہ ہو گا جو اپنے باغات اور بیویوں اور اشیاء عیش و عشرت اور خادموں اور مسریوں کو ایک ہزار سال کی مسافت کے برابر پھیلا ہوا دیکھے گا اور ان میں سب سے زیادہ عزتمند اللہ کے ہاں وہ جنتی ہو گا جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوتا رہے گا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس کی تائید میں) یہ آیت تلاوت فرمائی۔

و جوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة
 (سورة القيامة ۲۲-۲۳)
 بہت سارے چہرے اس دن بٹاس ہوں گے
 اپنے رب کی طرف دیکھنے والے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے ادنیٰ درجے کے جنتی کے لئے سات درجے ہوں گے وہ چھٹے درجے پر ہو گا اس کے اوپر ساتواں درجہ ہو گا۔ اس کے تین سو خدام ہوں گے اس کے صبح اور شام کا کھانا سونے اور چاندی کی تین سو ہلہٹوں میں لاجائے گا ہر پلٹ میں ایسے رنگ کا کھانا ہو گا جو دوسری میں نہ ہو گا اور اسے

آخری پلیٹ کا مزہ بھی اسی طرح آئے گا جس طرح پہلی پلیٹ کا مزہ آیا تھا۔ وہ عرض کرے گا اے میرے رب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اہل جنت کو کھلاؤں اور پلاؤں (دعوت کروں) میرے پاس جو کچھ ہے اس میں کمی نہیں آئے گی اور اس جنتی کے لئے دنیا کی بیویوں کے علاوہ بہتر حوریں ہوں گی جن میں سے ایک کا ٹھکانا زمین کے ایک میل کے برابر ہو گا (علامہ ابن القہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں) کہ اس حدیث کے رواۃ میں سکین بن عبدالعزیز کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے اور شہر بن حوشب کا ضعف تو مشہور ہے اور جو حدیث احادیث صحیحہ کے مخالف ہو وہ منکر ہوتی ہے۔ کیونکہ ساٹھ ہاتھ لہا قد اس بات کا احتمال نہیں رکھتا کہ ایسے شخص کے لئے زمین کے ایک میل کے برابر ٹھکانا ہو اور صحیحہ میں حدیث ہے کہ پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان میں سے ہر ایک کے لئے حور عین میں سے دو بیویاں ہوں گی۔ تو ادنیٰ جنتی کے لئے کیسے بہتر بیویاں حور عین کی ہو سکتی ہیں؟ (جیسا کہ اس حدیث میں گزرا) اور حدیث میں یہ بھی وارد ہے کہ جنت کے سب سے کم رہنے والے دنیا کی عورتیں ہوں گی۔ تو ادنیٰ جنتی کے لئے دنیا کی عورتوں کی ایک جماعت کیسے ہو سکتی ہے؟ دو سری بات یہ ہے کہ سونے کی دو جنت چاندی کی دو جنتوں سے اعلیٰ ہیں۔ تو ادنیٰ جنتی کیسے سونے کی دو جنتوں میں ہو گا؟

دولانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہر بن حوشب کی حدیث لوگوں کی حدیث کے مشابہ نہیں ہے ابن عون فرماتے ہیں کہ شہر بن حوشب متروک ہے۔ امام نسائی اور ابن عدی فرماتے ہیں ”لیس بالقوی“ ابو حاتم فرماتے ہیں ”لا یحتج بہ“ شہبہ اور یحییٰ بن سعد نے اس کو متروک قرار دیا ہے اور یہ دونوں حضرات حدیث کے رواۃ اور علل پر تمام لوگوں سے زیادہ عالم ہیں اگرچہ ان دونوں کے علاوہ دو سروں نے اس کی حدیث کی توثیق کی اور اس کو حسن قرار دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب یہ منفرد ہو اور اس کی حدیث ثقات کی روایت کردہ احادیث کے مخالف ہو تو قبول نہیں کی جائے گی۔ واللہ اعلم

اکتالیسواں باب

اہل جنت کا تحفہ جس وقت وہ جنت میں داخل ہوں گے

امام مسلم نے اپنی صحیح میں ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ علماء یہود میں سے ایک عالم آئے اور کہا ”السلام علیک یا محمد“ اے محمد تجھ کو سلام میں نے اس کو ایسا دھکا دیا جس سے وہ گرنے کے قریب ہوا۔ اس نے کہا تو نے مجھے دھکا کیوں دیا؟ میں نے کہا تو نے (السلام علیک) یا رسول اللہ کیوں نہیں کہا۔ یہودی نے کہا ہم اس کو اس نام سے پکارتے ہیں جو اس کے گھر والوں نے اس کا رکھا ہے (یہ سن کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیشک میرا نام محمد ہے جو میرے گھر والوں نے میرا رکھا ہے۔ یہودی نے کہا میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اگر میں آپ کو جواب دوں تو وہ آپ کو کچھ نفع دے گا؟ (کیونکہ اس کا سوال نفع کے لئے نہیں تھا کہ صحیح جواب ملنے پر ایمان لائے) یہودی نے کہا میں اپنے کانوں سے سن لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی سے جو آپ کے پاس تھی زمین کریدنا شروع کیا (جیسا کہ غور و فکر کے وقت ایسا کیا جاتا ہے) اور فرمایا پوچھ یہودی نے کہا جس دن اس زمین کو دوسری زمین سے تبدیل کیا جائے گا تو اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اندھیرے میں ہوں گے پل پر نہیں ہوں گے۔ یہودی نے کہا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے کن کو انعام ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء مہاجرین کو۔ یہودی نے کہا جس وقت وہ جنت میں داخل ہوں گے ان کا تحفہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا مچھلی کے جگر کا ٹکڑا۔

یہودی نے کہا اس کے بعد ان کی غذا کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا پھران کے لئے جنت کا وہ بیل ذبح کیا جائے گا جو اطراف جنت سے کھاتا تھا۔ یہودی نے کہا ان کے پینے کی چیز کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا جنت کے ایک چشمے سے پئیں گے جس کا نام ”سلسبیل“ ہے۔ یہودی نے کہا آپ

نے سچ فرمایا۔ پھر یہودی نے کہا میں آپ سے ایسی چیز کے متعلق پوچھنے آیا ہوں جو زمین والوں میں نبی یا ایک آدمی یا دو آدمیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا اگر میں تجھ کو بیان کروں تو وہ آپ کو کچھ نفع دے گا؟ یہودی نے کہا میں اپنے کانوں سے سن لوں گا۔ یہودی نے کہا میں آپ سے بچے کے متعلق پوچھنے آیا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا مرد کا پانی (منی) سفید ہے اور عورت کا پانی (منی) زرد ہے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو پھر اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آتی ہے تو اللہ کی اجازت سے لڑکا پیدا ہوتا ہے اور اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آتی ہے تو اللہ کی اجازت سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ (یہ سن کر) یہودی نے کہا آپ نے سچ کہا بیشک آپ نبی ہیں۔ پھر چلا گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس یہودی نے ان چیزوں کے متعلق مجھ سے پوچھا میں ان میں سے کسی چیز کا علم نہیں رکھتا تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم نہیں دیا تھا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے (جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے) مدینہ میں رسول اللہ ﷺ کی تشریف آوری کی خبر سنی تو نبی ﷺ کے پاس آکر عرض کرنے لگے کہ میں آپ سے تین چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہوں جن کو نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ (۱) قیامت کی نشانیوں میں پہلی نشانی کیا ہے؟ (۲) جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہو گا؟ (۳) بچہ کبھی باپ اور کبھی ماں کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبرئیل نے ان چیزوں کی ابھی مجھے خبر دی عبد اللہ بن سلام نے کہا۔ جبرئیل نے (خبر دی) آپ نے فرمایا ہاں عبد اللہ بن سلام نے کہا فرشتوں میں یہی یہود کا دشمن ہے۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی۔

اٰھن کان عدو الحبریل فانه نزلہ علی قلبک
(سورۃ البقرۃ ۹۷)
تو کہہ دے جو کوئی ہود دشمن جبرئیل کا سوا اس
نے تو اتارا ہے یہ کلام تیرے دل پر۔

فرمایا قیامت کی نشانیوں میں پہلی نشانی آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب میں جمع کرے گی اور پہلا کھانا جو جنتی کھائیں گے مچھلی کے جگر کا ٹکڑا ہو گا اور جب مرد کی منی عورت کی منی پر سبقت کرتی ہے تو بچہ باپ کے مشابہ ہوتا اور جب عورت کی منی مرد کی منی پر سبقت

کرتی ہے تو بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ (یہ سن کر) عبد اللہ بن سلام نے کہا (اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ) میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بیشک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ یہود تمہمت لگانے والی قوم ہے۔ اگر ان کو پہلے اس کے کہ آپ میرے متعلق ان سے پوچھیں، میرے اسلام کا علم ہو جائے تو وہ لوگ مجھ پر تمہمت لگائیں گے۔ چنانچہ یہودی آئے آپ نے ان سے پوچھا عبد اللہ تم میں کیسے آدمی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہم میں بہت اچھے اور اچھے آدمی کے بیٹے ہیں ہمارے سردار ہے اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر عبد اللہ اسلام لایا ہو تو تمہارا کیا خیال ہے؟ یہود نے کہا اللہ اس کو اسلام سے پناہ دے۔ اتنے میں عبد اللہ نکلے اور کہنے لگے ”شہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ“ (یہ سن کر) یہود نے کہا یہ ہم میں برے ہیں اور برے آدمی کے بیٹے ہیں اور حضرت عبد اللہ کی تنقیص شروع کی۔ عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اسی چیز کا خوف تھا۔

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن زمین روٹی کی طرح ہو جائے گی جبار اس کو اہل جنت کے مہمانی کے لئے اپنے ہاتھ سے الٹی پٹی کر دے گا جیسے تم سفر میں کرتے ہو۔ پھر یہود میں سے ایک شخص آئے اور کہنے لگے رحمن تجھ پر برکت کرے اے ابوالقاسم کیا میں آپ کو قیامت کے دن جنتیوں کی مہمانی نہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، یہودی نے کہا زمین تو ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا (یعنی اسی طرح یہودی نے بیان کیا) یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور پھر ہنسے یہاں تک کہ آپ کے نواجذ (آپ کے دانت) کھل گئے پھر یہودی نے کہا کیا میں آپ کو ان کا سالن نہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ بولا ان کا سالن ادم اور نون ہو گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ یہودی نے کہا ایک بیل اور ایک ایسی مچھلی جس کے جگر کے ٹکڑے میں سے ستر ہزار لوگ کھائیں گے۔

عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ عزوجل جنتیوں سے فرمائے گا۔ جنت میں

داخل ہو جاؤ ہر مہمان کے لئے ذبح ہوتا ہے آج میں تمہارے لئے ذبح کروں گا۔ چنانچہ ایک بیل اور ایک مچھلی کو لایا جائے گا اور اہل جنت کے لئے ذبح کیا جائے گا۔



بیالیسواں بابجنت کی خوشبو کتنی مسافت سے مہکتی ہے؟

عن عبد الله عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلاً من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة مائة عام.

عبداللہ بن عمرو نبی ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا جس شخص نے ذمیوں میں سے کسی کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ اس کی خوشبو سو سال کی مسافت سے آتی ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے پائی جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نبی کریم ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا خبردار جو شخص کسی نفس معاہدہ کو قتل کرے جس کے لئے اللہ اور اسکے رسول کا ذمہ ہو تو اس نے اللہ کا ذمہ توڑ دیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو ستر سال کی مسافت سے آتی ہے۔ ان الفاظ میں کسی وجہ سے کوئی تعارض نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے چچا (انس بن نضیر رضی اللہ عنہما) رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا (اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے) کہ اسلام کی پہلی لڑائی جس میں رسول اللہ ﷺ حاضر ہوئے ہوں اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا انکی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلے پورے کروں۔ حضرت انس فرماتے ہیں احد کی لڑائی میں یہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شریک ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما آرہے ہیں ان سے کہا کہ اے سعد کہاں جا رہے ہوں خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آرہی ہے۔ راوی کہتے ہیں پھر کفار سے لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے (شہادت کے بعد ان کے جسم کو دیکھا گیا) تو اسی سے زیادہ زخم تیرا اور تلوار اور نیزے کے تھے۔ ان کی بہن عمتہ الربیعہ بن

النضر رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ اس پر یہ آیت اتری۔

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا إِيْمَانًا وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِذَاتِ السُّرُورِ (سورۃ الاحزاب ۲۳)

جس بات کا عہد کیا تھا اللہ سے۔

یہ آیت ان صحابی اور ان کے دوسرے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ جنت کی خوشبو کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو دنیا میں پائی جاتی ہے اور روحیں کبھی کبھار اسکو سونگھ لیتی ہیں خود بندے اسکے ادراک سے قاصر ہوتے ہیں۔۔

دوسری قسم وہ ہے جس کا ادراک سونگھنے کے آلے سے ابدان کرتے ہیں جس طرح کہ گلاب وغیرہ کی خوشبو کا ادراک کیا جاتا ہے:

اہل جنت آخرت میں اس خوشبو کے ادراک میں خواہ قریب سے ہو یا دور سے شریک ہوں گے۔ باقی دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں وہ ادراک (محسوس) کر لیتے ہیں انس بن نضر رضی اللہ عنہ کا خوشبو محسوس کرنا بھی اسی قسم میں داخل ہے۔ اور خوشبو کی پہلی قسم مراد ہے۔ (جس کو صرف ارواح محسوس کرتی ہیں)۔ واللہ اعلم۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت سے محسوس کی جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جنت کی خوشبو ایک ہزار سال کی مسافت سے محسوس کی جاتی ہے آپ نے فرمایا خدا کی قسم اس خوشبو کو کوئی والدین کا نافرمان اور قطع رحمی کرنے والا شخص نہیں پائے گا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے باپ کے بغیر کسی اور کی طرف اپنے کو منسوب کیا (یعنی کسی اور کا بیٹا ظاہر کیا) تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت سے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں اپنے بندوں کو جنت کے کچھ آثار اور خوشبوؤں اور لذتوں کے کچھ نمونے اور خوبصورت مناظر اور خوبصورت میوے نعمتوں اور خوشیوں اور آنکھوں کی ٹھنڈک دکھائی ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عزوجل جنت

سے کہتے ہیں کہ جنتیوں کے لئے خوشبودار ہو جا تو اس کی خوشبو بڑھ جاتی ہے۔ یہی ٹھنڈک ہے اسی کا اثر ہوتا ہے جس کو لوگ سحری کے وقت محسوس کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آگ اور اس کے غموں اور تکلیفوں کو آخرت کی آگ کو یاد کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دنیاوی آگ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

بِخَن جَعَلْنَاهَا تَذَكْرَةً (سورة الز ۷۴) ہم نے ہی تو بنایا وہ درخت یاد دلانے کو۔

نبی کریم ﷺ نے یہ بھی بتایا ہے کہ گرمی کی شدت اور ٹھنڈک جہنم کی سانسوں کے اثرات ہیں۔ لہذا یہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت کی سانس دکھلائے اور وہ چیزیں بتلائے جس سے وہ جنت کو یاد کریں۔

واللہ المستعان



تریالیسواں باب

”جنت میں اعلان کرنے والے کا اعلان“

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ایک پکارنے والا آواز لگائے گا کہ تمہارے لئے یہ طے ہے کہ ہمیشہ صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہ ہو گے اور ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی موت نہ آئے گی ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا اور تمہارے لئے نعمت ہی نعمت ہوگی کبھی خستہ حال نہ ہو گے۔ یہی اللہ تعالیٰ کے ذیل ارشاد کا مصداق ہے۔

﴿وَنُودُوا أَن تُلَكُمُ الْجَنَّةَ أَوْ رُثِمُوا﴾ اور آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے وارث بما کنتم تعملون ﴿﴾ ہوئے تم اس کے اپنے اعمال کے بدلے۔

حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے مروی ہے نبی کریم ﷺ نے آیت (وَنُودُوا أَن تُلَكُمُ الْجَنَّةَ أَوْ رُثِمُوا بما کنتم تعملون) کے متعلق فرمایا کہ وہاں اعلان کیا جائے گا کہ ہمیشہ کے لئے صحت مند رہو کبھی بیمار مت ہو اور ہمیشہ کے لئے رہو کبھی مرو مت اور ہمیشہ نعمتوں میں رہو کبھی خستہ حال مت بنو۔

حضرت صہبہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جنمی جنم میں تو ایک پکارنے والا پکارے گا اے جنتیو تم لوگوں کے لئے اللہ کے ہاں ایک وعدہ ہے کہیں گے وہ کیا ہے؟ کیا آپ نے ہمارے چہروں کو منور نہیں کیا اور آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا اور جنم سے نجات عطا نہیں فرمائی۔ چنانچہ پر وہ ہٹا دیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیں گے۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف نظر کرنے سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں عطا فرمائی۔ عبد اللہ بن المبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو تمیم رضی اللہ عنہ نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بصرہ کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنتیوں کے پاس ایک فرشتہ بھیجیں گے وہ فرشتہ کہے گا اے

جنتیو! کیا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا اس کو پورا کیا؟ (یہ سن کر) وہ لوگ دیکھنے لگیں گے تو زیورات اور جوڑے اور نہراور پاکیزہ بیویاں دیکھ لیں گے تو کہیں گے۔ جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا۔ یہ بات وہ لوگ تین بار کریں گے اور (اشیائے جنت کی طرف) دیکھیں گے تو وعدہ کی گئی چیزوں میں سے کسی کو گم نہیں پائیں گے۔ تو کہیں گے جی ہاں (یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا وعدہ کیا تھا وہ سب ہمیں مل گئی ہیں) فرشتہ کہے گا کہ ایک چیز اب باقی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں۔

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ (سورۃ یونس جنموں نے بھلائی کی ان کے لئے بھلائی اور زیادتی ہے۔) (۲۶)

آگاہ ہو "الحسنی" سے مراد جنت ہے اور "زیادۃ" سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائیں گے اے جنتیوں جنتی لوگ جواب دیں گے اے ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں تمام خیر آپ کے دست قدرت میں ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ کیا تم راضی ہو؟ جنتی عرض کریں گے ہم کیوں راضی نہ ہوں حالانکہ آپ نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو آپ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تم کو اس سے افضل چیز عطا کروں گا۔ وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار اس سے افضل چیز کیا ہوگی؟ ارشاد ہو گا میں تم سے راضی رہوں گا اب اس کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس حدیث پر "باب کلام الرب مع اهل الجنة" کا ترجمہ الباب باندھا ہے، عنقریب اس بارے میں کئی احادیث وہ ہیں اس باب کے تحت ذکر کی جائیں گی جو اس کے لئے باندھا جائے گا۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جنتی جب جنت میں اور جنمی جہنم داخل ہو جائیں گے تو ان کے درمیان میں ایک اعلان کرنے والا کھڑے ہو کر اعلان کرے گا۔ اے جنتیوں اب موت نہیں آئے گی۔ اے جہنمیوں اب موت نہیں ہوگی ہر ایک جہاں ہے وہاں ہمیشہ رہے گا۔ یہ اعلان جنت اور جہنم کے درمیان ہو گا اس وجہ سے اس کو تمام جنتی اور جنمی لوگ سنیں گے۔ اور ایک دوسرا اعلان اللہ تعالیٰ کے دیدار کے دن ان کی

طرف فرشته بھیج کر کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ لوگ اعلان سن کر دیدار کے لئے دوڑ پڑیں گے۔ اور یہ دیدار ایک جمعہ کی مقدار ہوگی۔ جیسا کہ عنقریب (باب زیار تمہم الرب عزوجل) میں واضح طور پر آ رہا ہے۔

واللہ اعلم

○○○

چوالیسواں بابجنت کے درخت، باغات اور سایہ

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

واصحاب الیمین ما اصحاب الیہ من اور واہنے ہاتھ والے کیا کہنے واہنے ہاتھ
فی سدر مخضود، وطلح منضوب، والوں کے رہتے ہیں بیری کے درختوں میں
وظل ممدود، وماء مسکوب، جن میں کانٹا نہیں اور کیلے بہتے اور سایہ
وفاکھہ کثیرہ، لا مقطوعہ ولا لبا اور پانی بہتا ہوا اور میوہ بہت نہ اس میں
ممنوعہ، (سورۃ الواقعہ ۲۷-۱۳) سے ٹوٹا اور نہ روکا ہوا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”ذواتا افنان“ (”دوباغ“ بہت سی شاخوں والے) ”افنان“
”فنن“ کی جمع ہے شنی کو کہتے ہیں اسی طرح اللہ فرماتے ہیں (فیہا فاکھتہ، ونخل ورومان) (ان
میں میوے ہیں اور کچھوریں اور انار)

”مخضود“ وہ درخت ہے جس کے کانٹے کاٹ دیئے گئے ہو اس میں کوئی کانٹا نہ
ہو۔ یہ قول ابن عباس مجاہد اور قتادہ مقاتل اور ابوالاحوص اور قسامہ ابن زہیر اور ایک جماعت
کا ہے۔ اس پر انہوں نے دو دلیلیں پیش کی ہیں۔ ایک یہ کہ (المخضد) کالغوی معنی ”قطع“
(کانٹا) ہے۔ کہا جاتا ہے ”خضدت الشجرۃ“ جب اس کے کانٹے کاٹ لئے جائیں اور بالکل
صاف کیا جائے اور ”خضد بر وزن ثمر“ بھی اسی سے ہے (ہر کانٹی ہوئی یا ٹوٹی ہوئی لکڑی پھلوں
کی پڑمردگی) بمعنی (مخضود) اور ”المخضاد“ وہ نرم درخت جس میں کوئی کانٹا نہ ہو۔

دوسری دلیل: عتبہ بن سلمیٰ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اتنے میں
ایک اعرابی (دیہاتی) آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ سے سنتا ہوں کہ آپ جنت میں
ایک درخت کا ذکر کرتے ہیں (یعنی طلح کا) حالانکہ اس سے بڑھ کر کوئی کانٹے دار درخت

میرے علم میں نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ اس کے ہر کانٹے کی جگہ تہ بہ تہ بالوں والے بکرے کے برابر ایک پھل لگا دیں گے جس میں ستر کھانوں کے رنگ ہوں گے ایک رنگ دوسرے سے جدا ہو گا۔ سلیم بن عامر کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ کے اصحاب آپس میں کہا کرتے تھے اگر اللہ نے چاہا تو وہ ہمیں دیہاتیوں کے سوالوں سے نفع پہنچائے گا۔ (کیونکہ سوال دیہاتی لوگ کرتے تھے اور جواب سب کو معلوم ہو جاتا) ایک دن ایک دیہاتی آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک موزی (ایذا پہنچانے والے) درخت کا ذکر کیا ہے اور میرے خیال میں تو جنت میں کوئی ایسا درخت نہیں جو ایذا پہنچانے والا ہو۔ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا وہ کونسا درخت ہے؟ اس نے کہا بیر کا درخت۔ جس میں موزی قسم کے کانٹے ہوتے ہیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا ”فی سدر مخصود“ (بیری کے درختوں میں جن میں کانٹا نہیں) اللہ تعالیٰ اس کے کانٹوں کو ختم فرما دیں گے اور ہر کانٹے کی جگہ پھل لگا دیں گے۔

ایک جماعت کا کہنا ہے کہ ”المخصود“ کا معنی ہے بار بار درخت یعنی پھلوں سے بھرا ہوا (لوگوں نے اس قول پر رد کیا اور کہا کہ لغت میں (المخصود) اس معنی میں مستعمل نہیں ہے۔ لیکن اس قول کو رد کرنے والے حق بجانب نہیں ہیں۔ کیونکہ اس جماعت کا قول درست ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس درخت کے کانٹے ختم کر کے صاف بنا دیں گے اور ہر کانٹے کی جگہ پھل لگا دیں گے تو یہ پھلوں سے بھر جائے گا اور مذکورہ دو حدیثیں ان کے دو قولوں کے درمیان تطبیق کرتی ہیں۔

اور اسی طرح جن لوگوں نے کہا ہے کہ ”مخصود“ وہ ہے جو ہاتھ کو زخمی نہ کرے اور ہاتھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ انہوں نے اس کے لازمی معنی سے تفسیر کی ہے۔ اور مفسرین حضرات اغلب و بیشتر کبھی معنی لازمی اور مقصود کو بیان کرتے ہیں اور اس کے افراد میں سے ایک فرد اور اس کی مثالوں میں سے ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ جس کے ہر رطب اور یابس کے جمع کرنے والوں نے مختلف اقوال بیان کئے ہیں۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔

”طالع“ کے بارے میں اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ کیلے کا درخت ہے۔ یہ قول علی بن

ابی طالب ابن عباس ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ دوسری جماعت کہتی ہے کہ ”طلح“ بہت بڑا لمبا درخت ہے۔ عرب کے ہاں یہ دیہاتوں کے بہت زیادہ خاردار درخت کو کہتے ہیں۔

بشرھا دلیلھا وقالا

غدا ترین الطلح والجبالا

یہ درخت نورانی اور خوشبودار اور بہت سایہ دار ہو گا جس کے کانٹوں کی جگہ پھل لگائے جائیں گے۔

ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ درخت ہے جو جڑ آخر تک سے لیکر پھلوں یا پتوں سے بھرا ہوا ہو۔ اس کا تنا ظاہر نہ ہو۔ مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کے پتے نیچے سے لیکر اوپر تک تہ بہ تہ ہوں گے۔ اور اس کی نہریں بغیر گھڑوں کے جاری ہیں۔

لہٰذا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”طلح“ ام غیلان کے درخت ہیں جس میں کانٹے وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔ ابواسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ اس سے ام غیلان کے درخت مراد لئے جائیں کیونکہ وہ بہت نورانی اور خوشبودار درخت ہوئے تھے چنانچہ ان لوگوں سے ان کی پسند کے مطابق اسکے مثل کا وعدہ کیا گیا البتہ اس کی فضیلت دنیا والے درختوں پر ایسی ہے جیسے کہ جنت کہتہ نام چیزوں کی فضیلت دنیا کی چیزوں پر ہے۔ اور جنت میں جو بھی عمل ہے دنیا میں اس کے نام اور نمونے موجود ہیں۔ اب یہ بات ظاہر کہ جس نے ”طلح منضود“ کی تفسیر کیلئے کی ہے تو اس نے اچھے طریقے سے تہ بہ تہ ہونے میں مثال پیش کی ہے اور مقصود مثال دینی ہے۔ ورنہ ”طلح“ کا لغوی معنی تو دیہاتوں کے بڑے درخت کے آتے ہیں۔ واللہ اعلم

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے (جس کا نام طوبیٰ ہے) جس کے سائے میں اگر شہ سوار سو سال تک چلے تب بھی اس کو طے نہ کر سکے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں اگر شہ سوار تیز رفتار عمدہ گھوڑے پر سو سال تک چلے گا تو اس کو طے نہ کر سکے گا۔

اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں

ایک درخت ہے جس کے سائے میں شہسوار ستر سال یا سو سال تک چلے گا اور فرمایا کہ یہ درخت جنت العلوٰد کا ہوگا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں شہسوار سو سال تک چلے گا اگر تم چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پڑھو۔ (و ظل ممدود) یہ بات حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو پہنچی۔ تو فرمایا کہ ابو ہریرہ نے سچ کہا اور اس ذات کی قسم جس نے توریت کو موسیٰ کی زبان پر اور فرقان محمد کی زبان پر اتارا اگر ایک شخص نوجوان اونٹنی یا نوجوان اونٹ پر سوار ہو جائے اور پھر سو سال تک اس درخت کی جڑ کے گرد گھومے تو وہ منزل تک پہنچنے سے پہلے بوڑھا ہو کر گر پڑے گا۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے اس کے درخت اپنے ہاتھ سے لگائے اور اس میں پھونکا اور اس کی جڑ جنت کی چار دیواری کے پیچھے ہے۔ جنت میں کوئی ایسی نہر نہیں جو اس درخت کی جڑ سے نہ نکلتی ہو۔

ابن ابی الدنیا کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ”و ظل ممدود“ کے متعلق فرمایا کہ جنت میں ایک درخت اتنا تازہ اور ہے کہ ایک عمدہ سوار سو سال تک اس کے سائے کے اطراف میں چلتا رہے گا۔ چنانچہ اہل جنت بالا خانوں والے اور غیر بالا خانوں والے اس کی طرف نکل پڑیں گے اور اس کے سائے کے متعلق گفتگو کریں گے ان میں سے بعضوں میں چاہت پیدا ہوگی اور دنیا کی لو لعب کو یاد کریں گے۔ اس پر اللہ جنت سے ایک ہوا بھیجیں گے جو اس درخت کو حرکت دیکر دنیا کی تمام لو (جی بھلانے کی چیزیں) موجود ہو جائیں گی۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنت میں کوئی ایسا درخت نہیں جس کا تاسو نے کانہ

ہو۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ (نعمتیں) تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔ اگر چاہو تو (اللہ کا یہ ارشاد) پڑھو۔

فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة
اعين جزاء بما كانوا يعملون .
ترجمہ کوئی نہیں جانتا جو اس کے لئے آنکھوں
کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے۔ اس کا بدلہ جو
(سورۃ السجدہ ۱۷) کرتے تھے۔

اور جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں اگر شہسوار سو سال تک چلے تو اس
کو طے نہ کر سکے۔ اگر چاہو تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد (و ظل ممدود) پڑھو اور جنت میں ایک کوڑے
کے برابر جگہ دنیا اور و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اگر چاہو تو (اس کی تائید میں) اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد
پڑھو۔

فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز
(سورۃ ال عمران ۱۸۵)
جو کوئی دور کیا گیا دوزخ سے اور داخل کیا
گیا جنت میں اس کا کام تو بن گیا۔

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبی کیا
ہے؟ آپ نے فرمایا جنت میں سو سال کی مسافت کے برابر ایک درخت ہے جنتیوں کے کپڑے
اس کے غلافوں سے نکلیں گے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم طوبی (خوشحالی) ہے اس شخص کے لئے جس نے آپ کی زیارت کی اور آپ پر ایمان لایا
آپ نے فرمایا خوشحالی ہے اس شخص کے لئے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ پھر خوشحالی
ہو پھر خوشحالی ہو پھر خوشحالی ہو اس شخص کے لئے جو مجھ پر ایمان لایا اور مجھے نہیں دیکھا۔ ایک
آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا جنت میں سو سال کی
مسافت کے برابر ایک درخت ہے۔ جنتیوں کے کپڑے اس کے غلافوں سے نکلیں گے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جنت کے کھجور کا تنا سبز زمر کا ہو گا اور اس کے پھل
مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے اور دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ پیٹھے اور
مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے کوئی سختی اس میں نہیں ہوگی۔

عبدالسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حوض
کوڑا اور جنت کے متعلق آپ سے سوالات کئے پھر اس دیہاتی نے پوچھا۔ جنت میں میوے
ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں جنت میں ایک درخت ہے جس کو طوبی کہا جاتا ہے پھر آپ

ﷺ نے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں اس کو نہ جان سکا، دیہاتی نے پوچھا ہماری زمین کے درختوں میں کونسا درخت اس کے مشابہ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا شام میں ایک درخت جس کو ”جوزہ“ () کہا جاتا ہے جو صرف ایک ہی تنے کی صورت میں لگتا ہے اور پھر اوپر اس کی شاخیں پھیل جاتی ہیں۔ دیہاتی نے پوچھا اس درخت کی جڑ کتنی بڑی ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا اگر آپ کے اہل کے اونٹوں میں سے کوئی نوجوان اونٹنی اس کے گرد چلنا شروع کر دے تو اس کی جڑ کا احاطہ کرنے سے پہلے پہلے وہ بوڑھی ہو کر ہلاک ہو جائے گی، آپ ﷺ نے فرمایا جنت میں انگور بھی ہو گا دیہاتی نے پوچھا اس کا گچھا کتنا بڑا ہو گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا کوئے کی ایک مہینہ مسلسل مسافت کے برابر بڑا ہو گا۔ دیہاتی نے پوچھا انگور کا دانہ کتنا بڑا ہو گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا کیا آپ کے والد نے کبھی اپنی بکریوں میں سے بڑا بکرا ذبح کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا پھر اس کا چمڑا اتار کر اور آپ کی والدہ کو دیکر اس کو یہ نہ کہا کہ اس سے ہمارے لئے ڈول بنا دو؟ دیہاتی نے کہا جی ہاں۔ (آپ ﷺ کی مراد یہ تھی کہ انگور کا دانہ بڑے بکرے کی کھال سے بنائے ہوئے ڈول کے برابر ہو گا) دیہاتی نے کہا کہ یہ دانہ تو مجھے اور میرے گھر والوں کو سیر کر دے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا جی ہاں اور آپ کے اکثر قبیلے والوں کو بھی سیر کر دے گا۔

اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے آپ ﷺ سے سنا آپ نے سدرۃ المنتہی کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ شہسوار اس کی ٹہنیوں کے سائے میں سو سال سفر کرے گا یا یہ فرمایا کہ سوار آدمی اس کے سائے میں سو سال تک چلتا رہے گا اس میں سونے کے پروانے ہوں گے اور اس کے پھل مککے کے برابر ہیں۔

مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کی زمین چاندی کی اور مٹی مشک کی ہے اور اسکے درختوں کی جڑیں سونے اور چاندی کی ہیں اور اس کی ٹہنیاں موتیوں اور زبرجد اور یاقوت کی ہیں۔ پتے اور پھل اس کے نیچے ہوں گے۔ پس جو شخص اس کو کھڑے ہو کر کھائے گا تو اس کو کوئی ایذا نہیں پہنچائے گا اور جو شخص اس کو بیٹھ کر کھائے گا تو اس کو بھی کوئی ایذا نہیں پہنچائے گا اور جو شخص اس کو لیٹ کر کھائے گا تو اس کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔

جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مقام صفاح پر اترے (یعنی پڑا و ڈالا) تو وہاں درخت کے نیچے ایک شخص سو رہے تھے سورج ان تک پہنچنے کو قریب تھا۔ میں نے غلام سے کہا یہ چمڑے کا فرش لیجا اور اس آدمی پر سائے کا انتظام کرو چنانچہ غلام گیا اور اس پر سایہ بنایا۔ جب وہ بیدار ہوا تو وہ سلمان رضی اللہ عنہ تھے، میں ان کے پاس آیا اور ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا اے جریر رضی اللہ عنہ اللہ کے لئے عاجزی کرو اس لئے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اونچا کریں گے۔ اے جریر آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن اندھیرے کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا۔ فرمایا لوگوں کے آپس کا ظلم۔ (اندھیروں کی صورت میں ہوگا) پھر ایک چھوٹا سا تنکا اٹھایا جو اس کے انگلیوں میں مشکل سے نظر آرہا تھا۔ فرمایا اے جریر اگر آپ جنت میں اس تنکے کے برابر (تسکا وغیرہ کوئی چیز) طلب کریں گے تو اس کو نہیں پائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کھجور اور درخت کہاں گئے (یعنی وہ تو جنت میں ضرور ہوں گے) فرمایا کہ ان درختوں کی جڑیں موتیوں اور سونے کی ہوں گی اور اس کے اوپر پھل ہوں گے۔



پینتالیسواں باب

جنت کے پھل اور اس کے انواع کی تعداد اور اس کی صفات اور خوشبو

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أَنْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
كُلَّمَا رَزَقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا
هَذَا الَّذِي رَزَقُوا مِنْ قَبْلُ وَاتُوبَهُ
مِثْلَ آبِهَا وَلَهُمْ فِيهَا زَوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ.
(سورة البقرة ۲۵)

اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان
لائے اور اچھے کام کئے ان کے لئے باغات
ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں جب ان کو
کھانے کو وہاں پھل ملے گا تو کہیں گے۔ یہ تو
وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے اور دیئے
جائیں گے پھل ایک صورت کے اور انکے
لئے وہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ۔

یعنی ہمیں اس سے پہلے دنیا میں اس کے مشابہ اور نظیر پھلوں کی دی گئی تھی بعینہ اس
طرح نہیں تھے۔ کیا اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جنتی لوگ کہیں گے یہ وہ میوے ہیں جس کی
نظیر ہمیں دنیا میں دی گئی تھی یا مراد یہ ہے کہ یہ وہ میوے ہیں جو اس سے پہلے ہمیں جنت میں
دیئے گئے تھے؟ اس میں دو قول ہیں۔ تفسیر سدی میں حضرت ابن عباس اور ابن مسعود اور
رسول اللہ ﷺ کے دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب جنتیوں کو
میوے دیئے جائیں گے تو وہ کہیں گے۔ یہ تو وہ ہیں جو اس سے پہلے ہمیں جنت میں دیئے گئے
تھے۔ لیکن جب اس کی طرف اچھی طرح دیکھیں گے تو پھر کہیں گے یہ تو وہ میوے ہیں جو ہمیں
اس سے پہلے دنیا میں دیئے گئے تھے۔

مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے قول سے مراد تعجب ہے یعنی یہ میوے کیا ہی دنیا کے میوؤں کے مشابہ ہیں۔ ابن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے قول ”هذا الذي رزقنا من قبل“ کا مطلب یہ ہے کہ جنتیوں کو ایسے پھل دیئے جائیں گے۔ جو دنیا کے پھلوں کے مشابہ ہوں گے اور اس مشابہت کی وجہ سے وہ ان کو پہچانیں گے دوسرے حضرات کا کہنا ہے جنت کے میوؤں کا آپس میں اور رنگ اور مزے میں شدت مشابہت کی وجہ سے جنتی کہیں گے کہ یہ وہ پھل جو اس سے پہلے ہمیں جنت میں ملی تھیں۔ انہوں نے اپنے قول پر چند دلائل سے استدلال کیا ہے۔

(۱) جنت کے پھلوں کے آپس کی مشابہت دنیاوی پھلوں سے مشابہت کے ہنسہ بہت بہت زیادہ ہوگی۔ اسی شدت مشابہت کی وجہ سے وہ کہیں گے کہ وہی جنت کے پہلے والے پھل ہیں۔

(۲) دوسری دلیل جس کو ابن جریر رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا ہے کہ اس قول کے قائلین کی دلیل یہ ہے کہ جب بھی جنت کا کوئی پھل توڑا جاتا ہے تو اس کے جگہ فوراً دو سرا پھل لگ جاتا ہے اور وہ پہلے کی طرح بن جاتا ہے۔

ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جنت کے پھلوں کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ جب بھی جنت کا کوئی پھل توڑ دیا جاتا ہے تو اس کے جگہ دو سرا لگ جاتا ہے۔

(۳) تیسری دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”واتوا بہ قشابہا“ ہے۔ یہ جنتیوں کے قول ”هذا الذي رزقنا من قبل“ کے لئے بنزلہ علت اور سبب موجب کے ہے۔

(۴) چوتھی دلیل یہ ہے کہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ جنت کے تمام پھل تو ان کو دنیا میں نہیں ملے تھیں۔ اکثر جنتی لوگ ایسے ہوں گے جو نہ دنیا کے پھلوں کو پہچانتے ہوں گے اور نہ اس سے پہلے دیکھ چکے ہوں گے۔

ایک جماعت نے جن میں ابن جریر وغیرہ حضرات بھی شامل ہیں۔ دوسرے قول کو ترجیح دی ہے اور مختلف وجوہ سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ ابن جریر رضی اللہ عنہ جو کہ ان لوگوں کی بات کو صحیح ثابت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں آیت کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ پھل ہیں جو اس سے پہلے

ہمیں دنیا میں دیئے گئے تھے کیونکہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے (کلما رزقو منها من ثمرۃ رزقا) جب بھی ان کو پھل دیئے جائیں گے تو یہ لوگ کہیں گے یہ وہی ہیں جو اس سے پہلے ہمیں دیئے گئے تھے۔ اس میں یہ تخصیص نہیں کہ ان کا یہ کہنا بعض (فلاں) پھلوں کے بارے میں ہے اور بعض فلاں پھل کے بارے میں نہیں۔ اور پھر جب حق تعالیٰ جل ذکرہ نے یہ بتا دیا کہ جنتیوں کا یہ کہنا ان کے جنت میں ہونے کے بعد اس پہلے رزق کے متعلق ہے جو پھلوں سے ان کو دیا جائے گا جس سے پہلے ان کو وہاں کوئی پھل نہیں ملا ہو گا۔ جب اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا یہ کہنا (هذا الذی رزقنا من قبل) جنت میں سب سے پہلے ملنے والے پھلوں کے متعلق ہے تو پھر جنت میں سب سے پہلے ملنے والے پھلوں کے متعلق یہ کہنا محال ہے کہ ”یہ وہ پھل ہیں جو اس سے پہلے ہمیں جنت میں دیئے گئے تھے کیونکہ اس سے پہلے ان کو وہاں کوئی پھل ملا ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی گمراہ شخص ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے تو اور بات ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان چیزوں سے پاک فرمایا ہیں۔ اب آیت کا معنی ظاہر ہوا کہ جب بھی ان کو جنت کے پھلوں میں سے کوئی پھل دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ وہ پھل ہے جو اس سے پہلے ہمیں دنیا میں ملا تھا۔

میں (ابن القہم) نے کہا کہ پہلے قول والے عقل اور سیاق کے دلالت سے اس عام میں رزق اول کے علاوہ میں تخصیص کرتے ہیں اور تخصیص کا یہ طریقہ قرآن کے مخالف اور کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ اور جب آپ تخصیص کی طرف مجبور ہوئے تو تخصیص کی اقسام میں سے کسی ایک قسم سے تخصیص کریں گے۔

(۱) جنت کے بہت سارے پھل ایسے ہیں کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا جاسکتا۔

(۲) بہت سارے جنتیوں کو دنیا کے تمام پھل نہیں ملے ہوں گے کہ جس کی نظیر جنت میں ہو۔

(۳) یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ جنتی یہ بات ابدالاباد تک نہیں کہیں گے یعنی وہ لوگ جب بھی کوئی پھل کھائیں تو پھر یوں کہنے لگیں ”هذا الذی رزقنا فی الدنیا“ قرآن عظیم کے مقصود یہ معنی نہیں ہے۔

بلکہ معنی یہ ہے کہ وہ پھل ایک صورت کے ہوں گے۔ پہلا پھل آخری پھل سے بہتر نہیں ہو گا۔ اور نہ ان پھلوں کو وہ عوارض پیش آئیں گے جو دنیوی پھلوں کو پیش آتے ہیں۔ مثلاً درخت کا پرانا ہونا یا بعد میں اس کے پھلوں کا چھوٹا ہونا وغیرہ۔ بلکہ پہلا آخر والے کی طرح مزیدار ہو گا اور آخری پھل بعینہ پہلے والے کی طرح ہو گا سب پھل بہتر ہوں گے اور ایک دوسرے کے مشابہ۔ لہذا جنتیوں کے قول ”ہذا الذی رزقنا من قبل“ کی یہی وجہ ہے اور اس توجیہ کے بناء پر نہ تو اللہ تعالیٰ کی تصریح کردہ بات کی مخالفت لازم آتی ہے اور نہ جنتیوں کی کی طرف جھوٹ کی نسبت ہوتی ہے۔ البتہ انہوں نے تخصیص کی ہے تو ایسے تخصیصات آپ کو بھی بہت کرنے پڑتے ہیں۔ واللہ اعلم

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد (واتوا بہ متشابہا) یعنی ان کو ایک صورت کے پھل دیئے جائیں

(گے)

اس کی تفسیر میں حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ پھل سب کے سب عمدہ ہوں گے ان میں کوئی بھی گھٹیا نہیں ہو گا۔ کیا تم دنیوی پھلوں کی طرف نہیں دیکھتے ہو کہ بعضوں کو تم کیسے گھٹیا سمجھتے ہو۔ وہاں کے پھلوں میں یہ چیز نہیں ہوگی۔ قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سب عمدہ ہوں گے دنیوی پھلوں کی طرح ان میں چھان بین کی ضرورت نہیں ہوگی اور کسی کو گھٹیا قرار نہیں دیا جائے گا۔ ابن جریج اور ایک دوسری جماعت نے بھی یہی کیا ہے۔ بناء بریں ”تشابہ“ سے مراد یہاں توافق (فی اللون والطعم) اور تماثل ہو گا۔

دوسری جماعت جن میں عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ کہتی ہے کہ یہ پھل رنگ اور دیکھنے میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے۔ مزے میں مشابہت نہیں ہوگی مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رنگ کے اعتبار سے مشابہ اور مزے کے اعتبار سے مختلف ہوں گے۔ ربیع ابن انس نے بھی یہی کہا ہے۔

یحییٰ ابن ابی کثیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کی گھاس زعفران کی ہے اور ٹیماں مشک کی ہیں۔ والدان (خادمین جنت) جنتیوں کو پھل پیش کریں گے اور یہ لوگ کھالیں گے پھر اس طرح کا پھل اور پیش کریں گے تو جنتی کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو تم نے ابھی ہمیں دیا تھا۔ چنانچہ

وہ خدام جو اب دیں گے کھاؤ ان کا رنگ ایک ہے اور مزے مختلف ہیں یہی اللہ تعالیٰ کے قول کما رزقا منها من ثمره رزقا قالو هذا الذي رزقنا من قبل) سے مراد ہے۔

ایک اور جماعت اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ یہ پھل دنیوی پھلوں کے مشابہ ہیں یہ الگ بات ہے کہ جنت کے پھل عمدہ اور افضل ہیں۔ ابن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبدالرحمن ابن زید نے فرمایا کہ جنتی لوگ پھلوں کے نام پہچانیں گے۔ جیسا کہ دنیا میں سیب کو سیب کے نام سے اور انار کو انار کے نام سے پہچانتے تھے۔ یعنی جنت میں وہ یہی کہیں گے کہ یہ دنیوی پھلوں کے مشابہ ہے۔ پہچان کے لحاظ سے اگرچہ مزے میں ان کی طرح نہیں۔ ابن جریر اس قول کو اختیار کر کے فرماتے ہیں جو لوگ آیت کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ ”یہ وہی پھل ہیں جو اس سے پہلے ہمیں جنت میں دیئے گئے تھے“ ان کے قول کے فاسد ہونے پر ہماری دلیل یہی مذکورہ توجیہ ہے۔ اور اس قول کے فساد پر دلالت ان لوگوں کے قول کے فساد پر دلالت ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے قول ”واتوا بہ متشابہا“ کی توجیہ میں ہماری مخالفت کی تھی۔

میں (ابن قیم) نے کہا۔ یہ توجیہ ان کے قول کے فساد پر دلالت نہیں کرتی گذشتہ دلائل کی بناء پر یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”جنات عدن مفتحة لهم الابواب متكئين فيها يدعون فيها بكل فاكهة كثررة وشراب“ اور اسی طرح فرمایا ”يدعون فيها بكل فاكهة اسنون“ یہ آیتیں اہل جنت کے انقطاع اور نقصان سے مامون رہنے پر دلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

”وتلك الجنة التي اور ثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثررة“
اللہ تعالیٰ نے فرمایا

”وفاكهة كثررة لاسقطوعته ولا ممنوعته“ یعنی ایسا نہیں کہ وہ پھل ایک موسم میں ہوں گے اور دوسرے میں نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح ان کا ارادہ رکھنے والے شخص کو بھی نہیں روکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”فهو في عيشته راضته۔ في جنته عالته۔ قطوفها دانية“ (سو وہ ہیں مانتے گزران میں۔ اونچے باغ میں جس کے میوے جھکے پڑے ہیں) (قطوف‘ قطف کی جمع ہے، یعنی وہ پھل جو چننا جائے اور ”قطف بالفتح“ فعل ہے یعنی چننے

کام عمل کرنا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے پھل بہت قریب ہوں گے جن کا چننا توڑنا نہایت ہی آسان ہو گا جو جس طرح چاہے گا اس کو حاصل کر سکے گا۔ براہین عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی لیٹنے کی حالت میں بھی پھل لے سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

ودانہتم علیہم ظلالها وظلمات قطفوها اور جھک رہیں ان پر اس کے سائے اور است
تذلیلًا۔ (سورۃ الدھر ۱۴) کر رکھے ہیں اس کے گچھے لٹکا کر۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جنتی جب پھل لینے کا ارادہ کرے گا تو وہ پھل اس کے قریب آجائے گا۔ یہاں تک کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق اس سے لے لے گا۔ اور ان کے علاوہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ میوے پست اور نیچے ہو کر ان کے قریب ہو جائیں گے اور یہ لوگ جس طرح چاہیں کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے اس کو لے سکیں گے۔ گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”قطفوها دانہتم“ (جس کے میوے جھکے پڑے ہیں) کے مطابق ہو جائے گا۔ ”تذلیل الطقف“ کا ”معنی ہے وہ پھل جس کا لینا اور چننا آسان ہو مدینہ والے کہتے ہیں ”ذک النخّل“ یعنی کھجور کو مشکل سے نکال کر اس کا چننا آسان ہو اور (دانہتم) کے منصوب ہونے کے دو وجہوں ہیں (۱) ایک یہ کہ ”متکثفین“ پر عطف ہے اور یہ حال واقع ہے (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ”الجنة“ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”فیہا من کل فاکھتہ زوجان“ (ان دونوں میں ہر میوہ قسم قسم کا ہو گا) اور دوسری دو جنتوں کی صفت میں فرماتے ہیں ”فیہا فاکھتہ ونخل ورمان“ (ان میں میوے ہیں اور کھجوریں اور انار) اس آیت میں کھجور اور انگور کو جبکہ یہ ”فاکھتہ“ میں داخل تھے خاص طور پر ان کی فضیلت اور شرافت کے اظہار کی وجہ سے ذکر کیا۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے سورۃ نباء میں کھجور اور انگور کے بانغات کو خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ کیونکہ یہ دونوں میوؤں کے اقسام میں بہتر اور عمدہ اور بہت ہی میٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

ولہم فیہا من کل الثمرات ومغفرة من اور ان کے لئے وہاں سب طرح کے میوے
ربہم (سورۃ محمد ۱۵) ہیں اور معافی ہے ان کے رب سے۔

ثوبان رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی جنتی شخص

جنت کا کوئی پھل توڑے گا تو اس کی جگہ دو سرا لگ جائے گا۔

ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم عليه السلام کو جنت سے اتارا اور ان کو ہر چیز کا بنانا (کارگیری) سکھایا اور ان کو جنت کے پھلوں کا توشہ دیا تمہارے یہ پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں سوا اس کے کہ یہ پھل گلتے اور سڑتے ہیں اور وہ اس طرح نہیں ہوں گے۔ (یعنی بوسیدہ اور خراب نہیں ہوں گے) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جنت مجھ پر پیش کی گئی اگر میں بھی اس سے انگور کا گچھا لینا چاہتا تو ضروری ہی لے لیتا یا یوں فرمایا کہ میں نے اس میں سے ایک گچھا لینا چاہا تو میرا ہاتھ نہ پہنچا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ظہر کی نماز میں شریک تھے تو اچانک آپ ﷺ آگے کو بڑھے تو ہم بھی آگے بڑھیں۔ پھر آپ ﷺ نے کسی چیز کی لینے کی کوشش کی پھر آپ پیچھے کو ہٹے جب نماز پوری ہوئی تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آج تو آپ نے نماز میں ایسا کام کیا تو جو آپ کبھی نہیں کرتے تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت اور اس میں جتنی تروتازگی اور سامان آسائش ہیں میرے سامنے کی گئی۔ میں نے اس سے انگور کا ایک گچھا توڑنا چاہا تاکہ تمہارے پاس لے آؤں لیکن میرے اور اس کے درمیان آڑ پیدا کی گئی اگر میں اس کو تمہارے پاس لے آتا تو آسمان اور زمین کے درمیان جتنے لوگ ہیں سب اس سے کھاتے اور اس میں کوئی کمی نہ آتی۔

براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی حضرات جنت کے پھلوں کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے جس طرح چاہیں کھائیں گے۔

اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا جنت کی طرف کوئی تیزی سے دوڑنے والا نہیں اس لئے کہ جنت میں روک تھام اور منع نہیں ہے رب کعبہ کی قسم جنت چمکتا ہوا نور اور نہایت خوشی اور مضبوط محلات اور جاری نہریں اور پکے ہوئے پھل اور حسین و جمیل بیوی اور ابدالاباد اور سلامتی کے گھر میں بہت سارے جوڑے اور خوشگوار عالی مقام میں میوے اور نرمی اور تازگی کے جوڑے اور نعمت سے عبارت ہے (یعنی اس میں

یہ چیزیں ہوں گی۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنت کی طرف تیزی سے جانے والے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا انشاء اللہ کہو تو لوگوں نے کہا انشاء اللہ۔

مسند احمد کی روایت میں ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اہل جنت کو کیا چیز ملے گی آپ نے فرمایا جھاگ اتارے ہوئے (یعنی خالص) شہد کی نہریں، اور ایسی شراب جس میں نہ سردردی ہوگی اور نہ پشیمانی اور دودھ کی نہریں جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوا اور اس پانی کی نہریں جو بدبو نہیں کر گیا اور میوے تیرے الہ کی قسم جس کو وہ جانتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے برابر خیر () اور ”ریحان“ تو ہر خوشبودار بوٹی کو کہتے ہیں۔

ابوالعالیہ اور حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ دنیوی ریحان جس کو ہم سونگتے ہیں۔ جنت کی شہنی سے لایا گیا ہے۔



چھالیسواں بابجنت کی کھیتی

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وفيه ما تشتهون النفس وتلذوا عين. اور وہاں ہیں جو دل چاہے اور جس سے
(سورۃ الزحرف ۷۱) آنکھیں آرام پائیں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک
دیہاتی بھی بیٹھے ہوئے تھے فرمایا ایک جنتی نے اپنے پروردگار سے کھیتی باڑی کی اجازت مانگی۔
اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کیا تم جو چاہتے ہو وہ تمہیں ملتا نہیں ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں البتہ
میرا دل چاہتا ہے کہ میں کاشتکاری کروں۔ چنانچہ وہ بیج بوئے گا اور آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ اگ
جائے گا اور کھیتی پک کر تیار اور کٹ کر تیار اور پہاڑ کے برابر اس کا ذخیرہ لگ جائے گا۔ اللہ
تعالیٰ فرمائیں گے۔ اے ابن آدم لو (اپنی تمنا پوری کر لو) تمہارا پیٹ تو کسی چیز سے بھرتا ہی
نہیں ہے۔ ان اعرابی نے کہا بخدا وہ کوئی قریشی یا انصاری ہی ہو گا اس لئے کہ یہی لوگ کھیتی باڑی
کرنے والے ہیں۔ ہم تو کاشتکاری کرتے نہیں ہیں (یہ سن کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیئے۔ یہ
حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ جنت میں کھیتی باڑی ہوگی اور یہ (دنیوی) بیج اس کا ہے اور یہ
بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ زمین کھیتی اور درختوں سے بھری ہوئی خوشحال اور آباد ہو۔ سوال پیدا
ہوتا ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس کھیتی سے مستغنی ہو گا تو پھر یہ کیسے اجازت مانگ
رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شاید اس نے کھیتی کی اجازت اس لئے مانگی کہ اپنے ہاتھ سے کھیتی
باڑی کرے اس حدیث کے علاوہ کسی اور حدیث میں جنت میں کھیتی کا ذکر میں نہیں جانتا۔ واللہ
اعلم۔

عکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک شخص

اپنے دل میں تمنا کرے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دیں تو میں کھیتی کر لوں۔ پس اس کو معلوم ہی نہیں ہو گا کہ فرشتے اس کے پاس پر آکر سلام کریں گے۔ اس کے بعد کہیں گے کہ تیرے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تو نے اپنے دل میں ایک چیز کی تمنا کی میں نے اس کو جان لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیج دے کر بھیجا ہے۔ جنتی کھے گانج بوؤ۔ چنانچہ پہاڑوں کے برابر کھیتی اگ کر تیار ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر سے ارشاد فرمائیں گے۔ اے ابن آدم ﷺ کھا اس لئے کہ ابن آدم کا پیٹ بھرتا ہی نہیں۔ واللہ اعلم



سینتالیسواں باب

جنت کی نہریں اور چشمے اور اس کے بہنے کے مقامات

قرآن کریم نے اس کو مختلف مقامات میں کئی بار ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔
(تجری من تحتہا الانهار) اور ایک مقام میں (تجری تحتہا الانهار) اور ایک مقام
میں (تجری من تحتہم الانهار) وارد ہیں۔

- (۱) پہلی بات یہ ہے کہ جنت میں حقیقی طور پر نہریں موجود ہیں۔
- (۲) دوسری بات یہ ہے کہ وہ نہریں جاری ہیں۔ کھڑی ہوئی نہیں ہیں۔
- (۳) تیسری بات یہ ہے کہ وہ نہریں جنتیوں کے بالا خانوں اور محلات اور باغات کے نیچے
ہیں جیسا کہ دنیوی نہروں میں طریقہ ہے۔ بعض مفسرین کے گمان کے مطابق آیتوں کا مطلب یہ
ہے کہ وہ نہریں جنتیوں کے حکم اور ان کے تصرف کے تحت بہتی ہوں گی جیسے وہ چاہیں گے یہ
تفسیر انہوں نے اس لئے کی کہ جب جنت کی نہروں کے بارے میں انہوں نے سنا کہ وہ زمین کی
سطح پر بہتی ہیں دنیا کی نہروں کی طرح زمین کو نہیں چیرتی ہوں گی۔ تو ان حضرات نے اللہ تعالیٰ کے
ارشاد (تجری من تحتہا الانهار) کو اس پر محمول کیا کہ وہ نہریں ان کے حکم کے تحت چلیں گی
کیونکہ زمین کے فوق (سطح) کو تحت (نیچے) نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن یہ توجیہ ان لوگوں کی کمزور فہم
پر مبنی ہے۔ اس لئے کہ جنت کی نہریں اگرچہ سطح زمین پر چلیں گی، لیکن محلات اور بالا خانوں اور
درختوں کے تو ضرور نیچے ہوں گی اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی تو (تجری من تحت ارضہا) نہیں
فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیوی نہروں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ لوگوں کے نیچے بہتی ہیں۔
چنانچہ ارشاد ہے۔

الم یروا کم اهلکنا من قبلهم من
قرن مکناهم فی الارض ما لم نمکن
لکم وارسلنا السماء علیهم مدراراً
وجعلنا الأنهار تجری من تحتهم
کیا دیکھتے نہیں کہ کتنے ہلاک کر دیئے ہم نے
ان سے پہلے امتیں جن کو جما دیا تھا۔ ہم نے
ملک میں اتنا کہ تم کو نہیں جمایا اور چھوڑ دیا
ہم نے ان پر آسمان کو لگاتار برستا ہوا اور بنا
(سورۃ الانعام ۶) دیں ہم نے نہریں بہتی ہوئی ان کے نیچے۔

یہ لوگوں میں معبود اور متعارف ہے۔ اسی طرح فرعون کی بات نقل کی ہے کہ اس
نے کہا

وهذه الانهار تجری من تحتی
(فرعون نے کہا) یہ نہریں چل رہی ہیں
(سورۃ الزحرف ۵۱) میرے محل کے نیچے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”فوهما عینان نضاختین“ (جنت میں دو چشمے ہیں ابلتے
ہوئے) سعید اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، وہ دو چشمے میوؤں اور پانی سے ابلتے ہوئے ہوں
گے۔ براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو جاری چشمے دو ابلتے ہوئے چشموں سے افضل ہیں۔ اللہ
تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔

مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار
من ماء غیر اسن وانهار من لبن لم یغیر
طعمه وانهار من خمر لذة للشاربین.
وانهار من عسل مصفی ولهم فیها من
کل الثمرات ومغفرة من ربهم.
(سورۃ محمد ۱۵)

احوال اس بہشت کا جس کا وعدہ ہوا ہے
ڈرنے والوں سے اس میں نہریں ہیں پانی کی
جو بو نہیں کر گیا اور نہریں ہیں دودھ کی جس
کا مذا نہیں پھرا اور نہریں ہیں شراب کی جس
میں پینے والوں کے لئے مزا ہے اور نہریں
ہیں شہد کی جھاگ اتارا ہوا اور انکے لئے وہاں
سب طرح کے میوے ہیں اور معافی ہے انکے
رب سے۔

اس میں اللہ تعالیٰ نے چار جنس ذکر کیں اور ہر جنس سے اس آفت کی نفی فرمادی جو
ان کو دنیا میں پیش آتی ہے۔ پانی کی آفت یہ ہے کہ وہ زیادہ ٹھہرے رہنے کی وجہ سے خراب ہو

اور اس کا رنگ اور مزاج بدل جائے۔ اور دودھ کی آفت یہ ہے کہ اس کا مزہ متغیر ہو کر کڑوا ہو جائے۔ اور جم جائے۔ شراب کی آفت اس کے ذائقے کا بگڑنا جس کی وجہ سے پینے میں لذت نہیں آتی ہے۔

شہد کی آفت اس کی عدم صفائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات ہیں کہ وہ جنت میں ایسے اجناس (دودھ شہد شراب وغیرہ) کی نہریں جاری فرمادیں گے کہ دنیا میں اس کے نہر چلنے کا رواج نہیں ہے اور ان کو زمین کی سطح پر چلا دیں گے اور ان سے وہ تمام آفات دور کر دیں گے جو کمال لذت کے منافی ہیں۔ جیسا کہ جنت کی شراب سے دنیوی شراب کی آفات۔ سرور دی بکواس، بے عقلی، حملہ کرنا، اور عدم لذت، دور کئے ہیں۔ دنیوی شراب کی یہ پانچ آفتیں ہیں جس کے پینے والا کا عقل خراب اور بکواس زیادہ کرنے لگتا ہے بلکہ اس کے پینے والوں کو بکواس کے بغیر شراب اچھی ہی نہیں لگتی۔ وہ اپنی جان اور مال کے بارے میں بے وقوف بن جاتا ہے۔ اور اس کا سر چکراتا ہے۔ اور یہ شراب شیطان کا گندا کام ہے لوگوں کے درمیان بغض و عداوت پیدا کرتی ہے۔ اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتی ہے زنا کی طرف دعوت دیتی ہے بلکہ بسا اوقات تو بیٹی اور بہن اور محارم کے ساتھ زنا کرنے کو دعوت دیتی ہے غیرت اس کے ذریعہ ختم ہو جاتی ہے۔ رسوائی اور پشیمانی کا باعث ہے اور اس کا پینے والا دنیا کی مخلوق کی ناقص ترین قسم پاگلوں سے جا ملتا ہے اچھے نام اور صفات اس سے سلب ہو جاتے ہیں اور بری ناموں اور برے صفات کا حامل بن جاتا ہے قتل کرنا اور راز کا کھولنا جس کے کھولنے میں اس کی ہلاکت یا نقصان کا خطرہ ہوتا ہے اس پر آسان ہو جاتا ہے اور مال کو بیجا خرچ کرنے میں شیطان کا بھائی بن جاتا ہے پردوں کو چاک کرتا ہے اور رازوں کو ظاہر کرتا پھرتا ہے۔ شرمگاہوں کو جھانک کر دیکھتا ہے ناشائستہ کاموں کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کے دل سے محارم کی تعظیم نکل جاتی ہے۔ اور شراب کا عادی (ہمیشہ پینے والا) شخص بت پرست کی مانند ہے۔ شراب کتنی ہی لڑائیوں کو بھڑکاتی ہے اور کتنے غنہوں کو فقیر بنا دیتی ہے اور کتنے عزتمندوں کو ذلیل اور شریفوں کو رذیل بنا دیتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو سلب اور اس کے عذاب کو کھینچتی ہے۔ محبت ختم کرتی ہے اور دشمن بناتا ہے۔ اور کتنی ہی مرتبہ یہ آدمی اور اس کی بیوی میں جدائی لاتی ہے۔

ہے۔ اس کا دل ختم کر دیتی ہے اور عقل سے خالی کر دیتی ہے اور کتنی ہی حسرتوں کا باعث بنتی ہے اور عبرتوں کا سامان کرتی ہے۔ بہت مرتبہ اسکے پینے والے کے سامنے شرکا دروازہ کھول کر اور کتنی مصیبتوں میں اس کو گرا کر اس کو جلدی اتارتی ہے۔ پس یہ تمام گناہوں کو جمع کرنے والی۔ شرکی چابی، نعمت کو چھیننے والی اور عذاب کو کھینچنے والا ہے۔ اگر اس کے دوسرے رذائل نہ بھی ہوں تو یہی کافی ہے کہ یہ اور جنت کی شراب ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتی جیسا کہ نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے آپ نے ارشاد فرمایا۔ جو شخص دنیا میں شراب پیئے تو وہ آخرت میں اس کو نہیں پیئے گا۔ ہم نے جو آفات ذکر کئے اس کی آفات اس سے کئی گنا دو گئے ہیں اور یہ سب مفاسد جنت کی شراب میں نہیں ہوں گے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان نہروں کی صفت میں ان کا جاری ہونا بیان کر دیا تو جاری پانی تو ویسے بھی خراب نہیں ہوتا تو پھر ”غیر اس“ فرمانے کا کیا فائدہ؟
اس کا جواب یہ ہے جاری پانی اگرچہ خراب نہیں ہوتا لیکن جب اس سے پانی لیکر بہت عرصہ رکھا جائے تو خراب ہو جاتا ہے۔ جنت کے پانی کو یہ صورت پیش نہیں آتی۔ اگرچہ اس کو لیکر بہت عرصہ رکھا جائے۔ ان چار نہروں کے اجتماع (اکٹھا ہونے میں) غور فرمائیں کہ یہ لوگوں کے مشروبات میں افضل ہیں یہ ان کا پینا اور ظہور ہے اور یہ ان کی قوت اور غذا ہے اور یہ اس کی لذت اور سرور ہے اور یہ اس کی شفاء اور نفع ہے۔ (جو بیان کر دیا گیا) واللہ اعلم۔

فصل

جنت کی نہریں اوپر سے پھوٹتی ہیں اور پھر نیچے اس کے آخری درجے تک اترتی ہیں۔ جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جنت میں سو درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جماد کرنے والوں کے لئے تیار کئے ہیں۔ ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ جب تم اللہ سے مانگو تو جنت فردوس مانگو اس لئے کہ وہ جنت کا بیج اور اونچا

مقام ہے جس کے اوپر عرش رحمن ہے اور اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ (معراج کے موقع پر) پھر مجھے سدرة المنتہی کی طرف لے جایا گیا کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے پیر ہجر شہر کے مشکوں کے مانند تھے اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں کے برابر تھے۔ اس کے تنے سے دو نہریں ظاہر اور دو نہریں پوشیدہ نکلتی ہیں میں نے کہا جبرئیل یہ کیا ہیں؟ جبرئیل نے کہا۔ یہ دو نہریں پوشیدہ جنت میں ہیں اور دو ظاہر نہریں (دریائے) نیل اور فرات ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں (معراج کے موقع پر) جنت میں جا رہا تھا کہ میں ایک نہر پر گزرا جس کے دونوں اطراف میں خولدار موتیوں کے گنبد تھے۔ میں نے کہا جبرئیل یہ کیا ہے؟ جبرئیل نے کہا یہ وہ کوثر ہے جو تیرے رب نے تجھے عطا کیا ہے؟ جبرئیل نے اپنا پر مارا تو اس کی مٹی خالص مشک کی تھی۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 'کوثر' جنت میں ایک نہر ہے جس کے اطراف سونے کے ہیں۔ موتیوں اور یاقوت پر جاری ہے۔ اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

انا اعطہ ناک الکوثر
اے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں "خیر کثیر" جنت میں ایک نہر ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے جب کوئی اپنے کانوں میں انگلیاں داخل کرتا ہے تو اس کی آواز (خراٹے کی آواز کی طرح) سنتا ہے۔ یہ اس کا معنی ہے واللہ اعلم۔ یعنی اس نہر کی آواز ایسی ہے جیسا کہ کانوں میں انگلیاں داخل کرنے کے بعد آواز آتی ہے۔

حکیم بن معاویہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں پانی 'شہد' دودھ اور شراب کے دریا ہیں۔ پھر اس سے بھی نہریں نکلتی ہیں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ آخرت

میں اس کو شراب چلائی تو اس کو چاہئے دنیا میں اس کو چھوڑ دے اور جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں ریشم کا لباس پہنائے تو اس کو چاہئے کہ دنیا میں اسکو چھوڑ دے۔ جنت کی نہریں مشک کی ٹیلوں یا مشک کے پہاڑوں کے نیچے سے نکلتی ہیں۔ اگر ایک ادنیٰ جنتی کے جوڑے (لباس) کا موازنہ اہل دنیا کے جوڑوں کے ساتھ کیا جاوے تو اللہ تعالیٰ جو جوڑا اس کو آخرت میں پہنائیں گے وہ تمام دنیا والوں کے جوڑوں سے افضل ہو گا۔

عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہریں جنت عدن میں ایک گھڑے سے نکلتی ہیں پھر الگ الگ نہریں بن جاتی ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے متعلق میرا گمان ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت کی نہریں زمین کے شکاف اور زمین کو کھود کر چلتی ہوں گی۔ نہیں خدا کی قسم وہ تو زمین کی سطح پر چلتی ہیں جس کے ایک طرف موتی اور دوسری طرف یاقوت ہے۔ اس کی مٹی خالص مشک ہے۔ میں نے عرض کیا ”ذفر“ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مشک جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آیت (انا اعطیناکم الکوش) پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے کوش عطا کیا گیا وہ بہتی ہے لیکن زمین کو نہیں چیرتی۔ اس کے دونوں جانب موتیوں کے گنبد ہیں۔ میں نے اس کی مٹی پر ہاتھ مارا تو وہ خالص مشک کی تھی اور اس کی کنکریاں موتی ہیں۔

سفیان ثوری رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”وما مسکوب“ (پانی بہتا ہوا) کے متعلق مسروق رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں (انہما انہما تجری فی غہر اخدود) اس کی نہریں گھڑوں میں نہیں بہتیں و نخل طلوعھا ہضیم اور کھجوروں میں جن کا گابھا ملائم ہے۔ (کہا تم کو اس میں چھوڑا جائے گا)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سہمان اور جیحان فرات اور نیل سب جنت کی نہریں ہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت سے پانچ نہریں اتاری ہیں۔ ایک سہحون جو ہند کی نہر ہے۔ دوسری جیحون جو بلخ کی ہے۔ تیسری اور چوتھی دجلہ اور فرات ہیں یہ دونوں عراق کی نہریں ہیں۔ پانچویں نیل ہے جو کہ مصر

کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے چشموں میں سے ایک ہی چشمے سے اتارے ہیں۔ نیچے درجے سے جبرئیل کے پر کے ذریعہ پہاڑوں میں ودیعت کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں جاری کیا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی زندگیوں کے مطابق اس میں منافع رکھے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کے ارشاد۔

وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناہ اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی ماپ کر پھر فی الارض وانا علی ذہاب بہ اس کو ٹھہرا دیا زمین میں اور ہم اس کو لیجائیں لقادرون۔ (سورۃ المؤمنون ۱۸) تو لیجاسکتے ہیں۔

کا مصداق ہے۔ چنانچہ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرئیل علیہ السلام کو بھیج کر زمین سے قرآن اور سارا کاسارا علم اٹھالے گا۔ اور اسی طرح جبرئیل بیت اللہ کے رکن سے حجر اسود اور مقام ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کا صندوق بمع ان چیزوں کے جو اس کے اندر ہیں اٹھالیں گے اور یہ پانچ نہریں سب کی سب اٹھالئے جائیں گے۔ یہی (وانا علی ذہاب بہ لقادرون) کا مصداق ہے۔ اور جب یہ چیزیں زمین سے اٹھالئے جائیں گی تو زمین والے دنیا اور آخرت کی خیر سے محروم ہو جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کو ”بیدج“ کہا جاتا ہے جس پر یاقوت کے گنبد بنے ہوئے ہوں گے اس کے نیچے لڑکیاں ہوں گی۔ جنتی کہیں گے ہمیں بیدج لے چلو چنانچہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان لڑکیوں کے چروں کی طرف غور سے دیکھیں گے جب ان میں سے ایک شخص کو ایک لڑکی اچھی لگے گی وہ اس کی کلائی کو ہاتھ لگائے گا تو وہ اس کے پیچھے چلنے لگے گی؟

فصل: جنت کے چشمے

چشموں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

پیشک پر ہیز گار باغوں اور چشموں میں ہیں

”ان المتقین فی جنت وعیون“

ان الابرار یشرّبون من کانس گمان البتہ نیک لوگ پیتے ہیں پیالہ جس کی ملونی ہے مزاجھا کافوراً عیناً یشرّب بها عباد کافور ایک چشمہ ہے جس سے پیتے ہیں اللہ اللہ یفجر و نہا تفجیراً۔ کے بندے چلاتے ہیں وہ اس کی نالیاں۔

بعض سلف نے کہا ہے کہ جنتیوں کے پاس سونے کی شاخ ہوگی۔ جنتی اس کو جس طرف موڑیں گے یہ نہریں اسی طرف موڑیں گی۔ (یشرّب بہا) میں اختلاف کیا گیا ہے۔ کوفین کہتے ہیں۔ ”بہا“ میں باہم معنی ”من“ ہے یعنی ”یشرّب منہا“ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ فعل (یشرّب بہا) کے معنی کو متضمن ہے یعنی ”یروئی بہا“ یہ بہت ہی صحیح لطف اور بلوغ ہے۔

تیسری جماعت کہتی ہے کہ ”باء“ ظرفیت کے لئے ہے اور ”م لعین“ جگہ کا نام ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں ”کنابہ کمان کذا و کذا“ اور اس تضمین کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔ (ومن یرد فیہ بالجماد بظلم) بہم کے معنی کو متضمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

و یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلہا اور ان لوگوں کو وہاں پلاتے ہیں پیالے جس عینا فیہا تسمای سلسبیلہا۔ (سورۃ الدھر کی ملونی ہے سوٹھ ایک چشمہ ہے اس میں اس کا نام کہتی ہے سلسبیل۔ (۱۸۷)

آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے چشمے کی خبر دی کہ مقربین تو اس کو خالص پیئیں گے اور ”ابرار“ کو دوسرے پانی میں ملا کر پلایا جائے گا۔ اس لئے کہ مقربین نے اپنے سارے اعمال خالص اللہ کی رضا کے لئے کئے تھے تو ان کی شراب (پینے کی چیز) بھی خالص ہوگی اور ابرار نے اعمال میں ملاوٹ (دکھلاوا ریاء شہرت وغیرہ سے) کام لیا تھا تو ان کی شراب میں بھی ملاوٹ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ان الابرار لفی نعیم ○ علی الاوائک بیشک نیک لوگ ہیں آرام میں تختوں پر بیٹھے ینظرون ○ تعرف فی وجوہہم بصرۃ ہوئے دیکھے ہوں گے۔ پہچان لے تو ان کے النعیم ○ یسقون من رحیق مختوم منہ پر تازگی آرام کی۔ ان کو پلائی جاتی ہے

○ ختامہ مسک و فی ذالک فلیتنا فس
 المتنافسون ○ ومزاجہ من تسنیم
 ○ عینا یشرب بہا المقربون .
 (سورۃ المطففین ۲۲-۲۸)

خالص مرگلی ہوئی شراب جس کی مرجمتی
 ہے مشک پر اور اس پر چاہئے کہ رغبت
 کریں رغبت کرنے والے اور اس کی طوئی
 ہے تسنیم کی وہ ایک چشمہ ہے جس سے پیتے
 ہیں اللہ کے مقرب۔

اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی شراب کے مزاج میں دو چیزیں بتادیں (۱) کافور سورۃ کے
 ابتداء میں (۲) زنجبہل (سوٹھ) سورۃ کے آخر میں۔ کافور میں ٹھنڈک اور خوشبو اور
 زنجبہل میں حرارت اور خوشبو ہے۔ ان دونوں شرابوں کے ملنے اور ایک کا دوسرے پر اثر
 لانے کی وجہ سے ایک اور کیفیت پیدا ہوتی ہے جو کہ ان کے انفرادی اثر اور لذت سے بہت عمدہ
 اور لذیذ ہوتی ہے۔ سورۃ کے ابتداء میں کافور کا ذکر کرنا اور آخر سورت میں زنجبہل کے
 ذکر کرنے میں کیا ہی لطیف نکتہ ہے۔ وہ یہ کہ پہلے ان کی شراب میں کافور ملائی جائے گی جس میں
 ٹھنڈک ہے تو زنجبہل (جس میں حرارت ہے) کے ملانے سے اس میں اعتدال پیدا ہو جائے
 گا اور ظاہر یہ ہے کہ کاس ثانی دو سرا جام) پہلے سے غیر ہے۔ یہ شراب کی دو لذیذ قسمیں ہیں۔
 ایک میں کافور ملا ہو گا۔ دوسرے میں زنجبہل اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ان کی شراب میں
 کافور جس میں ٹھنڈک ہے اس لئے ملایا جائے گا کہ ان کو خوف ایثار صبر اور تمام واجبات کو ادا
 کرنے میں تپش اور حرارت کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اپنی کمزوری کے باوجود ان چیزوں کو بجالائے
 تھے۔ اور ان کو ایسے اعلیٰ طریقے پر ادا کیا جیسا کہ انہوں نے اس کی منت مان کر اپنے اوپر واجب
 کئے ہو۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وجزاہم بما صبرو جنتنا وحریرا (سورۃ الدھر) اور بدلہ دیا ان کو ان کے صبر پر باغ اور
 (۱۲) ریشمی لباس۔

کیونکہ صبر میں سختی اور شہوات سے نفس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ
 ان کو بدلے میں جنت کی وسعت اور ریشم کی نرمی جو کہ نفس کو خواہشات سے روکنے اور سختی
 کے مقابلے میں تروتازگی اور سرور دیا جائے۔ یہ (تروتازگی) ان کے ظاہر کی خوبصورتی ہوگی

اور یہ (سرور) ان کے باطن کی خوبصورتی ہوگی جیسا کہ دنیا میں انہوں نے اپنے ظاہر کو اسلام کے احکامات سے اور اپنے باطن کو حقائق ایمان سے مزین کیا تھا اس کی نظیر سورۃ کے آخر میں اللہ کا یہ ارشاد ہے۔

عالیہم ثياب سندس و استبرق
وحلوا اساور من فضته (سورۃ الدھر)
اوپر کی پوشاک ان کے کپڑے ہیں باریک
ابریشم کے سبز اور گاڑھے اور ان کو چاندی
کے کنگن پہنا دیئے جائیں گے۔

یہ تو ظاہر کی زینت تھی پھر آگے ارشاد ہے۔

وسقاہم رہم شرابا طهورا۔
اور پلائے ان کو انکارب شراب جو دل کو
پاک کرتی ہے۔

یہ باطن کی زینت ہے جو ان کو ہر قسم کی گندگی اور نقص سے پاک کرنے والی ہے۔ اور
اس کی مثال ان کے جدا مجد حضرت آدم عليه السلام کو حق تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کی ضمانت دی کہ نہ ان کو بھوک کی وجہ سے باطن کی
ذلت پہنچے گی اور نہ ننگا ہونے کی وجہ سے ظاہر کی ذلت پہنچے گی۔ اور یہ کہ نہ اس کو پیاس کی وجہ
سے باطنی گرمی پہنچے گی اور نہ سورج کی وجہ سے ظاہری گرمی۔ اس طرح کی دو سری آیات میں
جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنے انعامات اور احسانات گنوائے ہیں کہ اس نے تم کو
لباس دیا تاکہ اس سے تم اپنی شرمگاہوں کو چھپاؤ اور اپنے ظاہر کو مزین کر لو۔ اور ایک دوسرے
لباس سے بھی تمہیں نوازا جو دلوں اور باطن کو مزین کرتا ہے۔ وہ تقویٰ کا لباس ہے جو کہ تمام
لباسوں میں بہترین ہے۔ اور اسی کے قریب قریب اللہ تعالیٰ کا دوسرا فرمان ہے کہ اس نے
آسمان کو ستاروں سے مزین کیا۔ اور ستاروں کو ہر سرکش شیطان سے حفاظت کا سامان بنایا تو
آسمانوں کی ظاہری زینت ستاروں کی وجہ سے ہے اور باطنی زینت حراست اور حفاظت کی وجہ
سے ہے۔

اور اس کے قریب حج کا ارادہ رکھنے والے کو اللہ کی طرف سے ظاہری توشے کا حکم
ہے اور پھر بتا دیا کہ بہترین توشہ باطن کا توشہ ہے اور وہ توشہ تقویٰ ہے۔

اور اسی کے قریب حضرت یوسف عليه السلام کے بارے میں عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے۔
 (فذا لك الذي لم تنتني فيه) بولی یہ وہی ہے کہ طعنہ دیا تھا تم نے مجھ کو اس (کے عشق میں)
 چنانچہ اس نے مصر کی عورتوں کو یوسف عليه السلام کا ظاہری حسن و جمال دکھایا۔ پھر کہنے لگی۔
 ولقد روايت عن نفسه فاستعصم (سورة) میں نے اس سے اس کا دل لینا چاہا پھر اس نے
 یوسف (۳۲) تمام رکھا

یہ کہہ کر اس نے یوسف عليه السلام کا باطنی جمال اور زینت (عفت) ان کو بتادی۔ قرآن
 کریم میں غور کرنے والے کو اس طرح کی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں۔



اڑتالیسواں باب

اہل جنت کے کھانے پینے اور قضاء حاجت کا بیان

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

البتہ جو ڈرنے والے ہیں وہ سایہ میں ہیں اور نہروں میں اور میوے وہ جس قسم کے چاہیں کھاؤ اور پیو مزے سے یہ بدلا ہے ان کاموں کا جو تم کرتے تھے۔

ان المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هيناً بما كنتم تعملون

(سورة المرسلات ۴۱-۴۳)

۲

سو جس کو ملا اس کا عملنامہ دائیں ہاتھ میں وہ کہتا ہے لہجہ پڑھیو میرا عملنامہ میں نے خیال رکھا تھا اس بات کا کہ مجھ کو ملے گا میرا حساب سو وہ ہیں من ماتے گزران میں۔ اونچے باغ میں۔ جس کے میوے جھکے پڑے ہیں کھاؤ اور پیو بدلہ اس کا جو آگے بھیج چکے ہو تم پہلے دنوں میں۔

فاما من اوتى كتابه يمينه فيقول هاؤم اقرؤا كتابيه انى ظننت انى ملق حسابه فهو فى عيشة راضية فى جنة عالية كلوا واشربوا هيناً بما اسلفتم فى الايام الخالية

(سورة الحاقة ۱۹-۲۴)

حال جنت کا جس کا وعدہ ہے پرہیز گاروں سے بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں میوہ اس کا ہمیشہ اور سایہ بھی۔

مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار اكلها دائم وظللها.

(سورة الرعد ۳۵)

وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون اور تار لگا دیا ہم نے ان پر میوؤں کا اور
يتنازعون فيها كأساً لا لغو فيها گوشت کا جھپٹتے ہیں وہاں پیالہ نہ بکنا ہے اس
ولاتأثيم
(سورۃ الطور ۲۲-۲۳)

يسقون من رحيق مختوم ختمه مسك ان کو پلائی جاتی ہے شراب خالص مہرگی ہوئی
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون جس کی مہر جہی ہے مشک پر اور اس پر چاہئے
(سورۃ المطففين ۲۵-۲۶)
کہ رغبت کرنے والے رغبت کریں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے لوگ
کھاویں گے اور پیویں گے اور نہ تھوکیں گے نہ پیشاب کریں گے اور نہ پاخانہ کریں گے نہ
ناک سکیں گے انکا یہ کھانا ایک ڈکار ہوگی جس میں مشک کی خوشبو ہوگی اور تسبیح و تحمید (یعنی
سبحان اللہ والحمد للہ کا) ان کو الہام ہو گا جیسے سانس کا الہام ہوتا ہے (یعنی آسان کر دیا جائے گا)
اور دوسری روایت میں ہے جو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے
(جب آپ نے مذکورہ اوصاف ذکر کئے (تو آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ پھر کھانے (کے
فضلے) کا کیا ہو گا؟ آپ نے فرمایا ایک ڈکار ہوگی اور پسینہ آوئے گا (اس سے کھانا ہضم ہو جائے
گا) اس میں مشک کی خوشبو ہوگی۔ تسبیح و تحمید کا الہام ہو گا۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ اہل کتاب میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابوالقاسم
آپ کہتے ہیں کہ جنتی لوگ کھاویں گے اور پیویں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں اور اس ذات کی قسم
جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے اور ایک جنتی کو کھانے پینے اور جماع اور شہوت میں سو
آدمیوں کی قوت دی جاوے گی۔ کتابی نے کہا جو شخص کھانا پیتا ہے اس کو قضاء حاجت کی
ضرورت ہوتی ہے اور جنت میں تو گندگی نہیں ہوگی آپ نے فرمایا وہاں قضا حاجت (یہ ہے کہ)
مشک کے خوشبو والا پسینہ ان کے چڑوں سے بے گا۔ (جس سے کھانا ہضم ہو جائے گا) اور ان
کا بدن ہلکا ہو جائے گا۔

حاکم رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو اپنی صحیح میں نقل کیا ہے جس کے الفاظ یوں ہیں۔

کہ یہود کا ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا
اے ابوالقاسم کیا آپ نہیں کہتے کہ جنتی لوگ جنت میں کھائیں گے پئیں گے (یہودی
نے اپنے ساتھیوں سے کہا اگر یہ اس کا اقرار کر لے تو ان سے مناظرہ کر لوں گا) آپ ﷺ نے
فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے ایک جنتی کو کھانے پینے جماع اور شہوت
میں سو آدمیوں کے برابر طاقت قوت دی جائے گی۔ یہودی نے کہا جو شخص کھاتا پیتا ہے تو اس
کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا ان کی قضاء حاجت ان کے چمڑوں سے نکلنے والا مشک کی طرح
خوشبودار پسینہ ہو گا اور اس سے ان کا پیٹ ہلکا ہو جائے گا۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جنت میں آپ ایک پرندے کو دیکھیں گے تو
آپ کے دل میں اس کی چاہت پیدا ہوگی تو فوراً بھنا ہوا آپ کے سامنے آجائے گا۔
اور اہل جنت کے پہلے کھانے اور پینے کے متعلق عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے قصے میں ابو
سعید خدری کی روایت گزر چکی ہے۔ جس میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ زمین جنتیوں کی مہمانی
کے واسطے ایک روٹی بن جائے گی جبار اس کو اپنے ہاتھ سے الٹی پلٹی کرے گا۔

عن حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی (تلاقمہ) حذیفہ رضی اللہ عنہما سے مروی فرماتے ہیں
اللہ علیہ وسلم ان فی الجنة طیرا امثال رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا بیشک جنت
البنحاتی فقال ابوبکر انها لناعمة میں بختی اونٹ کے برابر ایک پرندہ ہے
یا رسول اللہ قال انعم منها من یا کلها (یہ سن کر) حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما نے عرض کیا
انت من یا کلها یا ابابکر۔
یا رسول اللہ وہ تو بہت ہی ناز و نعمت والا

ہوگا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس کا
کھانے والا اس سے بڑھ کر نعمتوں میں
ہوگا۔ اے ابوبکر آپ بھی اس کے کھانے

والوں میں شامل ہیں۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ (ولہم طہر مما یشتمون) میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا خیال یہ ہے کہ جنت کے پرندے بھی ویسی ہی نعمتوں میں ہوں گے جیسے کہ جنتی نعمت ہی نعمت میں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو کھائیں گے وہ اس سے زیادہ نعمت میں ہوں گے اور اے ابو بکر اللہ سے یہی امید ہے کہ آپ بھی اس کو کھائیں گے۔

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ کے ارشاد

یطوف علیہم بصحاف من ذهب لئے پھریں گے ان پر (غلمان) رکابیاں سونے
واکواب (زخرف ۷۱) کی اور آنخورے

کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ جنتیوں کے سامنے سونے کی ستر پھاہٹوں میں کھانا سامنے آئے گا۔ ہر ایک پلیٹ کارنگ دوسرے سے مختلف ہو گا۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ حوض کوثر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس میں پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کے برابر ہیں (یہ سن کر) عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ پرندے بھی تروتازہ خوش عیش ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا کھانے والا اس سے زیادہ نعمتوں میں اور خوش عیش ہو گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ کے ارشاد (وکاس من معین) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ ایسی شراب ہے جس میں سرچکرا نا نہیں ہو گا۔

اور اسی طرح اللہ کے ارشاد (ولہم عنہا ینزفون) کے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس شراب سے ان کے عقلموں خراب نہیں ہوں گی اور اللہ کے ارشاد (وکاسا دھاقا) کے معنی ہے چھلکتے ہوئے پیالے (رجہق مخوم) کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ ایسی شراب ہوگی جس پر مشک کی مرہنگی ہوئی ہوگی۔ حضرت علامہ (ختمہ مسک) کی تفسیر میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ (ختمہ) کا معنی ہے "خلمطہ" یعنی اس کی ملاوٹ اس لئے کہ وہاں مر نہیں ہوگی

جس سے مہر لگائی جائے۔ میں (ابن قیم) نے کہا واللہ اعلم عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ ہے کہ سب سے آخر میں اس میں مشک ملایا جائے گا تو اس صورت میں یہ (خاتمہ) سے ہوگا (خاتم) (مہر) سے نہیں ہوگا۔

زید ابن معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے علقمہ رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد (ختمہ مسک) کے بارے میں پوچھا اور میں نے (خاتمہ مسک) پڑھا تو انہوں نے فرمایا یہ خاتمہ نہیں ہے بلکہ اس کو ختمہ پڑھا کر علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں (ختمہ) کا معنی ہے (خلطہ) یعنی اس شراب کی ملاوٹ) اور فرمایا کہ کیا تم نے اپنی عورتوں میں سے کسی عورت کو نہیں دیکھا جو خوشبو کے بارے میں کہتی ہے۔ (ان خلطہ من مسک لکننا او کذا) یعنی اس خوشبو کی ملاوٹ فلاں فلاں وجہ سے کستوری کی ہے۔

(ومزاجہ من تسنیم) کی تفسیر میں مسروق رضی اللہ عنہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ اصحاب یمین کے لئے اس میں تسنیم ملائی جائے گی اور مقربین خالص پیئیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مقرب لوگ خالص پیئیں گے اور ان سے کم درجے والے لوگوں کے لئے اس کی ملاوٹ ہوگی۔ مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”ختمہ مسک“ کا معنی ہے (اس کی خوشبو) لیکن یہ تفسیر ایک اور تفسیر کی طرف محتاج ہے اور آیت کے الفاظ اس سے زیادہ واضح ہیں۔ شاید مجاہد رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہو کہ۔ اس سے مراد برتن کے بیچ میں سب سے آخر میں باقی ماندہ میل کچیل وغیرہ ہے۔

ابوالدرداء رضی اللہ عنہ (ختمہ مسک) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ چاندی کی طرح سفید شراب ہے جس کے ذریعہ شراب کے آخر میں مہر لگائیں گے۔ اگر دنیا کا ایک آدمی اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر نکالے تو دنیا میں کوئی جاندار ایسا باقی نہ رہے جو اس کی خوشبو محسوس نہ کرے۔

عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ (تسنیم) اس چشمے کا نام ہے۔ جو شراب میں ملایا جاتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ (وکاسا دھاقا) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ پیالے چھلکتے ہوئے لگاتار مسلسل ہوں گے۔ اور بہت مرتبہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یوں فرماتے سنا۔ ”ہمیں بھر کر پلا دیں (وادھق لنا)“

البتہ نیک لوگ پیتے ہیں پیالہ جس کی ملونی ہے
کافور ایک چشمہ ہے جس سے پیتے ہیں بندے
اللہ کے چلاتے ہیں وہ اس کی نالیاں۔

ان الابرار يشربون من كأس كان
مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد
الله يفجروا منها تفجيرا.

اور انکو وہاں پلاتے ہیں پیالے جس کی ملونی
ہے سوٹھ ایک چشمہ ہے اس میں اس کا نام
کہتی ہے سلسبیل۔

ويسقون فيها كأسا كان مزاجها
زنجبيلاً عينا فيها تسمى سلسبيلاً

ایک جماعت کہتی ہے کہ ”سلسبیل“ فعل اور فاعل سے مرکب جملہ ہے اور ”سلسبیل“
بناء بر مفعولیت منصوب ہے یعنی ”سل سلسبیل الیہ“ کلمہ مفرد ہے۔ یہ باعتبار صفات کے اس
چشمے کا نام ہے۔ اس لفظ کے اشتقاق میں قتادہ رضی اللہ عنہ اور مجاہد رضی اللہ عنہ نے کافی بحث کی ہے۔

قتادہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ”سلسلہ فہم“ فہم کی نرمی (یعنی وہ جس طرف چاہیں
گے اس کو صرف کریں گے یہ اشتقاق اکبر ہے۔ مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد
”سلسلۃ السہل حدیدۃ البحریہ“ (سیلاب کا تیزی سے چلنا ہے) ابو العالیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
اس سے مراد.... دو مقابل نہریں ہیں جو ان کے راستوں اور گھروں میں بہتی ہوں گی یہی ان کا
امتیاز ہو گا۔

دوسرے حضرت فرماتے ہیں اس کا معنی عمدہ مزہ اور چکھنا ہے۔

ابو اسحاق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”سلسبیل“ ہر اس چیز کی صفت ہے جو نہایت سلاست میں
ہو۔ اس وجہ سے چشمے کا نام رکھا گیا۔

ابن انباری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”سلسبیل“ پانی کی صفت ہے چشمے کا نام نہیں ہے اس
پر انہوں نے دو دلیلیں پیش کی ہیں ایک یہ کہ ”سلسبیل“ منصرف ہے اگر یہ چشمے کا نام قرار دیا
جائے تو پھر یہ علمیت اور تانیث کی وجہ سے منصرف نہیں رہتا بلکہ (غیر منصرف بن جاتا)۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کا معنی ہے وہ پانی جو حلق سے
بآسانی اتر جائے۔ میں کہتا ہوں۔ ان دونوں دلیلوں سے اس کا مدعی ثابت نہیں ہوتا۔ اس کا

منصرف ہونا تو دوسری آیتوں کے آخر (سروں) کے ساتھ موافقت کا تقاضا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ چشمے کا یہ نام باعتبار صفت (جو کہ سلاست اور سہولت ہے) رکھا گیا ہے یہ نصوص اس بات کو متضمن ہیں کہ وہاں ان کے لئے روٹی گوشت اور میوے ہوں گے اور مشروبات کی مختلف اقسام پانی دودھ اور شراب ہوں گی اور آخرت میں جو کچھ ملنے والا ہے دنیا میں صرف اور صرف ان کے نام ہیں۔ ان اسماء اور مسماہات کے درمیان کیا تفاوت ہے یہ بشر نہیں جان سکتا۔

سوال پیدا ہوتا ہے۔ جنت میں آگ نہیں ہوگی تو گوشت کیسے بھون کر آئے گا؟

بعضوں نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ کلمہ (کن) سے بھون کر تیار ہو گا اور دوسروں نے یہ جواب دیا ہے کہ گوشت جنت سے باہر بھونا جائے گا اور پھر ان کے پاس لایا جائے گا۔ صحیح اور حق بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ذات جنت کے اندر اس کے پکنے کا انتظام فرمادیں گے۔ جیسا کہ دنیا میں پھل اور روٹی پکانے کے اسباب مہیا فرمادیتے ہیں اور یہ بھی کوئی ممتنع نہیں کہ وہاں ایسی آگ ہو جو چیزوں کے پکانے اور اصلاح وغیرہ میں کام آئے اور کسی چیز کو فاسد نہ کرے۔ اور صحیح حدیث میں آپ ﷺ سے یہ منقول ہے کہ

بجاءهم اللوة جنتیوں کے انگھہٹھوں میں عود سلگتا ہوا ہوگا۔

”بجاء“ معجم کی جمع ہے وہ چیز جس کو جلا کر خوشبو کی دھونی دی جائے (اللوة) تر عود یعنی آپ ﷺ نے یہ بتا دیا کہ وہ لوگ خوشبو پھیلانے کے لئے اس کو جلا کر استعمال کریں گے۔

اللہ تعالیٰ نے جنت میں سایوں کی خبر دی ہے۔ سائے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے سامنے کی چیزوں پر سایہ کر دے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

هم وازواجهم فی ظلال علی الارامک وہ اور ان کی عورتیں سایوں میں تختوں پر متکئون (سورۃ یس ۵۶) بیٹھے ہیں تکیہ لگائے۔

اور ارشاد فرمایا (ان المتقین فی ظلال وعیون) ترجمہ گزر چکا ہے (وندخلهم ظلا

ظالمینا) کھانے اور دوسری میٹھی چیزیں اور خوشبو کی دھونی ایسے اسباب کے مقتضی ہیں جن سے یہ پورے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبب اور سبب دونوں کے خالق ہیں۔ ہر چیز کے رب اور مالک ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے کے ہضم کرنے کے لئے ڈکار اور پسینہ کو اسباب بنایا جو انکے چمڑوں سے نکلے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے پیٹوں میں ایسی حرکات پیدا کر دیں جو اس کھانے کو پکائیں اور یہ اس سے لطف اٹھائے۔ اور پھر اس کے نکالنے کے لئے ڈکار اور پسینے کا انتظام فرمایا اور وہاں کے میوؤں اور پھلوں کے لئے ایسی حرارت پیدا کی ہے جس سے میوے پک جائیں اور اس نے درخت کے پتوں سے سایہ بنایا۔ دنیا اور آخرت کا رب ایک ہے اور وہ دنیا اور آخرت میں پیدا کرنے والی چیزوں کے اسباب کے خالق ہیں۔ اسباب اللہ تعالیٰ کے افعال اور حکمت کا منظر ہیں لیکن یہ مظاہر مختلف ہوتے ہیں اسی وجہ سے بندہ اس کے افعال کو اسباب معبودہ اور مالوفہ پر حمل کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ میں مبتلا ہوتا ہے۔ بلکہ بسا اوقات تو یہ حمل اس کو انکار اور کفر پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ محض جمالت اور ظلم ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو دوسری قسم کے اسباب کے پیدا کرنے سے قاصر نہیں ہے جیسے کہ اس عالم مشہود میں اسباب اور اس کے مسببات کے پیدا کرنے سے قاصر نہیں اور یہ اس پر اس سے زیادہ آسان ہیں۔

اور شاید یہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا جو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے سامنے اور مشاہدہ میں پیدا کیا ہے دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے زیادہ عجیب ہے۔ اگر عقلمند اس میں سوچے تو شاید اس سخت مٹی کے درمیان سے ان پھلوں اور میوؤں کا نکالنا اور اس کے لئے مناسب ہوا اور پانی اور لکڑی پیدا کرنا۔ ہنسبت جنت کی مٹی پانی اور ہوا سے ان کا پیدا کرنا عقل کے نزدیک زیادہ ہی عجیب ہے۔ اور اسی طرح ان مشروبات کا پیدا کرنا خون اور گوبر کے درمیان سے جو کہ غذا بھی ہیں اور دوا اور لذت بھی اور شہد کو مکھیوں کے قہنی سے پیدا کرنا۔ جنت میں دوسرے اسباب کے تحت ان چیزوں کی نہریں جاری کرنے سے زیادہ تعجب خیز ہے اور اسی طرح اس دنیا میں پتھروں اور پہاڑوں کی رگوں سے جو ہرات اور سونے چاندی کا پیدا کرنا جنت میں ان کو دوسرے اسباب کے تحت پیدا کرنے سے زیادہ قابل تعجب ہے۔ اور

ریشم کے کیڑے کے لعاب سے ریشم کا پیدا کرنا اور پھر اس کیڑے کا اپنے اوپر سفید سرخ اور زرد اور پختہ قبوں کا بنانا ہنسبہت وہاں درختوں کے شگوفوں سے ریشم پیدا کرنے سے زیادہ قابل تعجب ہے۔ اور شاید یہاں آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کی چٹھوں پر پانی کے سمندروں کو اٹھانا اور جاری کرنا وہاں پر اس کو زمین کی سطح پر جاری کرنے سے زیادہ قابل تعجب ہے۔

اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت علم و حکمت اور مشیت اور ملکیت اور اس کی ربوبیت الوہیت اور اکیلے ہونے پر دلالت کرنے کی نشانیوں اور ان کی عظمت میں غور فرمائیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اور پھر دنیا اور آخرت یعنی جنت اور دوزخ کے معاملے اور خبروں کے درمیان موازنہ فرمائیں۔ تو آپ دنیا کو آخرت پر سب سے زیادہ دلالت کرنے والی چیز اور اس کی شہادت محسوس کریں گے اور آپ ان دونوں کو ایک ہی طاقتور کا سمجھیں گے کہ ان کا رب ایک ہے اور خالق ایک ہے اور مالک ایک ہے۔ پس تباہی ہو اس قوم کے لئے جو نہیں جانتی۔



انچاسواں باب

”اہل جنت کے کھانے پینے کے برتن اور اس کے اجناس اور صفات کا بیان“

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (بطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب) یعنی (خادمین جنت) ان کے پاس لئے پھریں گے سونے کی پلیٹیں اور آنخورے (صحاف) جمع (صحفہ) ہے کلبی ﷺ فرماتے ہیں ”ہقصاع من ذهب“ (سونے کے پیالے لئے پھریں گے) لہٹ ﷺ فرماتے ہیں ”صحفہ“ ایک چوڑا ٹکڑا ہے اور جمع ”صحاف“ ہے الاعشی کہتے ہیں۔

والہکاکہک والصحاف من الفضہ — والضاہرات تحت الرجال
”۴ لاکواب“ جمع ”کوب“ ہے فراء ﷺ فرماتے ہیں کہ ”کوب“ وہ گول سروالا پیالہ ہے جس میں ڈنڈی نہ ہو۔ عدی شاعر نے کہا۔

متکنا تصفق ابوابہ بسعی علیہ العبد بالکوب

ابو عبد کہتے ہیں۔ ”۴ کواب“ ان لوٹوں کو کہتے ہیں جن کی ٹوٹیاں نہ ہو۔ ابواسحاق ﷺ فرماتے ہیں۔ اکواب ”کا واحد“ کوب“ ہ۔ وہ گول برتن جس میں دستہ نہ ہو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”۴ کواب“ وہ لوٹے ہیں جس میں ٹوٹیاں نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔
يعطوف علیہم ولدان مخلدون لئے پھرتے ہیں ان کے پاس لڑکے سدا رہنے
باکواب و اباریق و کاس من معین۔ والے آنخورے اور کوزے اور پیالہ تھری
(سورۃ الواقعہ ۱۷-۱۸) شراب کا۔

”۴ باریق“ وہ لوٹے جس میں ٹوٹیاں ہوں اور اگر اس کی ٹوٹیاں اور دستے نہ ہوں تو

وہ پیالے (اکواب) ہیں اور (ابریق) (افعیل) کا وزن ہے (بریق) سے جس کا معنی صفائی ہے یعنی وہ چیز جس کا رنگ صاف اور شفاف ہونے کی وجہ سے چمک رہا ہو۔ پھر مذکورہ (مخصوص) شکل کے برتن کا نام رکھا گیا۔ اگرچہ اب اس میں صفائی نہ ہو۔

جنت کے لوٹے چاندی کے بنے ہوئے شیشے کی مانند صاف ہوں گے۔ اس کے اندر کی چیز باہر سے دکھائی دے گی اور عرب تلوار کے چمکیلے رنگ کی وجہ سے اسکو "بریق" سے موسوم کرتے ہیں۔

ابن احمر شاعر کہتا ہے

لہہاک حیا ذازہاء و خاسل

تعافت ابرقا و عاقت جفنه

"نوادرا للاحیانی" میں ہے "مرآة ابریق" جبکہ وہ مزین اور آراستہ ہو۔ اللہ تعالیٰ

فرماتے ہیں۔

و یطاف علیہم بانیة من فضة و اکواب اور لوگ لئے پھرتے ہیں ان کے پاس برتن کانت قواریر اقواریرہ من فضة چاندی کے اور آبخورے جو ہو رہے ہیں قدر و ہا تقدیرا۔

سورة الدھر ۱۵-۱۶

ان کا نام۔

(قواریر) کے معنی شیشے کے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہاں کے برتنوں کے بارے میں بیان کیا کہ ان کا مادہ چاندی کا ہو گا لیکن صفائی میں شیشے کی صفت پر ہوں گے۔ اور ایسی چیز بہت ہی خوبصورت اور عجیب ہوتی ہے (یعنی جس کا مادہ چاندی ہو اور صفائی اور چمک شیشے کی طرح ہو) اسی وہم کو دور فرماتے ہوئے حق تعالیٰ نے فرمایا (قواریر من فضة) چاندی کے شیشے ہیں۔ مجاہد قتادہ اور شعبی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کے شیشے چاندی کے ہوں گے یعنی ان کی سفیدی چاندی کی ہوگی اور صفائی شیشے کی۔ ابن قتیبہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کی تمام چیزیں نرسیں پنگلیں، فرش، پیالے وغیرہ دنیا میں بندوں کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں سے مختلف ہوں گی جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جنت کی چیزوں کے دنیا میں صرف اور صرف نام ہیں۔ پیالے دنیا میں کبھی چاندی کے ہوتے ہیں اور کبھی شیشے کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں

وہاں کے پیالوں کے متعلق بتلادیا کہ وہ چاندی کی طرح سفید اور شیشے کی طرح صاف ہوں گے فرمایا کہ یہ تشبیہ ہے کہ وہ شیشے چاندی کی مانند ہوں گے جیسا کہ حق تعالیٰ نے جنتی عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ (کانھن الیا قوت والمرجان) یعنی ان کے رنگ مرجان کی طرح اور صفائی یا قوت کی طرح ہوگی یہ بات مردود ہے۔ اس لئے کہ آیت صراحتاً یہ بتا رہی ہے کہ وہ چاندی کے بنے ہوں گے اور لفظ ”من“ (من فضتہ میں) جنس بتانے کے لئے ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں ”خاتم من فضتہ“ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے انگوٹھی چاندی کی مانند ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کا مادہ اور جنس چاندی کا ہے شاید ابن عباس رضی اللہ عنہما پر اشتہاہ آیا ہو کہ وہ چاندی کے بنے ہوئے اور پھر شیشے بھی ہوں لیکن اس میں کوئی اشکال نہیں جیسے کہ ہم نے ذکر کیا۔

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے (وقدر وھا تقدیرا) (اللہ تعالیٰ نے ان کا ناپ رکھا ہے تقدیر کا معنی ہے) (جعل الشی بقدر مخصوص) کسی چیز کو خاص اندازے سے بنانا بنانے والے نے ان برتنوں کو ایک خاص انداز پر ان کی سیرابی کے مطابق رکھا ہے۔ جس پر کمی اور زیادتی نہیں کی جائے گی اور یہ (یعنی برتنوں کی درمیانے انداز پر بناوٹ) پینے والے کو زیادہ لذت پہنچاتی ہے۔ اور اگر یہ ان کی سیرابی سے کم ہو تو لذت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مفسرین کی ایک جماعت کا قول ہے۔ فراء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آبخورے (گلاس وغیرہ) ہر ایک کی سیرابی کے مطابق اندازہ کئے گئے ہیں نہ اس میں شراب بچے گی اور نہ زیادہ ہوگی اور یہ شراب سب سے زیادہ لذیذ ہوتی ہے۔

زجاج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ برتن ان کی ضرورت اور احتیاج کے مطابق بنائے جائیں گے ابو عبید فرماتے ہیں کہ یہ اندازہ پلانے والے لگائیں گے اور پھر پلائیں گے۔ یعنی (قدورھا) کی ضمیر فرشتوں اور خدام کی طرف راجع ہے یعنی وہ لوگ ان کی پیاس کے مطابق گلاس بھریں گے۔ نہ زیادہ کریں گے کہ جس سے بوجھ محسوس ہو اور نہ کم کریں گے کہ نفس کی طلب باقی رہے جیسا کہ گذر چکا ایک جماعت کا کہنا ہے کہ یہ ضمیر ”شاربین“ (پینے والوں) کی طرف راجع ہے۔ یعنی وہ لوگ اپنے دلوں میں ایک چیز کا اندازہ کریں گے تو وہ چیز یا کام ان کے

اندازے کے مطابق ہو گا لیکن جمہور کا قول زیادہ بہتر اور اہل باطن ہے۔ اس لئے کہ وہ اس قول کو بھی مستلزم ہے۔ واللہ اعلم۔ ”کاس“ کے بارے میں ابو عبیدہ فرماتے تھے کہ یہ جنت میں ایک برتن ہے۔ ابو اسحاق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”کاس“ وہ برتن ہے جس میں شراب ہو اور کاس کا اطلاق ہر اس برتن پر ہوتا ہے جس میں شراب ہو۔ مفسرین نے ”کاس“ کی تفسیر شراب سے کی ہے چنانچہ یہ عطا رضی اللہ عنہ کلبی رضی اللہ عنہ اور مقاتل رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یہاں تک کہ ضحاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن میں جہاں بھی کاس کا لفظ آیا ہے اس سے مراد شراب ہے۔ یہ مراد معنی مقصود کو دیکھتے ہوئے کی گئی ہے کیونکہ مقصود وہ چیز ہوتی ہے جو کاس میں ہو نفس برتن مقصود نہیں ہوتا اور یہ کہ بعض اسماء ایسے بھی ہیں جن کا اطلاق حال اور محل دونوں پر اکٹھے بھی اور ہر ایک پر الگ الگ بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ ”نہر“ اور ”کاس“ اس لئے کہ نہر پانی اور اس کے محل دونوں کا نام ہے اور ہر ایک کا انفرادی بھی۔ یہی حال کاس اور ”قریہ“ کا ہے۔ اس لئے کہ ”لفظ قریہ“ سے مراد کبھی صرف (ساکن) یعنی اس میں رہنے والا ہوتا ہے اور کبھی صرف مسکن مراد ہوتی ہے اور کبھی ساکن اور مسکن دونوں چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو جنتیں ایسی ہیں کہ اس کے برتن اور ان میں جو کچھ ہے (سب) سونے کا ہے اور دو جنتیں ایسی ہیں کہ ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے (سب) چاندی کی بنی ہوئی ہیں۔ اور جنتہ عدن میں قوم کا اپنے رب کی طرف دیکھنے کے درمیان (مانع) اللہ کی ذات پر پڑی ہوئی کبریائی کی چادر ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جو گروہ جنت میں جائے گا وہ چودھویں رات کے چاند کی طرح ہو گا پھر جو گروہ ان کے بعد جائے گا وہ آسمان میں سب سے زیادہ چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہو گا اور جنتی نہ پیشاب کریں گے نہ پاخانہ نہ تھوکیں گے اور نہ ناک سکیں گے ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی ان کی انگلیوں میں عور سلگتا ہو گا اور ان کی بیویاں حوریں ہوں گی بڑی آنکھ والی اور ان کی عادتیں ایک شخص کی عادتوں کے موافق ہوں گی (یعنی سب کے اخلاق یکساں ہوں گے) اپنے باب آدم رضی اللہ عنہ کی صورت پر ہوں گے ساٹھ ہاتھ کاقد ہو گا۔

حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں مت پیو اور نہ ان کی بنے ہوئے پہلوئوں میں کھانا کھاؤ اس لئے کہ یہ (کافروں) کے لئے دنیا میں ہیں اور تمہارے لئے آخرت میں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کو بہت پسند فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خواب دیکھتا اور خود اس کی تعبیر کو نہ جانتا تو آپ سے اس کی تعبیر دریافت کرتا۔ پھر آپ جب اس کی تعریف فرماتے تو اس کا دیکھنے والا آپ کو بہت پسند ہوتا تھا۔ چنانچہ (ایک مرتبہ) ایک عورت حاضر خدمت ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا مجھے مدینے سے نکالا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا (کیا دیکھتی ہوں) کہ میں نے ایک دھماکہ سنا جس کے لئے جنت کا دروازہ کھول لیا گیا میں نے دیکھا تو وہ فلان ابن فلاں اور فلاں ابن فلاں تھے بارہ آدمیوں کے نام لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ایک سریہ بھیجا تھا۔ (عورت نے کہا) کہ ان کو اس حالت میں لایا گیا کہ ان کے کپڑے غبار آلود تھے اور گردن کی رگوں سے خون کی دھاریں جاری تھی۔ پس کہا گیا کہ ان کو نہر بیدخ یا بیدج لے چلو۔ چنانچہ اس میں ان کو داخل کیا گیا اور پھر نکالا گیا تو ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی مانند تھے۔ پھر ان کے پاس سونے کی پلیٹیں لائی گئیں جس میں تازہ کھجوریں تھی تو انہوں نے جو چاہا ان کھجوروں سے کھایا۔ انہوں نے ہر قسم کے میوے کھائے جو چاہا میں نے بھی ان کے ساتھ کھایا چنانچہ (کچھ دیر بعد) اس سریہ کے متعلق خوشخبری دینے والا آیا اور کہنے لگا کہ فلاں فلاں شہید ہوا یہاں تک کہ بارہ آدمی گن لئے (یہ سن کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بلایا اور فرمایا اپنا خواب بیان کر اس نے اپنا خواب بیان کیا اور پھر کہنا شروع کیا کہ فلاں کو لایا گیا اور فلاں کو لایا گیا (اسی طرح نام گئے) جس طرح خوشخبری دینے والے نے بیان کیا تھا“ رواہ الامام احمد فی مسندہ بنحوہ و اسنادہ علی شرط مسلم“



پچاسواں باب

اہل جنت کے لباس اور زیورات، رومالوں، بچھونوں،
فرشوں، تکیوں، غالیچوں اور نہالچوں کا بیان

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

ان المتقين في مقام امين في جنات
وعيون، يلبسون من سندس واستبرق
مقابلين. (سورة الده خان ۵۱)
-۵۳-

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا
لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك
هم جنت عدن تجري من تحتهم
الانهار يحلون فيها من اساور من
هب ويلبسون ثيابا خضرا من
سندس واستبرق متكئين فيها على
الارائك.
ہوئے ان میں تختوں پر۔

مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے۔ ”سندس“ سے مراد باریک ریشم اور ”استبرق“
سے مراد موٹا ریشم ہے۔ دوسری جماعت کہتی ہے کہ اس سے مراد موٹا ریشم نہیں بلکہ اس سے
مراد صفیق (یعنی موٹا بنا ہوا ریشم) ہے زجاج ص۱۱۱ فرماتے ہیں کہ یہ ریشم کی دو قسمیں ہیں۔
رنگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت رنگ سبز اور لباسوں میں سب سے زیادہ نرم لباس

ریشمی لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ان کے لباس میں خوبصورتی اور اس کے ذریعہ آنکھوں کی لذت نرمی اور جسم کی راحت کو جمع فرمایا۔ ارشاد ہے۔

ولباسم فہما حریر اور انکی پوشاک ہیں وہاں ریشم کی

یہاں ایک مسئلہ ہے جس کے ذکر نے کا یہی مقام ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ میں بتلادیا کہ جنتیوں کا لباس ریشمی ہو گا۔ جبکہ صحیح حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے دنیا میں ریشم (یعنی اس کا لباس) پہن لیا آخرت میں وہ اس کو نہیں پہنے گا۔ اب اس حدیث کی مراد میں اختلاف ہے۔ چنانچہ سلف اور خلف کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ ایسا شخص جنت میں ریشم نہیں پہن سکے گا بلکہ ریشم کے علاوہ دوسرا لباس پہنے گا۔ اور آیت (ولباسم فہما حریر) کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ عام مخصوص الیہ بعض ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ یہ وہ وعید ہے جس کی مثالیں دوسری نصوص کی وعیدوں میں موجود ہیں۔ جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ فعل اس حکم کا مقتضی ہے لیکن کبھی کبار کسی مانع کی وجہ سے اس فعل پر حکم نہیں لگتا (حکم میں تخلف آجاتا ہے)

نص اور اجماع اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ توبہ وعید (عذاب) کے ملنے سے مانع ہے اور اسی طرح گناہوں کو مٹانے والی حسنات (نیکیاں) اور گناہوں کا کفارہ بننے والے مصائب اور اس کے بارے میں لوگوں کو شفاعت کی اجازت وغیرہ سب وعید میں شامل ہونے سے مانع ہیں۔ یہی حدیث بعینہ اس حدیث کی طرح ہے۔ (من شرب الخمر فی الدنہا لم یشربہا فی الاخرة) جس نے دنیا میں شراب پی لی وہ آخرت میں نہیں پیئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وجزاہم بما صبروا جنتہم وحریرا۔ (سورۃ) اور بدلا دیا ان کو ان کے صبر پر باغ اور
الذہر ۱۲) پوشاک ریشمی۔
ارشاد ہے

عالمہم ثواب سندس خضر واستبرق۔ اوپر کی پوشاک ان کی کپڑے ہیں باریک ریشم
(سورۃ الذہر ۲۱) کے سبز اور گاڑھے۔

لفظ (عالہم) کے مدلول میں غور فرمائیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لباس ظاہر ہو گا اور زینت و جمال کے لئے ان کے ظاہر کو (یعنی کپڑوں کے اوپر) پہنایا جائے گا۔ بنیان کی طرح کپڑوں کے نیچے نہیں۔ قراءۃ نے دو قراتوں کی بناء پر (عالہم) کے منصوب اور مرفوع ہونے میں اختلاف کیا ہے اور نحاۃ نے بھی اس کے نصب کی وجہ میں اختلاف کیا ہے کہ آیا یہ نصب بناء بر ظرفیت ہے یا بناء بر حالیت ہے۔ حضرات مفسرین کا اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا یہ لباس ان کے خادین کا ہو گا کہ جنتیوں کے خدمت کرتے وقت وہ اس نوع کے لباس میں ملبوس ہوں گے یا یہ لباس ان کے سرداروں (جنتیوں) کا ہو گا کہ جب ولدان ان کی خدمت کریں گے تو ان کے سردار یہ لباس پہنیں ہوں گے۔ چنانچہ یہاں یہ حالت (معاملہ) واضح نہیں ہے اور اس کے تحت کوئی معنی بدیع اور فائدہ بھی نہیں ہے۔

صحیح بات یہ ہے کہ یہ بناء بر ظرفیت منصوب ہے۔ اس لئے کہ جب (عالیا) بمعنی (فوق) ہے تو اس کو اس کے قائم مقام بنا دیا گیا۔ ابو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ توجیہ بہت واضح ہے وہ یہ کہ (عالیا) صفت تھی اس کو ظرف بنایا گیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے (والرکب اسفل منکم) اور جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں (ھونا حۃ من الدار) اور جن لوگوں نے (عالہم) کو رفع دیا تو انہوں نے اس کو مبتداء بنایا اور (ثیاب سندس) کو خبر۔ اور اس طرح کرنے میں ان کو (عال) کے مفرد ہونے اور (الثاب) کے جمع ہونے نے نہیں روکا۔ اس لئے کہ کبھی اسم فاعل سے کثیر بھی مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے شاعر نے کہا ہے

الان جیرانی العشۃ راح
 دعتمہم دواع من ہوی و مناوح

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

مستکبرین بہ سامراً تھجرون (مؤمنون) اس سے تکبر کر کے ایک قصہ کو چھوڑ کر چلے گئے

۳۱۶

اور جنہوں نے (خنضرا) کو مرفوع بنایا تو انہوں نے اس کو (ثیاب) کی صفت بنایا یہ کئی وجوہات کی بناء پر قرین قیاس ہے۔

(۱) دونوں کے درمیان جمعیت (جمع ہونے میں) مطابقت ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ کے ارشاد (ویلبسوں ثیابا خضرا) کے ساتھ اس کی موافقت ہے۔
 (۳) جمع کو مفرد کے لئے صفت بنانے سے چھٹکارا۔ اور جس نے اس کو (سندس) کے لئے صفت بنایا تو انہوں نے اس سے (جنس) مراد لیا۔ جیسے کہا جاتا ہے (اهلك الناس الدينار الصفرة الدينار البهض) یعنی لوگوں کو زرد اور سفید دیناروں نے ہلاک کیا (یہاں دینار کی جنس مراد ہے)

اور چوتھی وجہ سے بھی پہلی قرأت کو ترجیح دی جاسکتی ہے وہ یہ کہ عرب جمع کو واحد کے لفظ میں لاکر واحد کے قائم مقام بناتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
 الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا. (سورة یسن ۸۰)
 وہ ایسا قادر ہے کہ بعض ہرے درخت سے تمہارے لئے آگ پیدا کرتا ہے۔
 اور جیسے کہ ارشاد ہے۔

کانہم اعجاز نخل منقعر (سورة القمر ۲۰)
 گویا کہ وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔

مگر انہوں نے جمع کی اس نوع کی صفات کو مفرد بنایا تو واحد کی صفت کو بھی مفرد لاتے اگرچہ پہلے کا معنی جملے کا ہے۔

(استبرق) میں دو قرآنیں ہیں (۱) رفع (ثیاب) پر عطف کرتے ہوئے (۲) جر (سندس) پر عطف کرتے ہوئے۔ غور کا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے جنتیوں کے باطن کو پاکیزہ شراب سے اور ہاتھوں کو کنگنوں سے اور ان کے بدنوں کو ریشمی کپڑوں سے مزین فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الأنهار یحلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسہم فیہا حریر۔
 اور کہیں بھلائیاں باغوں میں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں گہنا پہنائیں گے ان کو وہاں کنگن سونے کے اور موتی اور ان کی پوشاک ہے وہاں ریشم کی۔
 (سورة الحج ۲۳)

(لولوا) کے نصب اور جر میں اختلاف کیا گیا ہے۔ جو نصب دیتے ہیں۔ اس کی دو وجہیں ہیں۔ (۱) اللہ تعالیٰ کے قول (من اساور) کے موضع پر اس کا عطف ہے۔ (۲) یہ فعل مخدودف کی وجہ سے منصوب ہے جس پر پہلا فعل دلالت کرتا ہے۔ یعنی (ويحملون لولوا) اور جو لوگ جر کے قائل ہیں تو انہوں (من ذهب) پر اس کا عطف کیا ہے۔ پھر اس میں دو باتوں کا احتمال ہے۔ (۱) ایک یہ کہ جنتیوں کے کچھ کنگن سونے کے ہوں گے اور کچھ موتیوں کے (۲) دوسری یہ کہ وہ کنگن سونے اور موتیوں دونوں سے مرکب ہوں یعنی سونے میں ہیرے موتی جڑے ہوئے ہوں گے ”واللہ اعلم بما اراد“ کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت قائم ہونے تک ایک فرشتہ جنتیوں کے زیورات بنانے پر مقرر کیا ہے اگر جنتیوں کے زیورات میں سے صرف ایک کنگن کو ظاہر کیا جائے تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی فرمایا کہ اس کے بعد جنتیوں کے زیورات کے متعلق مت پوچھو۔ حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں زیورات عورتوں کی نسبت مردوں کے ساتھ زیادہ خوبصورت لگیں گے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک جنتی شخص دنیا میں جھانک لے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے جیسے سورج ستاروں کی روشنی ختم کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو امامتہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کے دوران جنتیوں کے زیورات کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جنتی لوگ سونے اور چاندی کے کنگن پہنے ہوں گے جو جوہرات سے مرصع و مزین ہوں گے اور ان کے سروں پر ایسے تاج ہوں گے جس میں لگاتار یا قوت اور ہیرے جڑے ہوئے ہوں گے اور ان کے سروں پر بادشاہوں جیسے تاج ہوں گے۔ نوجوان ہوں گے ان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے آنکھیں سرگیں ہوں گی۔

ابو حازم روایت فرماتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھا وہ نماز کے لئے وضو کر رہے تھے تو اپنے ہاتھ کو دھوتے تھے لمبا کر کے۔ یہاں تک کہ بغل تک دھویا۔ میں نے عرض کیا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کیسا وضو ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے فروخ کی اولاد (فروخ ابراہیم رضی اللہ عنہ) کے ایک بیٹے کا نام ہے جس کی اولاد میں عجم کے لوگ ہیں ابو حازم بھی عجمی تھے) تم یہاں

موجود ہو اگر میں جانتا کہ تم یہاں موجود ہو تو میں اس طرح وضو نہ کرتا نے اپنے دوست (یعنی رسول اللہ ﷺ) سے سنا آپ فرماتے تھے قیامت کے دن مومن کو وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک اس کا وضو پہنچتا ہو۔ اس حدیث سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو بازو کو بھی دھونا مستحب قرار دیتے ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ یہ مستحب نہیں ہے۔ وہ اہل مدینہ کا قول ہے۔ امام احمد رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں دو روایتیں ہیں۔ مذکورہ حدیث لمبا کر کے دھونے پر دلالت نہیں کرتی۔ اس لئے کہ زیورات کی زینت کلائی میں ہوتی ہے بازو اور کندھوں میں نہیں ہوتی اور حدیث کا یہ حصہ (من استطاع منکم ان یطہل غرۃ فلہ فعل) جو شخص اپنی چمک کو لمبا کرنے کی استطاعت رکھے تو ایسا کر لے۔ اس حدیث میں یہ زیادتی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے کلام سے مدرج ہے۔ یہ نبی ﷺ کا قول نہیں۔ اس بات کو حفاظ میں سے ایک نے بیان نہیں کیا (یعنی بہت ساروں نے بیان کیا ہے) مسند امام احمد میں اس حدیث کے بارے میں نعیم فرماتے ہیں کہ یہ (من استطاع منکم ان یطہل غرۃ فلہ فعل) نبی کریم ﷺ کا کلام مبارک ہے یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے کچھ کہا ہے۔ ایک شیخ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا کلام ہو۔ کیونکہ غرہ (چمک) ہاتھ میں نہیں ہوتی بلکہ چہرے میں ہوتی ہے۔ جب چہرہ سر میں داخل ہے تو اس اطالت ممکن نہیں۔ لہذا اس کو غرہ نہیں کہا جاسکتا صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے جو شخص جنت میں داخل ہو گا تو وہ نعمت ہی نعمت میں رہے گا۔ کبھی خستہ حال نہیں ہو گا نہ اس کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے اور نہ اس کی جوانی فنا ہوگی اور جنت میں وہ کچھ نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد کہ ”جنتیوں کے کپڑے بوسیدہ نہ ہوں گے“ ظاہر یہ ہے کہ اس سے معین کپڑے مراد ہیں جس کو بوسیدگی لاحق نہیں ہوگی اور یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد جنس ہو۔ یعنی ان کے کپڑے ہمیشہ نئے رہیں گے۔ جیسا کہ جنس کھانے کی چیز کھانے سے ختم نہیں ہوگی بلکہ کھانے کے بعد فوراً اس جگہ دوسری آجائے گی۔ واللہ اعلم۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حرم کا ایک اعرابی آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول

اللہ مجھے ہجرت کے بارے میں بتلا دیجئے آیا آپ جہاں بھی ہوں آپ ہی کی طرف ہجرت ہوگی یا کسی خاص قوم کی طرف؟ یا کسی معلوم زمین کی طرف کہ جب میں مرجاؤں تو وہ ختم ہو جائے۔ تین مرتبہ اس نے یہ سوال کیا اور پھر بیٹھ گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے تھوڑی دیر سکوت فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا سائل کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ موجود ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا ہجرت یہ ہے کہ آپ فواحش (ناشائستہ کاموں) کو چھوڑ دیں جو اس سے ظاہر ہے اور باطن اور یہ کہ آپ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر آپ مہاجر ہے اگرچہ آپ کا انتقال حضر میں ہو جائے۔ پھر ایک دوسرے شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ارشاد فرمائیے اہل جنت کے کپڑے کس قسم کے ہوں گے۔ کیا (بنے بنائے) پیدا شدہ ہوں گے یا بنے ہوئے ہوں گے جن کو بنا کر تیار کیا گیا ہو گا۔ یہ بات سن کر ایک شخص کو ہنسی آگئی۔ حضور ﷺ نے فرمایا ایک ناواقف جب کسی جاننے والے سے پوچھتا ہے تو تم لوگ ہنستے ہو پھر ایک سکوت فرمانے کے بعد فرمایا۔ جنتیوں کے کپڑوں کے متعلق پوچھنے والا کہاں ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ موجود ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ نہیں بلکہ جنت کے پھلوں سے ان کے پھٹنے پر (تیار شدہ) برآمد ہوں گے۔ اس طرح تین بار ارشاد فرمایا۔ عبد اللہ ﷺ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی مانند روشن ہوں گے اور دوسری جماعت کے چہرے آسمان میں ایک خوبصورت اور چمکدار ستارے کے رنگ پر ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک کے لئے حوروں میں سے دو بیویاں ہوں گی بڑی آنکھوں والی ہریبوی ستر جوڑے پہنی ہوگی (ان کے حسن کا یہ عالم ہو گا) کہ اس کی پنڈلی کی ہڈی کا گودا اس کے گوشت اور جوڑوں کے اندر سے دکھائی دے گا۔ جیسا کہ سرخ شراب سفید شیشے میں دکھائی دیتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا اور اس جیسے اور سے بہتر ہے اور جنت میں ایک کمان کے برابر جگہ دنیا اور اس جیسے اور سے بہتر ہے اور جنتی عورت کا نہہف دنیا اور اس کے مثل سے بہتر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں عرض کیا یا رسول اللہ نہہف کیا ہے؟ فرمایا دوپٹہ۔

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی کروٹ بدلنے سے پہلے ستر سال تکیہ لگائے ہوئے گا پھر اس کے پاس ایک عورت آئے گی اور اس کے کندھے پر ہاتھ مارے گی تو اس کو اپنا چہرہ اس کے رخسار میں دکھا دے گا جو آئینہ سے زیادہ شفاف ہو گا اس کے ایک ادنی موتی سے مشرق اور مغرب کا درمیان روشن ہو جائے گا وہ عورت اس کو سلام کہے گی وہ جو سلام کا جواب دے گا۔ اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں اس مزید انعام سے ہوں جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اس پر ستر لباس ہوں گے وہ اس میں اپنی نظر دوڑائے گا۔ یہاں تک کہ پنڈلی کا گودا اس کے اندر سے دکھائی دے گا۔ اس پر تاج ہو گا جس کا ادنی موتی مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی کر دے گا۔

ابو امامتہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی جنت میں داخل ہو گا تو اس کو طوبی (درخت) کی طرف لیجا یا جائے گا وہ تو اپنے شگوفوں کو اس کے لئے کھول دے گا تو یہ جس قسم کے لباس کو سفید چاہے سرخ چاہے سبز چاہے زرد رنگ چاہے یا کالا رنگ لے لیگا۔

خالد زمیل نے اپنے والد سے سنا انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عرض کیا کہ جنتیوں کا لباس کس چیز کا ہو گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے پھل انار کی طرح ہیں۔ جب اللہ کا ولی (یعنی جنتی) لباس پہننے کا ارادہ کرے گا تو وہ اس کی طرف اپنی ٹہنی جھکا دے گا اور ستر رنگوں کے مختلف جوڑے ان کو ہدیہ کر دے گا اور پھر بند ہو کر پہلی حالت پر لوٹ جائے گا اور گل لالہ سے بھی زیادہ باریک اور خوبصورت ہو گا۔

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اس شخص کے لئے خوشخبری (طوبی) ہو جس نے آپ کی زیارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا یہ سن کر آپ نے فرمایا اس شخص کے لئے تو خوشی کی بات ہے جو مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لائے۔ لیکن خوشخبری ہو پھر خوشخبری ہو اور پھر خوشخبری ہو اس شخص کے لئے جو مجھ پر ایمان لایا اور مجھے دیکھا تک نہیں۔ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ طوبی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو سال کی مسافت کا ایک درخت ہے جنتیوں کے کپڑے اس کے شگوفوں سے نکلتے ہیں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں مومن کا گھر موتیوں کا ہو گا جس میں ایسا درخت ہے جو جوڑوں کو اگاتا ہے آدمی اپنی انگلیوں سے (اس دوران ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا) ستر جوڑے اٹھائے گا جو موتیوں اور مرجان سے بھرے ہوئے ہوں گے۔

کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر جنتیوں کے کپڑے دنیا میں پہنے جائیں تو جو اس کی طرف دیکھے گا تو بے ہوش ہو جائے گا اور اس کی آنکھیں اس کو دیکھنے کی تاب نہ لاسکیں گیں۔ عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ ابی بن کعب یا کسی اور سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ جنتی بیویوں میں سے ایک بیوی کے ستر جوڑے ایسے ہوں گے جو تمہارے اس گل لالہ سے بھی زیادہ باریک ہوں گے اور اس کی پنڈلی کا گودا اس کے اندر سے دکھائی دے گا۔

صحیحہ صحیحہ میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اکیدردومتہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا جبہ ہدیے میں پیش کیا۔ لوگوں نے اس کی خوبصورتی سے تعجب لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعد رضی اللہ عنہ کے رومال جنت میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گے اور اسی طرح صحیحہ صحیحہ میں حضرت براء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشمی کپڑا ہدیہ کیا گیا۔ لوگ اس کی نرمی سے تعجب کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سے تعجب کرتے ہو؟ جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے زیادہ خوبصورت ہوں گے۔ یہاں پر خصوصیت سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ذکر کرنے کی وجہ مخفی نہیں۔ اس لئے کہ انصار میں ان کا وہ مرتبہ تھا جو مہاجرین میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا۔ اس موت سے عرش پہنے لگا تھا۔ وہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کی پرداہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شہادت پر ان کا خاتمہ نصیب فرمایا۔ اس نے اپنی قوم قبیلے اور خلفاء کی رضاء پر اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دی تھی اور اس فیصلے کی موافقت کی جو اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کے اوپر کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی موت کی خبر حضرت جبرئیل علیہ السلام نے پہنچائی تھی تو وہ مستحق ہیں کہ جنت میں ایسے رومالوں سے ہاتھ صاف کریں جو بادشاہوں کے جوڑوں سے زیادہ خوبصورت ہوں۔

فصل

جنتیوں کے جملہ لباس میں سے انکے سروں پر تاج بھی ہوں گے

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے قرآن پڑھا (یعنی سیکھا) پھر رات دن اس میں مشغول رہا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کو اس کے گوشت اور خون میں رچا بسا دے گا اور اس کو لکھنے والے نیک بزرگ فرشتوں کا (رفیق بنا دے گا اور جب قیامت کا دن ہو گا تو قرآن اس کے لئے حجت ہو گا اور عرض کرے گا اے پروردگار دنیا میں ہر کام کرنے والا آدمی اپنے کام میں مشغول تھا۔ مگر فلاں شخص رات دن میرے اندر مشغول تھا اور میرے حلال کو سمجھا تھا اور حرام کو حرام اے پروردگار اس کو عطا فرما چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو بادشاہوں کا تاج اور عزت کا لباس پہنائے گا اور پھر اس سے فرمائیں گے کیا تو راضی ہے؟ وہ عرض کرے گا اے پروردگار مجھے اس سے افضل کی رغبت ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے ملک () دیں گے اور بائیں ہاتھ سے جنت میں ہمیشگی دیں گے اور پھر اس سے فرمائیں گے کیا تو راضی ہے؟ وہ عرض کرے گا جی ہاں اے پروردگار۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سورۃ البقرہ سیکھا کرو اس لئے کہ اس پر عمل کرنا برکت ہے اور اس کو چھوڑنا حسرت ہے۔ اور باطل لوگ اس پر عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھڑی سکوت فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ اور سورۃ ال عمران سیکھا کرو اس لئے کہ دونوں چمکنے والی ہیں اور بیشک یہ دونوں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے پر سایہ کریں گی۔ گویا کہ یہ دونوں قیامت کے دن بادل ہوں گی یا دونوں سایہ کرنے والی چیزیں یا پرندوں کی صف باندھی ہوئی دو ٹکڑیاں ہیں۔ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ قرآن صاحب قرآن سے جب وہ قبر سے نکلے گا بے پتلے آدمی کی صورت میں ملاقات کرے گا اور اس سے کہے گا۔ کیا تو مجھے جانتا ہے؟ صاحب قرآن کہے گا میں آپ کو نہیں جانتا۔ قرآن کہے گا۔ میں وہ ہوں جس نے آپ کو گرمیوں میں پیسا رکھا اور رات کو بیدار رکھا اور ہر تاجر اپنی تجارت کے

بھروسہ پر ہوتا ہے آج آپ اپنی تجارت کے بھروسہ پر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے بادشاہی اور بائیں ہاتھ سے ہمیشگی عطا فرمائیں گے اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی وہ عرض کریں گے کس عمل کے بدلے یہ ہمیں پہنایا گیا ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے بیٹے کی کتاب اللہ حاصل کرنے کی وجہ سے پھر صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں اور بالا خانوں پر چڑھتا جا۔ چنانچہ چڑھتے وقت قرآن پڑھتا رہے گا۔ خواہ حد درجے سے پڑھے یا ترتیل سے۔

حدیث میں (بطلمتہ) (باطل لوگوں سے) مراد جادوگر ہیں۔ اور (الغیابتہ) وہ چیز جو انسان پر اوپر سے سایہ کرے۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد (جنت عدن یدخلونہا یحلون فہا من آساور من ذہب ولونوا) تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے سروں پر ایسے تاج ہوں گے جس کا اونٹنی موتی مشرق اور مغرب کا درمیان روشن کر دے۔

فصل! فرشوں کا بیان

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

ستکئین علی فرش بطائمہا من استبرقی (سورۃ الرحمن ۵۴) موٹے ریشم کے ہیں۔

اور ارشاد ہے (وفرش مرفوعۃ) اونچے اونچے فرش ہوں گے، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشوں کے متعلق بیان کیا ان کے استرد بینر ریشم (موٹے ریشم) کے ہوں گے۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ ان کا ظاہر ان کے استروں سے اعلیٰ اور خوبصورت ہوگا۔ اس لئے کہ استر زمین کے لئے ہوتا ہے اور ظاہر جمال اور زینت استعمال کے لئے ہوتا ہے۔ سفیان ثوری عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”بطائمہا من استبرقی“ کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں انہوں

نے فرمایا کہ اس میں تو تمہیں استروں کی خبر دی گئی ہے۔ ظاہر کیا ہی (خوبصورت) ہو گا؟
(۲) دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ وہ فرش اونچے ہوں گے۔

ان کے ظاہر اور باطن کے درمیان بھرائی اور موٹائی ہوگی۔ اس کی بلندی اور ارتفاع میں جو آثار مروی ہیں۔ اگر وہ محفوظ ہوں تو اس سے مراد جگہ کی اونچائی اور بلندی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد (و فرش مرفوعۃ) کی تفسیر میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بلندی اتنی ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان مسافت ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے۔ (قال الترمذی حدیث غریب لا تعرف الا من حدیث رشید بن سعد) ایک قول کے مطابق اس کا معنی یہ ہے کہ مذکورہ بلندی درجات کے بارے میں ہے جن پر یہ فرش ہوں گے ایک دوسری حدیث میں (و فرش مرفوعۃ) کے متعلق ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو فرشوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گا جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ یہ حدیث پہلی حدیث کے محفوظ ہونے کی دلیل ہے۔ واللہ اعلم۔

عبداللہ بن شخیر کعب رضی اللہ عنہ سے اللہ عزوجل کے ارشاد (و فرش مرفوعۃ) میں نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا۔ ان کی بلندی چالیس سال کی مسافت کے برابر ہوگی۔ ابو امامتہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (الفرش المرفوعۃ) کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایک فرش کو اوپر سے پھینک دیا جائے تو وہ اپنے قرار گاہ تک پہنچنے میں سو سال گرتا رہے۔

معاذ بن ہشام فرماتے ہیں (و فرش مرفوعۃ) میں ابو امامتہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت مجھے ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کے اوپر والے حصے کو گرا دیا جائے تو چالیس سال میں نیچے تک نہ پہنچے۔

فصل: تکیوں اور بچھونوں کا بیان

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

متكئين على روف خضر وعبقري
حسان
تکيہ لگائے بیٹھے سبز مسندوں پر اور قیمتی نفیس
بچھونے پر
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فيها سرر مرفوعة واکواب موضوعه
ونمارق مصفوفة و زرابي مبثوثة
اس میں تخت ہیں اونچے بچھے ہوئے اور
آنخورے سامنے چنے ہوئے اور غالیچے برابر
بچھے ہوئے اور مخمل کے نہالچے جگہ جگہ پھیلے
ہوئے۔

سعید بن جبور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ (رفرف) سے مراد جنت کا باغ ہے اور (عبقري) سے مراد نہالچوں کی عمدگی ہے۔ متكئين علی روف خضر وعبقري حسان کے تفسیر میں حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بچھونے ہی ہیں اور فرمایا کہ اہل مدینہ کے ہاں بھی اس سے مراد بچھونے ہیں۔ (نمارق) کے بارے میں واحدی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بناء بر بر قول جمع (وسائد) متكئين ہیں۔ اس کا واحد (نمرقہ) بضم النون ہے۔

اذا ما بساط اللهو سد و قربت للذاتہ انماطہ و نمارقہ

کلبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد آمنے سامنے بچھے ہوئے تکتے ہیں۔
مقاتل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ تکتے ہیں جو فرش پر بچھے ہوئے ہوں۔
”زرابی“ کا معنی فرش ہے، اس کا واحد جمع اہل لغت کے قول کے مطابق
”زرابیتہ“ ہے۔ (مبثوثة) بمعنی بچھے ہوئے پھیلائے ہوئے ہے۔

فصل :

”رفرف“ کے متعلق لہٹ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سبز رنگ کے کپڑوں کی ایک قسم ہے جو بچھائے جاتے ہیں واحد (رفرف) ہے۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں۔ رفارف کے معنی بچھونے ہیں۔ ابن مقبل کا شعر ہے۔

سواقط من اصناف ربط ورفرف

وانا لنزالون تغشي معالمنا

ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ ”ررف“ سے مراد (ریاض الجنۃ) ہے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں (ررف) تکتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ فرش کو سیدھا رکھنے والے زائد کپڑے۔ مبرد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ زائد کپڑے جو فرشوں میں بادشاہوں کے لئے بنائے جاتے ہیں واحدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ توجیہ گویا کہ قریب ہے۔ اس لئے کہ عرب پرانے کپڑے کے ٹکڑے اور وہ ٹکڑا جو کپڑے کے نیچے سیا جاتا ہے کو ”ررف“ کہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی حدیث بھی اسی سے ہے۔ (رفع الررف فراینا وجہہ کانہ ورقہ) (ررف کو اٹھایا گیا تو ہم نے اس کا چہرہ دیکھا گویا کہ وہ چاندی کا ٹکڑا تھا) ابن الاعرابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ررف سے مراد یہاں بچھونے کا کونہ ہے۔ تو سیدھا رکھنے والا رکاوٹ جو قالین چٹائی وغیرہ کے نیچے ہوتی ہے اس کو ررف کہا جانے لگا۔

میں کہتا ہوں اس کلمے کا اصل معنی طرف اور کونہ ہے اور اسی سے ہے (ررف فی الحائط) اور اسی سے ہے (ررف) کپڑے کا ٹکڑا زرے کے اطراف اس کا واحد (ررفۃ) ہے اور اسی سے ہے (ررف الطیر) جب وہ کسی چیز کے گرد اس پر حملہ آور ہونے کے لئے اپنے پروں کو حرکت دے اور (ررف) کے معنی سبز رنگ کے وہ کپڑے بھی ہیں جس سے بچھونے کو سیدھا رکھنے کے لئے رکاوٹیں بنائی جاتی ہیں۔ واحد (ررفۃ) ہے۔ ہر بچھے ہوئے زائد چیز کو ررف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد۔

لقد رای من ایات ربہ الکبریٰ (سورۃ النجم ۱۷)
بیشک دیکھے اس نے اپنے رب کے بڑے نمونے۔

اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے۔ (رای ررفا خضر سد الاق)

فصل

”عبقری“ کے متعلق ابو عبیدہ فرماتے ہیں بچھانے کی ہر چیز عبقری ہے۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ہاں اس سے مراد وہ زمین ہے جس میں نباتات لگائے جائیں۔ لہٰذا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”عبقر“ وہ دیہاتی جگہ جس میں جن زیادہ ہوں کہا جاتا ہے (کانہم جن عبقر) ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نبی

ﷺ کی حدیث میں فرماتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا (فلم ار عبقریا یفری فریتہ) اس کا اصل یہ ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے (انہ لسنب الی عبقر) یہ اس زمین کو کہتے ہیں جس میں جن زیادہ ہوتے تھے اب یہ بلندی کی طرف ہر منسوب چیز کی مثال بن گئی ہے۔ زہیر کا شعر ہے۔

نخال علیہا جیتہ عبقریتہ جدہرون آن ینالوا فیستعلوا

ابوالحسن واحدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبقری کے بارے میں یہی قول صحیح ہے۔ کیونکہ عرب جب کسی چیز کی تعریف میں مبالغہ کرتے تو اس کی نسبت جنات کی طرف کرتے یا ان سے تشبیہ دیتے۔
لبید شاعر کا شعر ہے۔

جن الندر وایا قدامہا

دو سرا شاعر ایک عورت کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے۔

جنتہ ولہا جن بعلہا رسی القلوب بقوس سالہا و تدر

یہ اس لئے کہ عرب جنوں میں ہر عمدہ اور عجیب صفت کے موجود ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے کہ جن ہر عجیب کام کر سکتے ہیں۔ چونکہ وہاں جن باشندوں میں عبقر جن مشہور تھا اس لئے ہر چیز کے مبالغہ میں اس کی طرف نسبت کی گئی۔ ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ یہ کارنامہ جنوں کا عمل اور کارکردگی ہے: یہ اس کی اصل ہے۔ اس کے بعد عبقری ہر اس چیز کا نام اور صفت بنا جس کی تعریف میں مبالغہ کیا گیا ہو۔ ہمارے اس ذکر شدہ توجیہ کے شاہد زہیر کا شعر ہے جس میں اس نے جنوں کی طرف عبقری نسبت کی ہے۔ پھر یہ کہ ہم نے بہت چیزیں دیکھی جن کی نسبت عبقری طرف کی گئی ہے نہ کہ کپڑوں اور بچھونوں کی طرف جیسے عمر کی صفت میں عبقری آیا ہے، سلمتہ نے فراء سے نقل کیا ہے کہ (لعبقری) مردوں میں سردار کو کہتے ہیں یعنی حیوانات میں سے فخر کرنے والا اگر عبقرانگے کے ساتھ مخصوص ہوتا تو اس جگہ کی طرف اس کی نسبت نہ ہوتی جس میں نباتات کا اگنا نہ ہو۔ بلکہ اس کی طرف تو عجیب طرز سے بنائے ہوئے بچھونے کی نسبت کی گئی ہے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ جس طرح اس کی نسبت ہر اس چیز کی طرف کی جاتی ہے۔ جس کی تعریف میں مبالغہ کیا جائے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما عبقری سے مراد فرش لیتے ہیں۔

کلبی رضی اللہ عنہ کے ہاں اس سے مراد مطلق بچھونا ہے۔ قتادہ کے ہاں عمدہ نہا لے ہیں۔ مجاہد رضی اللہ عنہ کے ہاں موٹا ریشم ہے۔ (عبقری) جمع ہے اس واحد کا (عبقریتہ) ہے اس لئے اس کی صفت جمع لائی گئی ہے۔

غور فرمائے اللہ تعالیٰ نے کیسے نقشہ کھینچا ہے۔ کہ جنت کے فرش اونچے ہوں گے تکتے فرشوں پر ہوں گے۔ فرش کی بلندی اس کی نرمی پر دلالت کرتی ہے، تکیوں کا پھیلنا اس کی کثرت پر دلالت کرتا ہے یعنی وہ ہر جگہ ہوں گے صدر مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہوں گے۔ صرف پیچھے نہیں ہوں گے۔ تکیوں کا یہ وصف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ ہر وقت ہمیشہ ٹیک لگانے کے لئے تیار ہوں گے ایک وقت میں ظاہر اور دوسرے وقت میں چھپائے ہوئے نہیں ہوں گے۔ واللہ اعلم



اکیاونواں باب

”اہل جنت کے خیموں، مسہریوں اور تختوں کا بیان“

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

حور مقصورات فی الخیم (سورۃ الرحمن ۷۲)

صحیحین (بخاری و مسلم) میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کو جنت میں ایک خیمہ ملے گا جو ایک ہی خولدار موتی کا ہو گا اور اس کی لمبائی ساٹھ میل تک ہوگی اس میں مومن کی بیویاں ہوں گی اور وہ ان پر گھوما کرے گا لیکن ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے (اس لئے کہ جگہ بہت کشادہ ہوگی)

اور دوسرے الفاظ میں روایت یوں ہے کہ جنت میں ایک خولدار موتی کا خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی ساٹھ میل ہوگی۔ اس کے ہر کونے میں لوگ ہوں گے جو دوسرے کو نہ دیکھیں گے۔ مومن ان پر دورہ کرے گا۔ (کیونکہ وہ لوگ مومن کے گھر والے ہوں گے)

اور ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیمہ ایک موتی کا ہوگا۔ جس کا لمباؤا چان میں بھی ساٹھ میل کا ہوگا۔ اس کے ہر کونے میں مومن کی بیویاں ہوں گی جن کو دوسرے لوگ نہ دیکھ سکیں گے (یعنی ایک محل کے لوگ دوسرے محل کے لوگوں کو بوجہ وسعت اور دوری کے نہ دیکھ سکیں گے)۔

صرف بخاری میں اس طرح کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اس خیمے کی لمبائی تیس میل ہوگی“ یہ خیمے بالا خانوں اور محلات کے علاوہ ہوں گے۔ یعنی باغوں اور نہروں کے کناروں پر بنے ہوئے خیمے ہوں گے۔ ابن ابی الدنیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاص انداز سے

حوروں کو پیدا کریں گے جب ان کی خلقت تمام ہوگی تو فرشتے ان کے لئے خیمے نصب کر دیں گے۔

اور بعضوں نے کہا کہ چونکہ وہ عورتیں باکرہ ہوں گی اور باکرہ کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر سے ملنے تک پردے میں رہتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ حوروں کو پیدا کر کے ان کو خیموں کے پردے میں رکھیں گے یہاں تک کہ ان کو ان کے دوستوں کے ساتھ جنت میں جمع فرمادیں۔

ابن ابی الدنیا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ہر مسلمان کے لئے ایک عمدہ (بہت خیر والی) عورت ہوگی۔ اور ہر عورت کے لئے ایک خیمہ ہوگا اور ہر خیمے کے چار دروازے ہوں گے جس میں ہر دن ہر دروازے سے ایک ایسا ہدیہ اور تحفہ پیش کیا جائے گا جو اس سے پہلے نہیں ہوگا اور وہ عورتیں نہ فخر کرنے والیاں ہوں گی اور نہ بھڑکنے والی ہوں گی اور نہ ان کے منہ سے بدبو آئے گا اور نہ وہ نافرمان ہوں گی۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد (و حور مقصورات فی الہیام) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ بیچ میں سوراخ کیا ہوا ایک خولدار موتی ہوگا۔ ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ خیمہ ایک ہی موتی ہوگا جس کے ستر دروازے ہوں گے اور سب کے سب موتی کے بنے ہوئے ہوں گے۔

مجاہد رضی اللہ عنہ (حور مقصورات فی الہیام) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حوریں موتیوں کے خیموں میں ہوں گی اور ایک خیمہ ایک ہی موتی کا بنا ہوا ہوگا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک خیمہ ایک ہی موتی کا بنا ہوا ہوگا جس کی لبائی اور چوڑائی ایک ایک فرسخ ہوگی اور اس کے لئے سونے کے ستر دروازے ہوں گے ان پر ایسے پردے ہوں گے جس کی گولائی پچاس فرسخ ہوگی ہر دروازے سے ایک فرشتہ اللہ عزوجل کی طرف سے ہدیہ لے کر داخل ہوگا۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا

والملائکتہ یدخلون علیہم من کل باب (سورۃ الرعد ۲۳) آئیں گے۔

مسریوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

اور تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تختوں پر برابر
بچھے ہوئے قطار باندھ کر اور ہم بڑی
آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کریں
گے۔

(۱) متکئین علی سرر
وزوجنا ہم بحور عین۔ (سورۃ طور)

ایک جماعت پہلے لوگوں میں ہو گی اور
تھوڑے سے پچھلوں میں سے بیٹھے ہیں جڑاؤ
تختوں پر تکیہ لگائے ان پر ایک دوسرے کے
سامنے

(۲) ثلثہ من الاولین وقلیل من
الآخرین علی سرر سوضونہ متکئین
علیہا متقابلین۔ (سورۃ الواقعتہ)

(۳) فیہا سرر سرفوعتہ (سورۃ
العاشیہ)

پہلی بات اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات میں یہ بیان فرمائی کہ وہ (مسریاں اور تخت)
آمنے سامنے ہوں گے۔ ایک دوسرے کے پیچھے بھی نہیں ہوں گے اور ایک دوسرے سے دور
بھی نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ وہ جواہرات سے بنے ہوئے ہوں گے ”وضن“ کا لغوی
معنی ہے ڈبل اور تہ بہ تہ بنا ہوا جیسے کہا جاتا ہے ”وضن فلان الحجر والاجر بعضہ فوق بعض فہو
موضون“ (یعنی فلاں نے اینٹوں اور پتھروں کو تہ بہ تہ ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیا)۔

لہذا عَلَبَّۃٌ فرماتے ہیں ”وضن“ ریشم یا اس جیسی دوسری چیزوں کے بننے کو کہتے ہیں۔
کہا جاتا ہے ”درع موضونتہ“ وہ ذرع جس کی بنائی قریب قریب ہو۔ ایک عربی شخص نے اپنی
بیوی سے کہا ”ضنی متاع البہت“ (گھر کے سامان کو ایک دوسرے کے قریب کرو)

ابو عبیدہ فراء مبردا اور ابن قہتہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں ”موضونتہ“ کا معنی ہے۔
ڈبل بنائی ایک دوسرے میں گھسے ہوئے جیسے ذرے کی کڑیاں ایک دوسرے میں گھس ہوئی ہوتی
ہیں۔ ”وضین“ بھی اسی سے ہے جس کا معنی ہے وہ تسمہ جس کی بنائی ایک دوسرے میں داخل

ہو۔

شاعر کا شعر ہے۔

ومن نسج داؤد موضوعتہ تساق مع الحی عیرا فعیورا

کہتے ہیں کہ ”موضوعتہ“ کا معنی ہے وہ تخت جو سونے کی شاخوں سے بنا ہوا اور زبرجد، یاقوت اور موتیوں سے بھرا ہوا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں (موضوعتہ) کا معنی ہے (مصنوفتہ) بچھے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق خبر دی ہے وہ اونچے بھی ہوں گے۔

عطاء رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کر کے فرماتے ہیں کہ سونے کے تخت ہوں گے جس میں زبرجد موتیاں اور یاقوت جڑے ہوئے ہوں گے اتنے بڑے ہوں گے جتنا کہ مکہ اور ایلمہ () کے درمیان مسافت ہے۔ کلبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس تخت کی لمبائی اوچان میں سو ہاتھ ہوگی۔ جب آدمی اس پر بیٹھنے کا ارادہ کرے گا تو وہ جھکے گا۔ یہاں تک کہ آدمی اس پر بیٹھ جائے چنانچہ جب آدمی اس پر بیٹھے گا تو وہ اپنے مکان کی طرف اونچا اور بلند ہو جائے گا۔

فصل :

(ارائک) ”ارہکتہ“ کی جمع ہے: مجاہد رضی اللہ عنہ بن عباس سے نقل کر کے فرماتے ہیں کہ ”ارہکتہ“ اس وقت تک نہیں بنتا جب تک وہ آراستہ کمرے میں نہ ہو۔ اگر ہلانک مزین کمرے میں نہ ہو تو وہ ”ارہکتہ“ نہیں ہے اور اگر مزین کمرہ بغیر پلنگ کے ہو تو وہ بھی ارہکتہ نہیں یعنی جب تک پلنگ مزین کمرے میں نہ ہو تو اس وقت تک ارہکتہ نہیں ہو سکتا۔ جب دونوں جمع ہو جائیں تب اریکہ ہوتا ہے۔ مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ارہکتہ کا معنی ہے (الاسرة فی الحال) یعنی خاندان کا مزین کمرے میں ہونا۔ لہٰذا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”ارہکتہ“ مزین کمرے کے پلنگ کو کہتے ہیں۔ یعنی مزین کمرہ اور پلنگ دونوں کا نام ”ارہکتہ“ ہے جس کی جمع ”ارائک“ ہے۔ ابواسحاق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”ارائک“ مزین کمرے میں بچھے ہوئے فرشوں

کو کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں تین چیزیں ہیں۔ ایک پلنگ دو سرامین پردہ جو اس کے اوپر لٹکایا جاتا ہے۔ تیسرا وہ بچھونا (فرش) جو پلنگ پر بچھایا جاتا ہے۔ جب تک یہ سب چیزیں جمع نہ ہوں اس وقت تک پلنگ کو "ریکتہ" نہیں کہا جاسکتا۔ صحاح میں ہے کہ "ریکتہ" کسی گھریا گنبد میں مزین اور آراستہ کئے ہوئے پلنگ کو کہتے ہیں اور جب اس میں پلنگ نہ ہو تو وہ (مجلد) مزین کمرہ ہے جمع "رائک" ہے۔ اور حدیث میں ہے (خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل زر الجمالتہ) یعنی نبی کریم ﷺ کی مہربوت گھنڈی چھپرکٹ کی طرح (یا مجلد) (یعنی چکور) کے انڈے کی طرح تھی۔



باونواں باب

اہل جنت کے خدام اور غلمان

یطوف علیہم ولدان مخلدون
 باکواب و اباریق و کاس من معین
 (سورۃ الواقعہ ۱۷-۱۸)

لئے پھرتے ہیں ان کے پاس لڑکے سدا رہنے
 والے آنجورے اور کوزے اور پیالہ تھری
 شراب کا۔

ویطوف علیہم ولدان مخلدون اور پھرتے ہیں ان کے پاس لڑکے سدا اپنے
 لذارایتہم حسبہم لثولوا مشورا والے جب تو ان کو دیکھے تو خیال کرے کہ
 (سورۃ الدھر ۱۹) موتی ہیں بکھرے ہوئے۔

ابو عبیدہ اور فراء رحمہما اللہ فرماتے ہیں ”مخلدون“ کا معنی یہ ہے کہ وہ نہ بوڑھے
 ہوں گے اور نہ ان میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ اور فرمایا کہ عرب اس آدمی کو جو عمر رسیدہ تو ہو
 جائے لیکن اس کے بال پوری طرح سفید نہ ہوں کو کہتے ہیں ”مخلدون“ جس کے بڑھاپے
 کی وجہ سے دانت نہ نکلتے ہوں اس کو بھی کہتے ہیں۔ ”مخلدون“ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ
 ”مخلدون“ کا معنی ہے۔ ”مقرطون مسورون“ (یعنی ان کے کانوں میں بالیاں اور ہاتھوں میں
 کنگن ہوں گے) ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو پسند کر کے فرمایا کہ ”مخلدون“ کا معنی ہے ”مقرطون
 بالمخلدۃ“ (بالیاں اور کنگن پہنے ہوئے ہوں گے) اس کا جمع ”مخلدون“ آتا ہے۔ بمعنی بالی عمر؟
 اپنے والد سے نقل کرتے ہیں (مخلدون) جب اس کو بالیاں پہنائے۔ اور ”مخلدون“ جب
 آدمی زیادہ عمر کا ہو جائے لیکن بوڑھا نہ لگتا ہو اور اسی طرح سعید بن جبہ رحمۃ اللہ علیہ بھی
 ”مخلدون“ کا معنی (مقرطون) بالیاں پہنے ہوئے کرتے ہیں، مذکورہ حضرات نے اس پر دو دو
 دلیلیں پیش کی ہیں (۱) ایک یہ کہ خلود (ہیشگی) تو ہر جنت میں داخل ہونے والے شخص کے

لئے ثابت ہے۔ یہاں پر یہ ضروری ہے کہ یہ ولدان ایسے خلود سے موصوف ہوں جو انہی کے ساتھ مختص ہو چنانچہ یہ تخصیص بالیوں سے ہوگی۔

(۲) دوسری دلیل شاعر کا درج ذیل شعر ہے۔

مخلدات بالاجین کائنا اعجازھن روا کد الکشابان

پہلے والے حضرات کا کہنا ہے کہ خلد کا معنی بقاء ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”مخلدون“ کا معنی یہ ہے کہ وہ غلمان مریں گے نہیں اس بارے میں ترجمان القرآن کا قول جو کہ مجاہد کلبی اور مقاتل کا قول ہے کافی ہے یہ حضرات کہتے ہیں کہ جنت کے خادمین (غلمان) نہ عمر رسیدہ ہوں گے نہ بوڑھے ہوں گے اور نہ ان میں کسی قسم کی تبدیلی آئے گی۔ ایک جماعت نے ان دونوں قولوں کو جمع کیا ہے۔ وہ اس طرح کہ وہ ایسے لڑکے ہوں گے جن پر بڑھاپا نہیں آئے گا اور ان کے کانوں میں بالیاں ہوں گی۔ لہذا جنہوں نے ”مخلدون“ کا معنی ”مقرطون“ سے کیا ہے ان کا یہی مطلب ہے۔ یعنی ولدان کا ہونا ان کے لئے لازمی امر ہے۔ پھر اللہ نے تعالیٰ ان کو بکھرے ہوئے موتیوں سے تشبیہ دی موتیوں کے ساتھ تشبیہ تو سفیدی اور خوبصورت ڈیل ڈول میں ہے اور ان کے بکھرے ہوئے ہونے میں دو فائدے ہیں۔ ایک تو بکھرا ہوا ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ کہ وہ اہل جنت کی خدمت اور حواج کے پورا کرنے میں مشغول ہوں گے۔ معطل اور فارغ نہیں ہوں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ موتی جب بکھرے ہوئے ہوں اور پھر خاص طور پر سونے یا ریشم کے بچھونے اور فرش پر تو بہت دلکش اور خوبصورت دکھائی دیتے ہیں بخلاف اس صورت کے کہ یہ ایک ہی جگہ جمع کئے گئے پڑے ہوں۔

پھر ان لڑکوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا لڑکے دنیا والے ہوں گے یا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کو جنت میں پیدا فرمایا ہو گا چنانچہ اس میں دو قول ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ان مسلمانوں کی اولاد میں ہوں گے جو اس حال میں مرے ہوں گے کہ جن کی نہ کوئی نیکی ہوگی اور نہ برائی تو وہ خود اور انکے بچے اہل جنت کے خدام ہوں گے کیونکہ جنت میں ولادت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”ولدان مخلدون“ کی

تفسیر میں حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نہ نیکیاں ہوں گی اور نہ برائیاں جس پر ان کو عذاب دیا جائے اس وجہ سے ان کو اس کام پر رکھا جائے گا۔ اس قول کے قائلین میں بعض کا کہنا ہے کہ یہ مشرکین کے بچے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لئے خدام بنایا ہو گا۔ انہوں نے ذیل کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔

عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سألت ربی اللہین من ذریۃ البشر أن یعذبہم فاعطانیہم فہم خدم اہل الجنۃ .
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے غافل لوگوں کی اولاد کے عذاب کے متعلق دعا مانگی (یعنی ان کو عذاب نہ دیا جائے) پس مجھے ان کے بارے میں دیا گیا (یعنی میری دعا قبول کی گئی) کہ وہ اہل جنت کے خدام ہوں گے۔

ابن قویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "الماہوت" لہوٹ عن الشی " سے ہے جب آپ کسی چیز سے غفلت برتتے اور "لہوت" سے نہیں ہے۔ (جس کے معنی ہے کھیل اور بہلاوے کے آتے ہیں) پہلے قول والے حضرات یہ نہیں کہتے کہ یہ لڑکے جنت میں جنتیوں سے پیدا ہوئے ہوں گے بلکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو ایسے خاص انداز سے پیدا فرمائیں گے جیسے حوروں کو پیدا کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ باقی رہا دنیا کے لڑکوں کا مسئلہ تو وہ لوگ قیامت کے دن تینتیس سال کے ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں میں سے جو مرے چھوٹا ہو یا بڑا جنت میں تینتیس سال کی عمر میں لوٹا یا جائے گا اس سے اوپر ان کی عمر کبھی زیادہ نہیں ہوگی اور یہی حال جہنمیوں کا ہوگا۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ لڑکے حوروں کی طرح جنت ہی میں پیدا کئے گئے ہوں گے اہل جنت کے خدام اور غلمان ہوں گے جیسے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اور پھرتے ہیں ان کے پاس چھو کرے ان کے گویا وہ موتی ہیں غلاف کے اندر۔

چنانچہ یہ جنتیوں کی اولاد کے علاوہ ہوں گے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی مہربانی ہوگی کہ جنتیوں کے لڑکوں کو ان کے ساتھ مخدومین بنا دیں گے جنتیوں کے لڑکوں کو ان کے لئے خدام نہیں بنایا جائے گا۔ اس بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں گزر چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

أنا اول الناس حزواً إذا بعثوا (وغیہ) میں تمام لوگوں میں پہلا شخص ہوں گا نکلنے
ویطوف علی ألف خادم کانہم میں جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا
لؤلؤمکنون۔ (آگے حدیث میں ہے) کہ چھپے ہوئے
موتیوں کی طرح ایک ہزار خدام میرے گرد
(خدمت کے لئے) چکر لگائیں گے۔

”مکنون“ کا معنی ہے چھپا ہوا جو لوگوں کے ہاتھوں میں استعمال سے محفوظ ہو۔ جب آپ لفظ ”ولدان“ اور لفظ ”یطوف علیہم“ میں غور فرمائیں گے اور اس کے ارشاد (ویطوف علیہم غلمان لہم) سوچ لیں گے اور پھر اس کو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ابھی گزرنے والی حدیث سے ملا لیں گے تو آپ سمجھ لیں گے کہ یہ ”ولدان“ ایسے لڑکے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کے لئے خاص انداز سے ان کی خدمت کے لئے پیدا فرمائیں گے۔
واللہ اعلم۔

ترینواں باب

اہل جنت کی بیویوں کی اقسام اور اوصاف اور ان کا وہ ظاہری اور باطنی حسن و جمال جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

وربشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات
 أن لهم جنت تجری من تحتها الأنهر
 كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا
 هذا الذی رزقنا من قبل وأتوا به
 متشابها ولهم فیها أزواج مطهرة و هم
 فیها خالدون . (سورة البقرة ۲۵)

اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے کہ ان کے واسطے باغ ہیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں جب ملے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے اور دیئے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کی اور ان کے لئے وہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ اور وہ وہیں ہمیشہ رہیں گے۔

بشارت دینے والی ذات کی عظمت اور اسکے مرتبے اور صداقت میں غور فرمائیں کہ کتنی بڑی ذات ہیں اور جس ہستی کو یہ بشارت دے کر بھیجا وہ کتنی بڑی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بدنی نعمتوں کی بشارت باغوں نہروں اور پھلوں سے دی اور نفس کی نعمتوں کی بشارت پاکیزہ بیویوں سے دی اور دل کی نعمتوں اور آنکھوں کی ٹھنڈک کی بشارت نہ ختم ہونے والی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سے دی۔ ”الازواج“ ”زوج“ کی جمع ہے۔ میاں بیوی میں سے ہر ایک دوسرے کا زوج (جوڑا) ہے۔ یہی قریش کی فصیح ترین لغت ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا

- جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ”سکن انت وزوجک الجنة“ بعض عرب ”زوجتہ“ کہتے ہیں لیکن یہ نادر ہے ”مطہرۃ“ جس طرح واحد کی صفت آتی ہے تو اسی طرح جماعت کے قائم مقام ہو کر جمع تکثیر کی صفت بھی آتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”ومساکن طہبتہ“ ”وقری طاہرۃ“ وغیر اس طرح دوسرے عبارات ”ومطہرۃ“ کا معنی یہ ہے کہ وہ عورتیں حیض، نفاس، پیشاب، پاخانہ تھوک اور ان تمام گندگیوں سے (جو دنیا کی عورتوں میں ہوتی ہیں سے) پاک ہوں گی اور اسی طرح ان کا باطن بھی برے اخلاق اور صفات مذمومہ سے پاک ہو گا اور ان کی زبانیں بے ہودہ گوئی اور گالیوں سے پاک ہوں گی اور ان کی آنکھیں اپنے شوہر کے علاوہ غیر کی طرف دیکھنے سے پاک ہوں گی اور ان کے کپڑے میل کچیل سے پاک ہوں گے۔

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے (ولہم فیہا زواج مطہرۃ) کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں حیض، پاخانہ اور نجاست اور تھوک سے پاک ہوں گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی فرماتے ہیں کہ وہ حیض اور دوسری گندگیوں سے پاک ہوں گی۔ مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں نہ پیشاب کریں گی اور نہ پاخانہ اور نہ ان سے مذی نکلے گی اور نہ منی اور نہ ان کو حیض آئے گا اور نہ وہ تھوکیں گی اور نہ وہ کھانسیں گی اور نہ بچے جنیں گی۔

قنادہ فرماتے ہیں کہ وہ گناہ اور حیض سے پاک ہوں گی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیشاب، پاخانہ، گندگی اور گناہ سے پاک کیا ہو گا۔ عبدالرحمن بن زید فرماتے ہیں، ”مطہرۃ“ یعنی پاکیزہ عورتیں وہ ہیں جو حائضہ نہیں بنیں گی۔ اور دنیا کی عورتیں پاکیزہ نہیں ہیں اور کیا آپ ان کو نہیں دیکھتے کہ ان کو خون آتا ہے جس کی وجہ سے وہ نماز اور روزے کو چھوڑ دیتی ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت حواء علیہا السلام بھی اسی طرح پاکیزہ پیدا کی گئی تھی لیکن جب سے اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے پاکیزہ پیدا کیا تھا عنقریب میں تجھے خون والا بناؤں گا جیسا کہ یہ درخت (جس کے کھانے سے ان کو منع کیا گیا تھا) خون پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

پیشک ڈرنے والے گھر میں ہیں چین کے

ان المتقين في مقام امين في جنات
وعيون يلبسون من سندس واستبرق
متقابلين كذالك وزوجنا هم بحور
عين يدعون فيها بكل فاكهة امنين
لا يذوقون فيها الموت الا الموتة
الاولى ووقاهم عذاب الجحيم
(سورة الدخان ۵۱-۵۶)

باغوں میں اور چشموں میں پہنتے ہیں پوشاک
ریشمی پتی اور گاڑھی ایک دوسرے کے
سامنے اسی طرح ہو گا اور بیاہ دیں ہم نے ان
کو حوریں بڑی آنکھوں والیاں منگوائیں گے
وہاں ہر میوہ دل جمعی سے نہ چکھیں گے وہاں
موت کو مگر جو پہلے آچکی اور بچایا ان کو
دوزخ کے عذاب سے۔

یعنی جنتیوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے خوشگوار ٹھکانا اور ہر ناگوار چیز سے حصول امن کو
جمع فرمایا۔ اور یہ کہ جنت پھلوں اور نہروں خوبصورت لباس اور کمال عشرت اور حوروں سے
تلذذ اور امن کے ساتھ مضرت سے پاک تمام قسم کے میوؤں کی طلب پر مشتمل ہوگی۔ اور ان
نعمتوں کا اختتام اس پر کیا کہ یہ لوگ جنت میں موت نہیں چکھیں گے۔

”حور“ ”حوراء“ کی جمع ہے جو نوجوان حسین و جمیل سخت سیاہ آنکھوں والی عورت کو
کہتے ہیں زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ حوراء وہ ہے جس کی طرف دیکھنے میں نگاہ بوجھ محسوس کرتا
ہو اور ”عین“ سے مراد خوبصورت آنکھوں والیاں ہیں۔

مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حوراء اس کو کہتے ہیں جس کی طرف چڑے کی نرمی اور رنگ
کی صفائی کے وجہ سے دیکھنے میں مشقت ہو۔ حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حورا وہ عورت ہوگی جس
کی آنکھوں کی سیاہی سخت کالی اور سفیدی سخت سفید ہو۔ اس لفظ کے اشتقاق میں اختلاف ہے
ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کلام عرب میں ”حور“ سفید کو کہتے ہیں۔ اور قتادہ نے
بھی اسی طرح کہا ہے کہ حور کا معنی سفیدی ہے۔ مقاتل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حور کے معنی سفید
چہرے کے ہیں۔ مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حور عین وہ ہیں جن کے کپڑوں کے اندر سے گودا ظاہر
ہونے کی وجہ سے ان کی طرف دیکھنے میں مشقت ہو۔ اور دیکھنے والا نرمی اور رنگ کی صفائی کی
وجہ سے ان کے جگر میں اپنا چہرہ ایسا دیکھے گا جیسے کہ شیشے میں دیکھتا ہے۔ یہ بات اتفاق ہے اور
لفظ حور ”حیرة“ سے مشتق نہیں ہے۔ حور کا اصل معنی سفیدی ہے۔

اور ”تھویر“ کا معنی ”تہہض“ (سفید کرنا) ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ حور سے ماخوذ ہے جو آنکھوں میں ہوتا ہے یعنی سخت سفیدی اور سخت سیاہی والی آنکھیں چنانچہ حور دو چیزوں (سخت سیاہی اور سخت سفیدی) کو متضمن ہے۔ صحاح میں ہے کہ حور آنکھ میں سخت سفیدی کا سخت سیاہی میں ہونے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں ”مرآة حوراء“ ابو عمرو کہتے ہیں کہ حور کا معنی یہ ہے ہرنیوں اور بیلوں کی طرح پوری آنکھ کالی ہو جائے۔ اور نبی آدم میں کوئی حور نہیں ہے۔ اور ”مرآة حورالعین“ جو کہا جاتا ہے وہ اس لئے کہ وہ عورتیں بھی ہرنیوں اور گائے بیلوں سے مشابہت رکھتی ہیں۔ اصحیحی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ آنکھ میں حور کیا چیز ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ابو عمرو نے حور کو صرف سیاہی کی طرف منسوب کر کے اس لفظ کے اشتقاق میں اہل لغت کی مخالفت کی اور بعض دوسرے لوگوں نے اس کو صرف سفیدی یا سیاہی میں سفیدی کی طرف منسوب کیا ہے۔ آنکھ میں حور کا معنی یہ ہے کہ اس میں سفیدی اور سیاہی کا حسن جمع ہو چکا ہو اور ان دونوں میں تناسب بھی ہے اور ان میں سے ہر ایک دوسرے سے حسن حاصل کرتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے ”عین حوراء“ جب سفیدی اپنی سفیدی کو اور سیاہی اپنی سیاہی کو بڑھا دے تیز کر دے اور کسی عورت کو اس وقت تک حوراء سے موسوم نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کی آنکھوں کے حسن کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کا رنگ سفید نہ ہو ”عین“ جمع ہے ”عہناء“ کی جس کا معنی ہے عورتوں میں بڑی آنکھوں والی عورت اور کہا جاتا ہے ”رجل اعین“ جب وہ بڑی آنکھوں والا ہو ”مرآة عہناء“ جمع عین ہے صحیح بات یہ ہے کہ ”عین“ وہ عورتیں کہلاتی ہیں جن کی آنکھوں میں حسن اور ملاحظت (نمکینی) کی صفات جمع ہوں۔ مقاتل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”عین“ کا معنی ہے خوبصورت آنکھوں والی عورتیں اور عورت کے محاسن میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی آنکھیں لمبائی میں کشادہ ہوں اور طول میں آنکھ کی تنگی عورت میں عیب شمار ہوتا ہے۔ عورت میں چار مقامات کے اندر منہ، کان اور ناک کے سوراخوں اور شرمگاہ میں تنگی مطلوب اور اچھی ہے۔

اور چار مقامات یعنی چہرے اور سینے آنکھوں کی سفیدی اور بالوں میں کشادگی مطلوب ہے اور چار مقامات یعنی آنکھ اور گردن کے قریب پیٹھ کے بالائی حصے میں سیاہی مطلوب ہے

اور چار مقامات یعنی رنگ اور مانگ کتان، دانتوں اور آنکھ میں سفیدی مطلوب ہے۔ اور چار مقامات آنکھوں، آبروں اور پلکوں اور بالوں میں سیاہی مقصود اور اچھی ہے اور چار مقامات میں یعنی قد، گردن، بالوں اور انگلیوں میں طول اور لمبائی اچھی اور خوبصورتی مطلوب ہے اور چار مقامات میں یعنی زبان اور ہاتھوں اور پیروں اور آنکھوں میں پستی اور کوتاہی اچھی ہے یعنی اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں اور زبان کثرت کلام اور زبان درازی سے محفوظ ہو اور ہاتھ شوہر کی ناپسندیدہ چیز کے لینے اور خرچ کرنے سے کوتاہ ہو۔ اور عورت کے چار مقامات میں یعنی کمر میں مانگ میں آبروں اور ناک میں باریکی اچھی اور باعث حسن ہے۔

فصل :

(۱) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”وزوجنا ہم بحور عین“ (ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے جنتیوں کا نکاح کریں گے) اس کی تفسیر میں ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم ان کو ایسا جوڑا جوڑا بنا دیں گے جیسا کہ ہم نے دو دو کر کے ایک چپل کو دو سرے کا جوڑا بنایا۔ یونس فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم ان کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور یہ عقد تزویج سے نہیں ہے اور فرمایا کہ عرب یوں نہیں کہتے ہیں ”تزوجت بہا“ بلکہ عرب لوگ کہتے ہیں ”تزوجا“ ابن نصر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم بھی یونس کے قول پر ہی دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

فلما قضی زید منها وطرا زوجنا کھا پھر جب زید تمام کر چکا اس عورت سے اپنی
(سورۃ الاحزاب ۳۷) غرض ہم نے اس کو تیری نکاح میں دے دیا۔

اگر ”تزوج بہا“ ٹھیک ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ”زوجنا بھا“ ابن سلام فرماتے ہیں کہ بنو تمیم اس طرح کہتے ہیں ”تزوجت امرأة وتزوجت بہا“ کسائی نے بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔ الا زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرب کہا کرتے ہیں ”زوجت امرأة وتزوجت امرأة“ لیکن ”تزوجت بامرأة“ کلام عرب میں نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد (زوجنا ہم بحور عین) کے معنی ہیں کہ ان کو ان کے ساتھ جوڑا بنا دیں گے۔ فراء فرماتے ہیں یہ ازد و شہداء کی لغت کے

مطابق ہے۔ واحدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بارے میں ابو عبیدہ کا قول سب سے بہتر ہے۔ اس لئے کہ انہوں ”تزوج“ کے معنی (جعل الشی زوجا) کسی چیز کو دوسرے کا جوڑا بنانے کے لئے ہیں۔ عقد نکاح کے معنی میں نہیں لیا ہے۔ اس وجہ سے یہ کہنا جائز ہے (کان فردا فزوجتہ باخر) (وہ اکیلا تھا تو میں نے دوسرے کو اس کا جوڑا بنایا) جیسے کہا جاتا ہے (شفعتہ باخر) (میں نے دوسرے سے اسکو جفت بنایا) اور جن کے ہاں باء داخل کرنا ممنوع ہے وہ اس وقت ہے جبکہ تزویج سے مراد عقد نکاح ہو۔

میں کہتا ہوں کہ یہاں دونوں باتوں کا اکٹھا مراد لینا بھی ممنوع نہیں۔ پس لفظ تزویج نکاح پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ مجاہد علیہ السلام نے آیت کا معنی بیان کیا ہے (انکم ہنا ہم بالحوار) اور لفظ باء اقتران اور ضم پر دلالت کرتا ہے۔ اس طرح کرنا باء کے حذف سے زیادہ بلاغت کے مطابق ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

فیہن قاصرات الطرف لم یطمثهن ان میں عورتیں ہیں نیچی نگاہ والیاں نہیں انس قبلہم ولا جان ○ فباى الاء قربت کی ان سے کسی آدمی نے ان سے پہلے ربکما تکذبان ○ کأنهن الیاقوت اور نہ کسی جن نے پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب والمرجان. (سورة الرحمن ۵۶-۵۸) کی جھٹلاؤ گے وہ کیسی جیسے کہ لعل اور مونگا۔ اللہ تعالیٰ نے حوروں کی صفت میں تین جگہ (قاصرات الطرف) ذکر فرمایا ہے ایک تو یہ ہے دوسری جگہ سورة صافات میں (وعندہم قاصرات الطرف عین) اور انکے پاس ہیں عورتیں نیچی نگاہ رکھنے والیاں۔ اور تیسری جگہ سورة ص میں (وعندہم قاصرات الطرف اتراب) اور ان کے پاس عورتیں ہیں نیچی نگاہ والیاں ہم عمر۔

سب مفسرین اس پر متفق ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان عورتوں کی نگاہیں صرف اور صرف اپنی شوہروں پر جمی رہیں گی غیر کی طرف کبھی بھی نگاہ نہیں اٹھائیں گی اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے اپنی شوہروں کی نگاہیں اپنی اوپر جمائے رکھیں گی۔ چنانچہ انکا حسن و جمال ان کے شوہروں کو غیر کی طرف دیکھنے نہیں دے گا۔ یہ توجیہ معنی کے اعتبار سے توجیح ہے لیکن لفظ کے اعتبار سے ٹھیک نہیں۔ اس لئے کہ

(قاصرات) صفت ہے فاعل کی طرف مضاف ہے۔ اور اس کا اصل ہے (قاصر طرفہن) یعنی اپنی نگاہوں کو بند رکھنے والی ہوں گی غیر کی طرف تجاوز کرنے والی نہیں ہوں گی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ (قاصرات اطراف) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنی نگاہیں اپنی شوہروں پر بند رکھیں گی اپنی خاوندوں کے علاوہ کوئی ان کا مطمح نظر نہیں ہوگا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو اپنی شوہروں پر بند رکھیں گی غیر کا ارادہ ہی نہیں کریں گی اور فرمایا کہ خدا کی قسم نہ وہ اپنی زینت کو دکھلاتی پھریں گی اور نہ جھانک جھانک کر دیکھنے والی ہوں گی منصور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ وہ اپنی نظروں، دلوں اور جانوں کو اپنی شوہروں تک محدود رکھیں گی۔ غیر کا ارادہ ہی نہیں کریں گی۔ (اتراب) ”ترب“ کی جمع ہے۔ انسان کے ہم عمر کو کہتے ہیں۔ ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابواسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سب ہم جولی اور ایک عمر کی ہوں گی ابن عباس رضی اللہ عنہما اور تمام مفسرین کہتے ہیں کہ وہ سب تینتیس سال کی عمر میں مساوی ہوں گی۔

مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ (اتراب) کا معنی امثال ہے (یعنی ایک جیسے) ابواسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں غایت شباب اور حسن میں ہوں گی۔ انسان کے ہم عمر کو اس کا قرن اور ترب اس لئے کہا گیا کہ انہوں نے زمین کی مٹی کو ایک ساتھ چھویا۔ ان کے ہم عمر ہونے کی خبر اس لئے دی تاکہ یہ ظاہر ہو جائے ان میں کوئی بوڑھی نہیں ہوگی جس کا حسن جاچکا ہو اور نہ ان میں کوئی اتنی چھوٹی عمر کی ہوگی جو صحبت کی طاقت نہ رکھتی ہو۔ بخلاف مردوں کے کہ ان میں لڑکے بھی ہوں گے جو کہ انکے خدام ہوں گے (فہن) کی ضمیر کے مرجع میں اختلاف ہے مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے اس کا مرجع وہ دو جنتیں ہیں جو محلات بالا خانوں اور خیموں پر مشتمل ہیں۔ مفسرین کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ اس کا مرجع فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں مذکور ہیں

متكئين على فرش بطاننها من تكيه لگائے بیٹھے پھونوں پر جن کے استر تافتے استبرق۔ (سورة الرحمن ۵۴) کے۔

(فہن) میں لفظ فی بمعنی علی کے ہے۔ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں

مذکور ہیں۔

لم یطمئنه من انس قبلہم ولا جان - (سورۃ الرحمن ۵۶)

نہیں قربت کی ان سے کسی آدمی نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔

ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ (لم یطمئنه) کے معنی (لم یمسہن) ہے۔ کہا جاتا ہے

(ما طمئ هذا البعور جبل قطای ماسہ) یونس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عرب یوں کہتے ہیں

(هذا جبل ما طمئہ جبل قطای ماسہ) یعنی یہ ایسا اونٹ ہے جس کو کبھی رسی نہیں لگی (فراء

فرماتے ہیں کہ طمئ کا معنی افتضاض ہے جو کہ خون کے حیض کی وجہ سے صحبت کو کہتے ہیں۔

اور طمئ خون کو کہتے ہیں اس میں دو لغت ہیں ”طمئ یطمئ و یطمئ“ لہٹ

علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے ”طمئت الجاریتہ“ جب وہ اس کی بکارت زائل کر دے اور

”طامت“ ان کی لغت میں حائضہ عورت کو کہتے ہیں۔ ابوالہرثم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورت

کے لئے کہا جاتا ہے ”طمئت طمئ“ جب کو جماع سے حیض آئے اور ”طمئت“ بروزن

(فعلات) ہے اور جس کو پہلی مرتبہ حیض آئے اور اس کو (طامت) کہتے ہیں فرزدق شاعر کا

شعر ہے۔

جر جن الالی لم یطمئنه قبلی وھن اصح من بیض النعام

اور جن عورتوں کو نہ چھویا گیا ہو تو مفسرین ان کے لئے ”لم یطامن“ ”ولم

یغشمہن“ ”ولم یجامعہن“ (ان سے وطنی نہیں کی ان کو نہیں ڈھانپا ان سے جماع نہیں کیا)

کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ حضرات مفسرین ان عورتوں کے بارے میں مختلف رائے رکھتے

ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو جنت ہی میں پیدا کی گئی ہیں یعنی حوریں اور بعض

فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہی کی عورتیں ہوں گی جن کو دوبارہ باکرہ اور کنواری بنا کر پیدا کیا جائے گا۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق (سورۃ واقعہ میں) بیان کیا ہے۔

شبعی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی یہ وہ عورتیں ہوں گی جو دوبارہ نئے انداز سے پیدا

کرنے کے بعد کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ مقاتل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ جنت ہی

میں پیدا کی گئی ہوں گی اس لئے کسی کے ہاتھ لگانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ عطاء علیہ السلام ابن عباس

رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ یہ وہ لڑکیاں (آدم کی بیٹیاں) ہوں گی جو حالت بکر میں مرچکی ہوں گی۔ کلبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب دوبارہ انکو خاص انداز میں پیدا کیا گیا تو اس کے بعد کسی جن اور انسان نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن کا ظاہر یہ بتلا رہا ہے کہ یہ دنیا کی عورتیں نہیں ہوں گی بلکہ یہ حوریں ہوں گی کیونکہ دنیا کی عورتوں کو انسانوں نے ہاتھ لگایا ہے (یا مجامعت کی ہے) اور جنات کی عورتوں کو جنوں نے ہاتھ لگایا ہے۔ آیت اس پر دلالت کرتی ہے۔ ابو اسحاق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ جن بھی ایسے ہی عورتوں سے صحبت کرتے ہیں جیسے انسان کرتے ہیں۔ اور آیت اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ یہ حوریں جنت میں پیدا کی گئی ہیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لئے جنتی نعمتیں میوے پھل نہریں لباس وغیرہ تیار کر رکھی ہیں۔

منجملہ ان میں سے یہ حوریں بھی ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد والی آیت اس پر دلالت کرتی ہے۔

حور مقصورات فی الغمام (سورۃ حوریں ہیں رکی رہنے والیاں خیموں میں۔
الرحمن ۷۲)

امام احمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حوریں صور پھونکتے وقت نہیں مریں گی اس لئے کہ وہ باقی رہنے کے لئے پیدا کی گئی ہیں اور آیت میں اس بات کی دلیل موجود ہے۔ جس کی طرف جمہور گئے ہیں یعنی مومن جنات جنت میں ہوں گے جیسا کہ کافر جنات جہنم میں ہوں گے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اپنی صحیح بخاری میں اس طرح باب باندھا ہے۔ (باب ثواب الجن وعقابہم) (جنوں کے ثواب اور عذاب کا باب) اور تمام سلف نے اس پر تصریح کی ہے۔ ضرورہ ابن حبیب فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ کیا جنوں کو ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں اور پھر یہ آیت تلاوت کی اور پھر فرمایا کہ انسان عورتیں انسان مردوں کے لئے ہیں اور جنی عورتیں جن مردوں کے لئے ہیں مجاہد رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب آدمی جماع کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے تو جن اس کے آلہ تناسل میں گھس کر اس کے ساتھ جماع میں شریک ہو جاتے ہیں اور (قبلاہم) میں ضمیر (متکلمون) کے دو معنوں کی طرف راجع ہے جو کہ ان عورتوں کے شوہر

ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

كَانَ مِنْ الْيَاقُوتِ وَالْمَرْجَانِ . (سورۃ وہ کیسی جیسے کہ لعل اور مونگا
الر حمن ۵۴)

حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عام مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حوروں کو رنگ کی صفائی اور سفیدی میں یاقوت اور مرجان سے تشبیہ دی۔ اور عبد اللہ کا قول اس پر ولات کرتا ہے کہ جنتی عورتوں میں سے ایک عورت ریشم کے ستر جوڑے پہنے گی اس کے باوجود اس کی پنڈلی کی سفیدی اس کے اندر سے دکھائی دے گی۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا۔ (کان من الیاقوت والمرجان) اور فرمایا کہ خبردار یاقوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر آپ اس میں دھاگہ داخل کر دیں اور پھر اس کو صاف کریں تو وہ دھاگہ پتھر کے اندر سے دکھائی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات میں بیان فرمایا (حور مقصورات فی الحجیام) مقصورات کے معنی محبوسات (بند کئے گئے) کے ہیں۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ وہ خیموں کے اندر پردے میں ہوں گی اور اسی طرح فرمایا کہ اس میں ایک دو سرا معنی بھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عورتیں اپنے شوہروں کے لئے بند ہوں گی وہ خیموں میں ہوں گی ان کے علاوہ کوئی اور ان کو نہیں دیکھ سکے گا اور یہی مقصد ان لوگوں کے قول کا بھی ہے جنہوں نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ عورتیں اپنے شوہروں پر مقصور ہوں گی غیر کا بارادہ ہی نہیں کریں گی اور نہ ان کے علاوہ کسی کو دیکھیں گی چنانچہ فراء علیہ السلام نے اس کو ذکر کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہی معنی (قاصرات الطرف) کا بھی ہے۔ لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہ بذات خود نگاہیں نیچی رکھنے والی ہیں اور ان کی نگاہیں نیچی کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد (فی الحجیام) اس قول کے مطابق (حور) کی صفت واقع ہے (یعنی حسن فی الحجیام) اور ”مقصورات“ کا معمول نہیں ہے۔ گویا کہ اس قول والوں نے اس کی تفسیر یوں کی کہ وہ عورتیں خیموں میں بند ہوں گی بالا خانوں اور باغوں کی طرف جا کر اس سے جدا نہیں ہوں گی۔

پہلے قول والے اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو پردے دار اور محفوظ عورتوں کی صفت سے متصف کیا ہے اور تعریف اور وصف کا یہ بہت ہی اچھا طریقہ

ہے چنانچہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ان خیموں سے بالا خانوں اور باغوں کی طرف جانے کے لئے بالکل جدا نہیں ہوں گی۔ جیسا کہ بادشاہوں کی عورتوں اور کم سے کم درجے والے لوگوں کی پردے دار عورتوں کو سفر اور باغات میں سیر و تفریح کے لئے جانے سے منع نہیں کیا جاتا ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موتیوں کے خیموں میں ان کے دل اپنے شوہروں پر مقصور ہوں گے اور پہلے والی عورتوں کی صفت میں نگاہوں کا نیچے رکھنا گذر چکا ہے اور ان کی صفات میں مقصورات بیان ہوا اور دونوں قسموں کے لئے یہ اوصاف کمال کی ہیں۔ چنانچہ وہ صفت شوہروں کے علاوہ سے نگاہوں کا نیچے رکھنا ہے اور یہ صفت صرف مردوں کے سامنے زیب و زینت ظاہر کرنے کے لئے ہے۔

فصل :

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (فہن خیرات حسان) ان سب باغوں میں اچھی عورتیں ہیں خوبصورت خیرات (خیرۃ) کی جمع ہے جو کہ پر تربتہ ملی بہت عمدہ نرم عورت کو کہتے ہیں۔ اور ”حسان“ حسنۃ کی جمع ہے۔ یعنی وہ بہترین صفات اخلاق اور عادات والیاں ہوں گی حسین چہروں والی ہوں گی عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لئے بہت خیر والی عمدہ عورتیں ہوں گی اور ہر عورت کا ایک خیمہ ہو گا اور ہر خیمے کے چار دروازے ہوں گے ہر دروازے سے ایک فرشتہ ایسا ہدیہ اور تحفہ لیکر داخل ہو گا جو اس سے پہلے ان کو نہیں ملا ہو گا وہ عورتیں نہ غمگین ہوں گی اور نہ ان کے منہ سے بدبو نکلے گی اور نہ وہ غیر کی طرف جھانک کر دیکھیں گی۔

فصل: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

انا أنشأنا هن انشاءً فجعلنهن ابكاراً ہم نے اٹھایا ان عورتوں کو ایک اچھی اٹھان پر
عرباً أتراباً لأصحاب الیمین۔ پھر کیا ان کو کنواریاں، پیار دلانے والیاں ہم
(سورۃ الواقعہ ۳۵-۳۸)

ضمیر کو ان عورتوں کی طرف لوٹایا ہے جن کا بھی ذکر نہیں چل رہا اس لئے کہ ”فرش“ ان پر دلالت کرتا ہے کیونکہ وہ فرشیں ان کی جگہ ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا

ارشاد (دفرش مرفوعہ) عورتوں سے کنایہ ہے جیسا کہ شیشے عورتوں سے کنایہ لیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد (مرفوعہ) اس کا انکار کرتا ہے۔

ہاں البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہاں رفع سے مراد مرتبے کی رفعت اور بلندی ہو، فرشوں اور اس کی بلندی کے بارے میں خود نبی کریم ﷺ کی تفسیر گذر چکی ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ ”فرش“ سے مراد خود فرشیں ہی ہیں اور عورتوں پر بھی دلالت کرتا ہے کیونکہ غالباً فرشیں ہی ان کا محل ہیں۔ سعید بن جبیر اور قتادہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ (انا انشانا هن انشاء) کا معنی ہے (خلاقنا هن خلاقا جدیدا) یعنی ہم نئے انداز سے ان کو پیدا کریں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آدمی عورتیں ہیں۔ کلبی رضی اللہ عنہ اور مقاتل رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا کی بوڑھی اور ادھیڑ عمر عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو دنیا میں پہلی مرتبہ پیدا کرنے اور بڑھاپے کے بعد نئے انداز میں پیدا کریں گے۔ اس تفسیر کی تائید ایک حدیث مرفوعہ سے بھی ہوتی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اس سے مراد کمزور نظر کیچڑ والی آنکھوں والی تمہاری بوڑھی عورتیں ہیں (جن کو اللہ تعالیٰ نئے انداز سے پیدا فرمائیں گے) عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے نبی کریم ﷺ انکے پاس اس حال میں تشریف لائیں کہ ان کے پاس ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میری ایک خالہ ہے لیکن جنت میں بوڑھی داخل نہ ہوگی۔ اس سے بڑھیا پر جو کچھ اللہ نے چاہا گزر چکا (یعنی اس بات سے اس کو تکلیف پہنچی) تو نبی کریم ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ (انا انشانا هن انشاء) یعنی ہم ان کو ایک خاص نئے انداز سے اٹھائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ ننگے پیر ننگے بدن اور غیر مختون ہوں گے اور سب سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ پھر آپ نے مذکورہ آیت تلاوت فرمائی۔ سلمہ بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے (انا انشانا هن انشاء) کی تفسیر میں سنا آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد دنیا کی ثعب اور باکرہ عورتیں ہیں (جن کے متعلق یہ ارشاد ہے)۔

فضالہ بن الحسن سے فرماتے ہیں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جنت میں بڑھیا داخل نہیں

ہوں گی (یہ سن کر) بڑھیا رونی لگی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا اس کو بتا دو کہ یہ اس دن بوڑھی نہیں ہوگی بلکہ اس دن جوان ہوگی اس لئے کہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے

انا انشاناھن انشاء

عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک انصاری بڑھیا نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے جنت میں داخل فرمادیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں تو بوڑھیاں داخل نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد آپ ﷺ تشریف لے گئے نماز ادا کی اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف لوٹے تو عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ کی اس بات سے تو بڑھیا سخت تکلیف اور مشقت میں پڑ گئی، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بات اسی طرح ہے (یعنی جس طرح میں نے ارشاد فرمایا) اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جب بوڑھی عورتوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے تو ان کو باکرہ بنا دیں گے۔ مقاتل ﷺ نے یہاں ایک دوسرا قول بیان کیا ہے جس کو زجاج نے بھی اختیار کیا ہے وہ یہ کہ اس سے مراد حور عین ہیں۔ ایک قول (جو قیل سے ذکر کیا ہے) یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتیوں کے لئے خاص طور پر بغیر ولادت کے بنایا ہوگا اور ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت ہی میں پیدا فرمایا ہوگا (یعنی وہ دنیا کی عورتیں نہیں ہوں گی) اس پر کئی وجوہات دلالت کرتی ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے (جنت کی طرف) سابقین کے حق میں ارشاد فرمایا۔

يعطوف عليهم ولدان مخلدون لئے پھرتے ہیں ان کے پاس لڑکے سدا رہنے
باکواب (الی قولہ) کامثال والے آبخورے اور کوزے اور پیالہ نٹھری
اللؤلؤ والمکنون۔ شراب کا جس سے نہ سرد کھے اور نہ بکواس
لگے اور میوہ جو نسا پسند کر لیں۔ اور گوشت
اڑتے جانوروں کا جس قسم کو جی چاہے
اور عورتیں بڑی آنکھوں والیاں۔

چنانچہ حق تعالیٰ نے اس آیت میں جنتیوں کی مسہریوں برتنوں میوؤں اور کھانوں اور حور عین میں سے ان کی بیویوں کا ذکر کیا پھر "صحاب یمین" کا ذکر کر کے ان کے کھانے پینے

فرشوں اور بیویوں کا بھی ذکر فرمایا۔ ظاہر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو پہلے سے جنت ہی میں پیدا کی گئی ہیں۔

(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا (انا انشاءناھن انشاء) (انشاء) سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ انشاء اول ہے ثانی نہیں ہے اس لئے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سے انشاء ثانی مراد لیتے تو اس کو ذیل ارشادات کی طرح (اولی یا آخری) سے مقید کرتے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

(وان علمہم النشاءۃ الاخری) (سورۃ) اور یہ کہ اس کے ذمہ ہے دوسری دفعہ اٹھانا (انجم ۷۷)

ولقد علمتم النشاءۃ الاولی (سورۃ) اور تم جان چکے ہو پہلی اٹھان۔ (الواقعہ ۶۲)

(۳) تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول (وکنتمھم ازواجاً ثلاثہ) سے آخر تک خطاب مردوں اور عورتیں سب کے لئے ہے۔ اور نشاء ثانیہ بھی عام ہے دونوں قسموں کو شامل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد (انا انشاءناھن انشاء) میں ظاہر یہی ہے کہ یہ انشاء ان عورتوں کے ساتھ خاص ہے (جو جنت میں پیدا کی گئی ہیں) اور آپ غور فرمائیں کہ مصدر سے اسکی تاکید کی گئی ہے (جو کہ مخصوص اور پہلے انشاء پر دلالت کرتا ہے) اور حدیث شریف تو مذکورہ بوڑھی عورتوں کا اس وصف سے متصف ہونے پر دلالت کرتی ہے تاکہ مذکورہ صفات میں حور عین کے اکیلے ہونے کا وہم پیدا نہ ہو بلکہ یہ دنیوی عورتیں ان صفات کی حوروں سے زیادہ حقدار ہیں۔ پس انشاء دو قسموں پر واقع ہوں گی۔ واللہ اعلم

اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں لفظ ”عربا“ عرب کی جمع ہے۔ جو کہ خاندوں کو پیار دلانے والی عورتوں کو کہتے ہیں۔ ابن الاعرابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرب اس عورت کو کہتے ہیں جو اپنے خاند کی فرمانبردار اور محبوبہ ہو، ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ عرب حسین و جمیل اور خاند کی فرمانبردار عورت کو کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے مراد وہ عورت ہے کہ جماع کرتے وقت شوہر اس سے خوب لطف اندوز ہوتا ہو۔ مبرد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عورت

ہے جو اپنے خاوند پر عاشق ہو۔

لبید شاعر کا شعر ہے۔

ونی الحدوج عروب غیر فاحشہ ربالرودف بعشی دونہا البصر

حضرات مفسرین رحمۃ اللہ علیہم نے ”عرب“ کے تفسیر میں (عواشق) المتعجبات ’المنجات‘
 الشکلمات ’المتعشقات‘ الغلامات ’المغنوجات‘ وغیرہ کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ امام
 بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ ”عربا“ مشق ہے اور اس کا واحد ”عروب“ ہے
 جیسے ”صبور“ اور ”صبر“ ہیں۔ اہل مکہ اس کو ”عربتہ“ کہتے ہیں اور اہل مدینہ ”عربتہ“ اور اہل
 عراق ”مشکلہ“ کہتے ہیں ”عرب“ کا معنی اپنے شوہروں کو محبوب عورتیں ہے اسی طرح اس
 کو امام بخاری نے کتاب ”بد الخلق“ میں ذکر کیا ہے اور مذکورہ عبارات امام بخاری نے کتاب
 التفسیر میں سورہ واقعہ کی تفسیر میں ذکر کئے ہیں میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ میں ان
 عورتوں کے حسن صورت اور حسن عشرت کو جمع فرمایا ہے اور عورتوں میں مقصود یہی چیزیں
 ہوتی ہیں جس سے مرد کی لذت کی تکمیل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد (لم یطہثون انفس
 قبلہم ولا جان) میں ان کے ذریعہ تکمیل لذت کا اعلان ہے۔ اس لئے کہ آدمی کو زیادہ
 لذت اس عورت میں محسوس ہوتی ہے جس کے ساتھ غیر نے صحبت نہ کی ہو اور اس کی لذت کو
 دوسروں پر فضیلت ہے۔

فصل :

() اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

ان للمتقين مفاذاً حدائق واعناباً
 وکواعب اقرباً. (سورہ نباء ۳۲)
 بیشک ڈرنے والوں کو ان کی مراد ملنی ہے باغ
 ہیں اور انگور اور نوجوان عورتیں ایک عمر کی
 سب۔

”کواعب“ ”کاعب“ کی جمع ہے۔ جس کا معنی ہے اٹھے ہوئے پستانوں والی عورت یہ
 قول قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین رحمۃ اللہ علیہم کا ہے۔ کلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس

سے مراد وہ گول پستانوں والی عورتیں ہیں جن کے پستان ابھرے ہوئے ہوں، اس لفظ کا اصلی معنی گولائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے پستان انار کی طرح اٹھے ہوئے اور ابھرے ہوئے ہوں گے۔ نیچے کی طرف ہموار نہیں ہوں گی ایسی عورتوں کو نواہد اور ”کواعب“ کہا جاتا ہے۔

فصل :

() امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سے بہتر ہے اور جنت میں ایک کمان یا ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سے بہتر ہے اور اگر ایک جنتی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو زمین اور آسمان کے درمیانی خلاء کو خوشبو سے بھر دے اور روشن کر دے اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سے بہتر ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی انکے چہرے چودھویں رات کے چاند کی مانند ہوں گے اور وہ جماعت جو اس کے بعد داخل ہوگی ان کے چہرے آسمان میں روشن ستارے کی طرح چمکدار ہوں گے۔ اور ہر آدمی کے لئے دو ایسی بیویاں ہوں گی جن کی ہڈی کا گودا گوشت کے اندر سے دکھائی دے گا۔ اور جنت میں کوئی بے جو رو مرد نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر جنتی آدمی کی حور عین میں سے دو بیویاں ہوں گی۔ ہر ایک ستر جوڑے پسنی ہو گی اس کی ہڈی کا گودا کپڑوں کے اندر سے دکھائی دے گا۔

ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ عزوجل کے ارشاد (حور عین) کے بارے میں بتلا دیجئے (یعنی اس کی تفسیر فرماد دیجئے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفید صخرہ اور سرخ زرد آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ حور بنز لہ گدھ کے پروں کے ہوں گی۔ پھر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے اللہ عزوجل کے ارشاد (کانن لولو مسکنون کے) بارے میں بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں صفائی میں اس موتی کی مانند ہوں گی جو مسکنوں کے اندر ہوں اور ابھی تک اس کو لوگوں کے ہاتھ نہ لگے

ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اللہ عزوجل کے ارشاد (فہم خیرات حسان) کے متعلق خبر دیجئے (کہ اس کا کیا مطلب ہے) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بہترین اخلاق والیاں اور حسین چہروں والی ہوں گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے اللہ عزوجل کے ارشاد (کانن بیض مکنون) کے متعلق بتلا دیجئے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی باریکی انڈے کے اندر والے چھلکے کی مانند ہوگی جس کو آپ دیکھتے ہیں یعنی انڈے کی سفیدی کی جھلی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے اللہ عزوجل کے ارشاد (عربا ترابا) کا مطلب بتلا دیجئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ وہ بوڑھی کمزور نگاہ والی عورتیں ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ بڑھاپے کے بعد پیدا کر دے گا اس حال میں کہ وہ کنواری عشق دلانے والی محبت دلانے والی ہم عمر ہوں گی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حوریں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا بلکہ دنیا کی عورتیں حور عین سے ایسی افضل ہیں جیسے ظاہر کی فضیلت باطن پر ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ دنیا کی عورتوں کو یہ فضیلت کس وجہ سے حاصل ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ فضیلت ان کو نماز، روزے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نور اور جسموں کو ریشم پسند دے گا۔ سفید رنگوں والی ہوں گی ہرے کپڑوں والی زرد زیورات والیاں ہوں گی۔ ان کے انگلیوں کا بندھن موتی ہوں گے اور ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی۔ وہ کہتی جائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ ہم ناز و نعمت میں رہنے والیاں ہیں کبھی خستہ حال نہ ہوں گی۔ ہم راضی و خوش رہنے والیاں ہیں کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ بھلائی ہو اس کے لئے جو ہمارا بن گیا اور ہم اس کے ہو گئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم میں سے ایک عورت دو شوہروں یا تین یا چار سے نکاح کر لیتی ہے اور پھر مرجاتی ہے اور جنت میں داخل ہو جاتی ہے اور ان کے شوہر بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں تو اب ان میں سے اس کا شوہر کونسا ہو گا؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ ان میں اچھے اخلاق والے کو پسند کرے تو وہ عورت کہے گی اے میرے پروردگار یہ (فلاں شوہر) ان میں سے دنیا میں میرے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے والا تھا ان سے میرا نکاح کر دے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا

اے ام سلمہ اپنے اخلاق سے دنیا اور آخرت کی بھلائی ملتی ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان اس حال میں کہ آپ صحابہ کرام کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے صور پھونکنے والی حدیث ذکر کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز میں عرض کروں گا میرے پروردگار آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا اب اہل جنت کے جنت میں داخل ہونے میں میری شفاعت قبول فرما۔ ارشاد ہو گا کہ میں نے آپ کی شفاعت قبول فرمائی اور میں نے انکو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دیدی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دیکر بھیجا ہے۔ جنتی لوگ دنیا کی نسبت جنت میں اپنے ٹھکانوں گھروں اور بیویوں کو اچھی طرح پہچانیں گے ان میں سے ایک جنتی کی بہتر بیویاں ہوں گی جن کو اللہ نے پیدا کیا ہو گا بہتر میں دو بیویاں آدم کی اولاد میں سے ہوں گی۔ ان دونوں بیویوں کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی وجہ سے ان عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت ہی میں پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ جب جنتی ان دونوں میں سے پہلی والی کے پاس جائے گا تو وہ یاقوت سے بنے ہوئے کمرے میں سونے کے پلنگ پر جو موتیوں سے مرصع ہو گا بیٹھی ہوئی ہوگی اور اس نے موٹے اور باریک ریشم کے ستر جوڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ اور جنتی جب اس کے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھے گا تو اس کو اپنا ہاتھ اس عورت کے سینے چمڑے، گوشت اور کپڑوں کے اندر سے دکھائی دے گا۔ اور جنتی کو اس کی ہڈی کا گودا اس طرح دکھائی دے گا جیسا کہ تم کو یاقوت کے موتی میں دھاگہ نظر آتا ہے۔ جنتی کا جگر اس کے لئے آئینے کا کام دے گا اور اسکا جگر جنتی کے لئے شیشہ ہوگا۔ یہ جنتی اس کے پاس رہے گا نہ تو عورت اکتائے گی اور نہ یہ تنگ ہوگا اور یہ جب بھی اسکے پاس آئے گا تو اس کو کنواری پائے گا نہ اس کے آلہ تناسل میں کوئی فتور آئے گا اور نہ وہ اپنی شرمگاہ میں کوئی شکایت محسوس کرے گی۔ چنانچہ وہ اس طرح مشغول ہوں گے کہ ایک اعلان ہو گا کہ ہم جانتے ہیں کہ نہ آپ اکتائیں گے اور نہ یہ اکتائیں گی۔ مگر یہ کہ یہاں نہ انزال ہوتا ہے اور نہ موت

اس کے علاوہ تیری اور بھی بیویاں ہیں چنانچہ یہ نکلے گا اور ایک ایک بیوی کے پاس

جائے گا جب بھی اس کے پاس ایک بیوی آئے گی تو کہے گی خدا کی قسم میں نے جنت میں تجھ سے زیادہ کوئی حسین چیز نہیں دیکھی اور نہ تجھ سے بڑھ کر جنت میں کوئی چیز مجھے محبوب ہے۔ (علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صور کا ایک ٹکڑا ہے۔ جس کی روایت میں اسماعیل بن واقع مفرد ہے امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے اس سے روایات لی ہیں امام احمد اور یحییٰ اور ایک جماعت نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ دارقطنی وغیرہ نے اس کو متروک الحدیث کہا ہے۔ ابن عدی فرماتے ہیں عام طور پر اس کی احادیث میں اشکال ہوتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور فرمایا کہ میں نے محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا فرمایا کہ یہ ثقہ اور مقارب الحدیث ہے الخ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادنیٰ درجے کے جنتی کے اسی ہزار خدام اور بہتر بیویاں ہوں گی اور ان کے لئے موتیوں اور زبرجد اور یاقوت کا بنا ہوا ایسا قبہ نصب کیا جائے گا جو اتنا بڑا ہو گا جتنی مسافت جابہ سے لیکر صنعاء تک ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد (کانن الیاقوت والمرجان) کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی کو حور کی گردن میں اپنا چہرہ شیشے سے زیادہ صاف نظر آئے گا اور اس کے اوپر ادنیٰ موتی کا یہ عالم ہو گا کہ مشرق اور مغرب کا درمیان روشن کر دے اور اس پر ستر کیڑے ایسے ہوں گے جو بینائی کو ختم کر دے۔ اس کی ہڈی کا گودا اس کے اندر سے دکھائی دے گا۔

ابی امامتہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی جنت میں داخل ہو گا تو بہتر بیویوں سے اس کا نکاح کیا جائے گا۔ جن میں دو حور عین میں سے ہوں گی اور ستران کی میراث والیوں میں سے دنیا کی عورتیں ہوں گی۔ ان میں سے ہر عورت کے لئے شہوت والی شرمگاہ ہوگی اور جنتی کا ایسا آلہ تناسل ہو گا جس میں کبھی فتور نہیں آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں مومنوں کی تہتر بیویاں ہوں گی ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کو اتنوں کی قوت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو سو (جنتی) آدمیوں کی قوت دی جائے گی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول

اللہ ﷺ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم جنت میں اپنی بیویوں سے جماع کر سکیں گے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں آدمی سوکنواری عورتوں سے جماع کرے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا ہم جنت میں اپنی عورتوں سے جماع کر سکیں گے جس طرح ہم دنیا میں کرتے ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی ایک صبح کے وقت سوکنواری عورتوں سے جماع کر سکے گا۔

فصل :

(صحیح احادیث میں صرف اتنا آیا ہے کہ ہر جنتی کی دو بیویاں ہوں گی۔ آگے صحیح حدیث میں کسی زیادتی کا ذکر نہیں۔ پھر اگر یہ احادیث محفوظ ہوں تو پھر یا تو اس سے مراد دو بیویوں کے علاوہ لونڈیاں اور خدمات ہوں گی اور پھر یہ جنتیوں کے مرتبوں کے لحاظ سے خدام اور ولدان کی طرح قلیل اور کثیر ہوں گی۔ یا اس سے مراد یہ ہوگی کہ جنتی کو اس عدد کے بقدر عورتوں سے صحبت کرنے کی طاقت دی جائے گی۔ پھر یہ محفوظ ہو گا اور بعضوں نے روایت بالمعنی کر کے کہا کہ اس کے لئے اتنی اتنی بیویاں ہوں گی۔ جامع ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو جنت میں جماع کی اتنی اتنی قوت دی جائے گی پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا وہ اس کی طاقت رکھ سکے گا؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو سو آدمیوں کی قوت دی جائے گی۔ یہ صحیح حدیث ہے اور جس نے سوکنواری عورتوں کا جماع روایت کیا ہے شاید اس نے روایت بالمعنی کیا ہو یا درجوں میں تفاوت کی طرح عورتوں کی تعداد میں بھی تفاوت ہو۔ واللہ اعلم

لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جنت میں مومنوں کی بیویاں دو سے زیادہ ہوں گی اس لئے کہ صحیحہ میں عبد اللہ بن قیس رضی اللہ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا مومن بندہ کے لئے جنت میں خولدار موتی کا ایک خیمہ ہو گا جس کی لبائی ساٹھ میل کی مسافت کے برابر ہوگی۔ اس میں مومن بندے کی بیویاں ہوں گی وہ ان پر گھومے گا لیکن (دوری اور مکان کی وسعت کی وجہ سے) ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے۔

چونواں باب

وہ مادہ جس سے حوریں پیدا کی گئیں ہیں۔ انکے اوصاف اور اس دن اپنے شوہروں کو پہچاننا، احادیث کی روشنی میں

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حور عین زعفران سے پیدا کی گئی ہیں۔

ابو امامتہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حور عین کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے۔ ابو سلمتہ ابن عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ کے ولی کی ایک ایسی دلہن ہوگی جس کو نہ آدم نے جنا ہو گا اور نہ حواء نے بلکہ اس کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہو گا۔ یہ روایت دو صحابہ سے حضرت ابن عباس اور حضرت انس اور دو تابعین ابو سلمہ اور مجاہد سے مروی ہے۔ بہر صورت یہ جنت ہی میں پیدا ہوگئی ہوں گی ماں باپ سے پیدا نہیں ہوئیں ہوں گی۔ واللہ اعلم

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اگر ایک حور سات سمندروں میں تھوک دے تو اس کے منہ کے مٹھاس سے وہ سب بیٹھے ہو جائیں گے اور حور عین زعفران سے پیدا کی گئی ہیں۔ جب وہاں آدمیوں کی صورتیں کیسی حسین اور خوبصورت ہوں گی جبکہ ان کا مادہ مٹی ہے تو ان صورتوں کے حسن کا کیا عالم ہو گا جس کا مادہ زعفران ہے۔ ”قال اللہ المستعان“

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نور پھیلے گا تو جنتی لوگ سراٹھا کر دیکھیں گے تو وہ اس حور کے دانتوں کا نور ہو گا جو اپنے شوہر کے چہرے میں ہنس رہی ہوگی (کیونکہ ان کے چہرے ایک دوسرے کے لئے شیشے کا کام

دیں گے) خالد بن معدان رضی اللہ عنہ کثیر ابن مرة رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے مزید انعامات میں سے یہ بھی ہو گا کہ ایک بادل اہل جنت کے اوپر سے گزرے گا اور کہے گا کیا چاہتے ہو کہ میں تم پر برسا دوں۔ چنانچہ وہ جس چیز کی تمنا کریں گے وہ ان پر برسا دہی جائے گی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد کثیر ابن مرة رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرمائی تو میں ضرور بہ ضرور کہوں گا کہ ہم پر خوبصورت مزین لڑکیاں برسا دے اور ان کے مادہ تخلیق میں ایک اور صفت بھی روایت کی گئی ہے وہ یہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بیدخ ہے اس پر یا قوت کے گنبد بنے ہوئے ہیں جس میں جنت میں پیدا شدہ حوریں رہتی ہیں۔ اہل جنت کہیں گے کہ ہمیں نہر بیدخ کی طرف لے چلو۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر بڑے غور سے ان عورتوں کی طرف دیکھنے لگیں گے ان میں سے ایک آدمی کو ایک عورت بہت پسند آئے گی تو وہ اس کی کلائی کو ہاتھ لگا دے گا تو وہ اس کے ساتھ چلے گی۔

ولید بن عبدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (بموقع معراج) جبرئیل سے فرمایا اے جبرئیل مجھے حور عین کے پاس ٹھہرا دو۔ چنانچہ جبرئیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس ٹھہرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہوں؟ وہ سب کہنے لگیں کہ ہم اس عزت مند لوگوں کی عورتیں ہیں جو یہاں آکر بوڑھے نہ ہوں گے اور صاف و شفاف رہیں گے کبھی میل کچیل ان پر نہیں آئے گا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر آسمان سے ایک حور کا ہاتھ ظاہر ہو جائے تو وہ روئے زمین کو ایسا روشن کر دے جیسا کہ سورج دنیا والوں کو روشن کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ تو میں نے اس کے ہاتھ کا حسن بتایا تو اس کے چہرے کی سفیدی اور حسن و جمال کا کیا عالم ہو گا۔

معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی دنیا میں کوئی عورت اپنے شوہر کو ایذا پہنچاتی ہے تو حور عین میں سے اس کی بیوی کہتی ہے کہ اللہ تجھے ہلاک کرے اس کو ایذا مت پہنچا۔ اس لئے کہ یہ تو تیرے پاس مہمان ہے عنقریب یہ ہمارے

پاس آکر تجھ سے جدا ہو جائے گا۔

مرا سیل عکرمہ رضی اللہ عنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے آپ نے ارشاد فرمایا حور عین تم سے (یعنی اے دنیا کی عورتوں) تعداد میں زیادہ ہیں۔ وہ اپنے شوہروں کے لئے اس طرح دعا کرتی ہیں۔ کتنی ہیں اے پروردگار اپنے دین پر اس کی مدد فرما۔ اور اپنی اطاعت پر اس کو دل سے متوجہ فرما اور اے ارحم الراحمین اس کو عزت سے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک حور ہے جس کو ”لعبتہ“ کہا جاتا ہے۔ جنتوں کی تمام حوریں اس سے تعجب کرتی ہیں۔ اور اس کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں اے لعبتہ تجھے خوشخبری ہو۔ اگر طالبین کو آپ کا پتہ چلے تو وہ آپ تک پہنچنے میں نہایت ہی کوشش سے کام لیں۔ اسکے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہو گا کہ ”جو مجھ جیسی کو تلاش کرتا ہے اس کو چاہئے کہ میرے رب کی رضا کے لئے عمل کرے۔“ عطاء رضی اللہ عنہ نے مالک ابن دینار سے کہا۔ اے ابو یحییٰ ہمیں جنت کا شوق دلا دے۔ انہوں نے فرمایا اے عطاء جنت میں ایک ایسی حور ہے کہ اہل جنت اس کے حسن پر فخر کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ جنتیوں کے نہ مرنے کا فیصلہ نہ فرماتے تو اہل جنت اس کے غایت حسن سے مر جاتے چنانچہ عطاء رضی اللہ عنہ مالک رضی اللہ عنہ کے اس قول کی وجہ سے ہمیشہ غمگین رہتے تھے۔ جعفر بن محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عقلمند حکمت والے شخص کی دوسرے حکیم شخص سے ملاقات ہوئی۔ ایک نے دوسرے سے کہا کیا آپ حور عین کے مشتاق ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ پہلے والے حکیم نے کہا میں تو ان کی طرف مشتاق ہوں۔ اس لئے کہ ان کے چہروں کی نورانیت اللہ عزوجل کے نور سے ہے۔ یہ سن کر وہ بے ہوش ہوئے اس کو اٹھا کر گھر لیجا گیا اور ہم ایک مہینہ اس کی عیادت کرتے رہے۔

ربیعہ ابن کلثوم فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ہماری طرف دیکھا اس حال میں کہ ہم نوجوان لوگ اسکے اردگرد موجود تھے۔ فرمایا جوانوں کی جماعت کیا تمکو حور عین کی رغبت ہے؟ اور ابن ابی الحواری نے مجھ سے کہا کہ حضرمی نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک رات میں اور ابو حمزہ چھت پر سو گئے میں نے ابو حمزہ کو دیکھا کہ صبح تک بستر پر کروٹیں بدل رہا ہے۔ صبح میں نے پوچھا کہ اے حمزہ آپ پوری رات نہیں سوئے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں جب لیٹا تو ایک حور

میرے سامنے ظاہر ہوئی۔ یہاں تک میں نے اس کو ہاتھ لگایا اور اس نے مجھے ہاتھ لگایا یہ بات میں نے ابو سلیمان سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا ابو حمزہ تو مشتاق آدمی تھے۔

ابن ابی الحواری فرماتے ہیں کہ میں نے ابو سلیمان سے سنا کہ حور عین کو ایک انداز پر پیدا کیا جاتا ہے جب ان کی تخلیق کامل ہو جاتی ہے تو فرشتے ان پر خیمے نصب کر دیتے ہیں۔

ابن ابی الدنیا رضی اللہ عنہ نے زید الرقاسی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جنت میں ایک روشنی پھیلے گی۔ جنت میں کوئی جگہ ایسی نہیں رہے گی جہاں یہ روشنی نہ پہنچے۔ پوچھا جائے گا یہ کیا ہے؟ جواب ملے گا کہ ایک حور اپنے خاوند کے چہرے میں ہنسی۔ یہ سن کر مجلس کے کونے میں ایک آدمی نے چیخنا شروع کیا چیختا رہا یہاں تک کہ مر گیا۔

سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر ایک حور زمین اور آسمان کے درمیان اپنی ہتھیلی ظاہر کرے تو اس کے حسن سے تمام مخلوق فتنے میں پڑ جائے گی اور اگر اپنے چہرے کو ظاہر کر دے تو اس کا حسن زمین اور آسمان کا درمیانی خلاء روشن کر دے۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک روشنی پھیلے گی تو اہل جنت اپنی نگاہیں اٹھا کر دیکھنے لگیں گے۔ تو وہ ایک حور کی اپنے خاوند کے چہرے میں ہنسی کی وجہ سے اس کے دانتوں کی چمک ہوگی۔ یحییٰ ابن ابی کثیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حور عین میں سے کوئی تسبیح پڑھے گی تو جنت میں کوئی درخت بغیر ورد کے نہ رہے گی۔

یحییٰ ابن ابی کثیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حور عین جنت کے دروازوں کے پاس اپنے شوہروں سے ملاقات کرے گی تو ان میں سے ایک کہے گی کہ ہم نے تمہارا بہت طویل انتظار کیا پھر وہ بہت ہی پیاری آواز سے کہیں گی۔

فنعن الراضیات للانسخط والقیمات فلانظمن

ہم راضی و خوش رہنے والیاں ہیں کبھی ناراض نہ ہوں گی
اور ہم ہمیشہ اسی ایک حالت پر قائم رہنے والیاں ہیں کبھی بوڑھی نہ ہوں گی

والخالدارات فلانموت

اور ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی نہیں مریں گی

اور کہے گی تو میرا محبوب ہے میں تیری محبوبہ ہوں۔ نہ تیرے سامنے کوئی کوتاہی ہوگی

اور نہ تیری عدم موجودگی میں کوئی تجاوز ہوگا۔

○○○

پچینواں باب

جنتیوں کا نکاح اور صحبت کرنا اور اس کے ذریعہ کامل لذت حاصل کرنا۔ اور اس صحبت کا مذی 'منی' اور کمزوری لاحق ہونے سے پاک ہونا اور اس صحبت سے ان پر غسل کا واجب نہ ہونا

اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا ہم جنت میں اپنی عورتوں سے جماع کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی ایک دن میں سو کنواری عورتوں سے جماع کرے گا (یا اس کو اتنی مقدار کی طاقت دی جائے گی)

اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کی صحت پر اتفاق ہے گزر چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں مومن کے لئے ایک ہی خولدار موتی کا بنا ہوا خیمہ ہو گا جس کی لمبائی ساٹھ میل کی مسافت کے برابر ہوگی اس میں مومن کی بیویاں ہوں گی جن پر وہ گھومے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ارشاد ہے کہ مومن کو جنت میں اتنی اتنی عورتوں کے ساتھ جماع کی قوت دی جائے گی۔

لقہ ط بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت میں سے کن چیزوں کی اطلاع دی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ شہد کی نہروں کا ایسا پیالہ جس میں نہ سرچکرا نا ہو گا اور نہ ندامت ہوگی۔ اور ایسی دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں پھرا اور ایسی پانی کی نہریں ہیں جو بدبو نہیں کر گیا اور نہایت ہی عمدہ میوے ہوں گے جس کو تم جانتے ہو اور پاکیزہ بیویاں ہوں

گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جنت میں ہماری نیک صالح بیویاں ہوں گی؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا نیک عورتیں نیک مردوں کے لئے ہیں۔ تم ان سے ایسی ہی لذت حاصل کرو گے جس طرح تم دنیا میں حاصل کرتے ہو۔ سو اس کے کہ وہاں ولادت نہیں ہوگی (یعنی بچے پیدا نہیں ہوں گے) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم جنت میں وطئی (صحبت) کریں گے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جی ہاں اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم زور سے دکھیل دکھیل کر صحبت کرو گے اور فرمایا کہ جنتی جب جماع سے فارغ ہو گا تو وہ عورت دوبارہ پاکیزہ اور باکرہ (کنواری) بن جائے گی۔

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت جب اپنی بیویوں سے صحبت کر گزریں گے تو وہ عورتیں دوبارہ کنواریاں بن جائیں گی۔

ابو امامتہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے آپ ﷺ سے سنا جب آپ سے پوچھا گیا! کیا اہل جنت صحبت کریں گے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسے آلہ تناسل سے جماع کریں گے جس میں فتور نہیں آئے گا اور ایسی شہوت ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور خوب زور سے دکھیل کر جماع کریں گے۔ ابو امامتہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا اہل جنت صحبت کریں گے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ زور سے دکھیل کر صحبت کریں گے اور وہاں نہ انزال ہو گا اور نہ موت آئے گی۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا اہل جنت اپنی بیویوں سے صحبت کریں گے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دیکر بھیجا وہ ایسے آلہ تناسل سے صحبت کریں گے جس میں تنگی اور فتور نہیں آئے گا اور عورتیں ایسی شرمگاہ سے صحبت کریں گی جو مخفی نہیں اور ایسی شہوت سے جو کبھی منقطع نہ ہوگی۔

ابو امامتہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا! یا رسول اللہ کیا اہل جنت صحبت کریں گے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ زور زور سے صحبت کریں گے اور اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ وہاں نہ انزال

ہو گا اور نہ موت آئے گی۔ عکرمہ رضی اللہ عنہما نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد
ان اصحاب الجنة الیوم فی شغل تحقیق بہشت کے لوگ آج ایک مشغلہ میں
فاکھون (سورۃ یسین ۵۵) ہیں باتیں کرتے۔

کی تفسیر میں فرمایا کہ اہل جنت کا مشغلہ کنواری عورتوں سے جماع ہو گا۔ مقاتل رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ اہل جنت کنواری لڑکیوں کے ساتھ صحبت میں مشغول ہو کر نہ اپنے جنمی رشتہ
داروں وغیرہ کا تذکرہ کریں گے اور نہ کوئی پرواہ۔ ابوالاحوص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مزین کمرے
میں خوشی کے باعث کنواری عورتوں کے ساتھ صحبت میں مشغول ہوں گے۔ ابو معجاز رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد (ان اصحاب
الجنة الیوم فی شغل فاکھون) کی تفسیر دریافت کی کہ ان کا مشغلہ کیا ہو گا؟ (جس کا آیت میں ذکر
ہے) انہوں نے فرمایا کہ ان کا مشغلہ کنواری عورتوں سے جماع ہو گا۔

سعید بن جبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی کی شہوت ستر سال اس کے جسم میں دوڑے
گی جس سے وہ لذت محسوس کرے گا اور اس شہوت سے ان کو جنابت لاحق نہیں ہوگی کہ جس
کی وجہ سے وہ پاکی حاصل کرنے کی طرف محتاج بنیں۔ اور نہ ان کو کمزوری لاحق ہوگی اور نہ
قوت کا ضمحلل۔ بلکہ ان کی صحبت تلذذ اور مزے کے لئے ہوگی جس میں کسی قسم کی کوئی آفت
نہیں ہوگی۔

اس لذت میں کامل ترین شخص وہ ہو گا جو دنیا میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ حرام
بے بچانے والا ہو گا۔ جیسا کہ کوئی شخص دنیا میں شراب پیئے تو آخرت میں اس کو نہیں ملے گی
اور جو کوئی دنیا میں ریشم پہنے تو آخرت میں نہیں پہن سکے گا۔ اور جیسا کہ دشمن دنیا میں سونے
اور چاندی کی ہلہلوں میں کھانا کھاتے ہیں تو آخرت میں اس میں نہیں کھا سکیں گے۔ چنانچہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (یہ سونے چاندی کے برتن) کافروں کے لئے دنیا میں ہیں اور تمہارے
لئے آخرت میں۔ جس شخص نے اپنے مزے اس دنیا میں ضائع کئے تو آخرت میں ان سے
محروم رہے گا۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے ایسے شخص کی مذمت فرمائی ہے (اس میں سورۃ احقاف کی
آیت اذہبتم طبباتکم فی حیاتکم الدنیا کی طرف اشارہ کیا ہے)۔ ابن القہم رضی اللہ عنہ

فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے صحابہ کرام اور تابعین اس معاملے میں بہت ڈرتے تھے۔
 امام احمد رضی اللہ عنہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے اس حال میں دیکھا کہ میرے پاس گوشت تھا جو میں نے گھر والوں کے لئے خریدا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ گوشت ہے جو میں نے ایک درہم کے عوض اپنے اہل خانہ کے لئے خریدا ہے؟ یہ سن کر فرمانے لگے کہ جب بھی تمہیں کسی چیز کی چاہت ہوگی تو تم اس کو خرید لو گے۔ کیا آپ نے اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد نہیں سنا
 ”اذہبتم طہباتکم فی حیاتکم الدنیا ضائع کئے تم نے اپنے مزے دنیا کی زندگانی واستمتعتم بہا“ (سورۃ الاحقاف ۲۰) میں اور ان کو برت چکے۔

حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی معیت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بصرہ والوں کا ایک وفد آیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ہر دن اس کے پاس حاضر ہوتے تو ان کے ہاں تین ہی روٹیاں ہوتی تھیں۔ وہ ہمیں اس طرح ملتے کہ اس کا سالن کبھی گھی ہوتا کبھی زیتون اور کبھی دودھ اور کبھی ہمیں خشک کھجوروں کا سامنا کرنا پڑتا جس کو کوٹ کر پھر جوش دیا جاتا تھا۔ ہمیں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا! خدا کی قسم میں نے اپنے کھانے کے بارے میں تمہاری ناگواری دیکھ لی اور اس کا اندازہ کر لیا۔ خدا کی قسم اگر میں چاہوں تو میں تم میں سب سے زیادہ عمدہ کھانے والا اور خوشگوار زندگی والا بن سکتا ہوں لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ ایک قوم کو ان کے کئے پر طعنہ دیا جائے گا کہ تم نے اپنے مزے اپنی دنیا کی زندگی میں ضائع کئے اور ان سے نفع اٹھایا۔ پس جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ لذت کو چھوڑ دیا تو قیامت کے دن اس کو پورا پورا حاصل کرے گا اور جس شخص نے یہاں پورا کیا تو آخرت میں یا تو اس کو اس سے محروم رکھا جائے گا یا اس کے کمال کو ختم کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کی لذت کو جو اللہ کی نافرمانیوں اور اس کے محارم میں اس کو ضائع کرے اس شخص کی لذت کے برابر نہیں فرمائیں گے جس نے اللہ کی رضا کے لئے ہمیشہ اپنی شہوت ترک کر دی ہو۔

واللہ اعلم

○○○

چھپن واں بابجنت میں حمل و ولادت کے بارے میں علماء کا اختلاف

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن جنت میں جب بچے کی خواہش کرے گا تو اس کا حمل اور وضع حمل اور عمر کے کمال کو پہنچنا جیسے ہی چاہے گا سب ذرا سی دیر میں ہو جائے گا۔ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ جنت میں صحبت تو ہوگی لیکن اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسحاق ابن ابراہیم کی حدیث میں ذکر کیا ہے کہ مومن جنت میں جب بچے کی خواہش کرے گا تو ذرا سی دیر میں بچہ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن وہ یہ خواہش ہی نہیں کرے گا۔

ابو ذر العقیلی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جنت میں جنتیوں کے بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ میں (ابن القہم) کہتا ہوں کہ حدیث ابو سعید کی اسناد صحیح ہے اور اس کے رجال ایسے ہیں جن سے دلیل پکڑی جاسکتی ہے۔ لیکن بہت زیادہ غریب ہے اور اسحاق کی تاویل میں نظر ہے۔ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (اذا اشتہی الولد) لفظ "اذا" تحقیق اور وقوع کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس سے مذکورہ معنی مراد لیا جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے (لو اشتہی المؤمن الولد لکان حملہ فی ساعۃ) یہاں حرف "لو" کا لانا ہی بہتر تھا جیسا کہ متحقق الوقوع چیز میں حرف "اذا" کا استعمال اولیٰ ہے۔

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنتیوں کے بچے پیدا ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے وہ اتنی سی دیر میں ہو جائے گا جتنی دیر تم میں سے کوئی ایک تمنا کرتا ہے۔ چنانچہ اس کا حمل رضاعت اور جوانی ذرا سی دیر میں ہو جائے گی ابی رزین کی طویل حدیث جس کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے ہم اسے اپنی کتاب کو مزین کرنے کے لئے پوری ہی

ذکر کر دیتے ہیں۔

عاصم بن لہعہ فرماتے ہیں کہ لہعہ اپنے ایک ساتھی کی رفاقت میں جس کا نام نمہہک بن عاصم بن مالک ابن المنفق ہے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کیلئے آئے۔ لہعہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ساتھی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اس وقت پہنچے کہ آپ ظہر کی نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ چنانچہ آپ لوگوں کو خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا اے لوگو! سن رکھو میں نے چار دن سے اپنی آواز کو تم سے چھپائے رکھا سن رکھو اب میں تمہیں ضرور سناؤں گا۔ خبردار یہاں ایسا کوئی آدمی ہے جس کو اس کی قوم نے یہ کہہ کر بھیجا ہو کہ ہمیں اللہ کے رسول کا ارشاد بتلائے؟ سن رکھو پس اس شخص کو اس کے دل کی بات یا اس کے ساتھی کی باتوں یا گمراہی نے غفلت میں ڈال رکھا ہو۔ (یعنی ایسا نہیں ہونا چاہئے) سن رکھو مجھ سے پوچھا جائے گا۔ سن رکھو میں نے (اللہ کے پیغامات) پہنچا دیئے، خبردار سنو اور زندگی گزارو اور فرمایا کہ خبردار بیٹھ جاؤ خبردار بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر لوگ بیٹھ گئے۔ میں اور میرا ساتھی ہم کھڑے رہے یہاں تک کہ آپ ﷺ کی توجہ اور نگاہ ہمارے لئے فارغ ہو گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ کے پاس علم غیب میں سے کیا ہے؟ (یہ سن کر) آپ ﷺ مسکرائے اور خدا کی قسم آپ نے اپنا سر مبارک ہلایا اور آپ نے جان لیا کہ میں اس کا سقوط تلاش کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ نے جان لیا کہ میں اس کا سقوط تلاش کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ کے رب نے غیب کی پانچ چابیوں کی ضمانت لی ہے جسکو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا میں نے عرض کیا کہ وہ پانچ چابیاں کونسی ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ (۱) موت کا علم وہ جانتے ہیں کہ تم میں سے کسی کی موت کب آتی ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ (۲) وہ جانتے ہیں کہ کل تم کیا کھاؤ گے اور تمہیں نہیں معلوم (۳) اور بارش کے دن کا علم کہ وہ کس دن بر سے اس حال میں کہ تم ڈرتے ہو عاجزی کرتے ہو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ تمہارے علاوہ اور بھی اس میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ لہعہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ ہمیں ایسے پروردگار سے خوف نہیں جو خیر (بارش برسانے کے ساتھ) ہنستے ہیں۔ (۴)

اور قیامت کے دن کا علم۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ ہمیں وہ سکھا دیں جو آپ ﷺ لوگوں کو سکھاتے ہیں اور جو کچھ آپ ﷺ جانتے ہیں۔ اس لئے کہ ہم ایسے قبیلے کے ہیں کہ جس میں کوئی ایک ہماری تصدیق نہیں کرتا۔ اس حج کے بعد سے جب سے انہوں نے ہم پر زیادتی کی۔ اور جب سے ہم نے قبیلہ خثعم سے دوستی کی۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جتنا تمہیں ٹھہرنا ہے تو ٹھہرے رہو گے۔ پھر تمہارا نبی انتقال کر جائے گا پھر تمہیں جتنا رہنا ہے رہو گے۔ پھر صحاح (مملک آواز) بھیج دیجائیگی۔ خدا کی قسم وہ روئے زمین پر کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑے گی جو نہ مرے اور وہ فرشتے بھی جو تیرے رب عزوجل کے پاس ہیں آپ کا رب زمینوں میں گھومے گا تمام شہر خالی پڑے ہوں گے۔ پھر آپ کا رب آسمان کو حکم دے گا کہ وہ عرش کی طرف سے برس پڑے۔ تیرے رب کی قسم وہ روئے زمین پر نہ کسی مقتول کے گرنے کی جگہ چھوڑے گا اور نہ کسی مردے کا دفن (قبر) مگر اس سے قبر کو چھیر دے گا یہاں تک کہ اس کو اس کے سر کی طرف سے دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ سیدھا بیٹھ جائے گا۔ اور کہے گا یا رب کیا خبر ہے؟ اس حالت کی وجہ سے یہ کہے گا جس میں یہ بتلا ہو گا اور کہے گاے پروردگار آپ آج مجھے موت دیدیں کیونکہ آپ کا وعدہ شام کو دوبارہ دوبارہ زندہ کرنے کا ہے آپ اس کو دیکھ کر یہی گمان کریں گے گویا کہ اس نے نئی شادی کی ہے، فرماتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے جمع فرمائیں گے جبکہ ہمیں ہواؤں اور بوسیدگی اور درندوں نے ریزہ ریزہ کر دیا ہو گا؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کی نعمتوں میں زمین کی مثال دیتا ہوں۔ آپ زمین کو دیکھتے ہیں کہ وہ خشک ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی تروتازہ نہیں ہو سکتی۔ پھر تیرا رب اس پر بارش برساتا ہے چند دن گزرنے کے بعد جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو بالکل تروتازہ ہوتی ہے۔ تیرے رب کی بقاء کی قسم اللہ کی ذات اس پر زیادہ قادر ہے کہ تمہیں پانی سے جمع کرے بہ نسبت زمین کی نباتات کے جمع کرنے سے چنانچہ لوگ اپنی قبروں اور اپنے قتل ہونے کی جگہوں سے نکلیں گے تم اللہ کو دیکھو گے اور وہ تمہیں دیکھے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ زمین ہم سے بھری ہوئی ہوگی اور اللہ کی ذات تو ایک ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سب اس کو دیکھیں اور وہ ہمیں دیکھے؟ آپ ﷺ

نے فرمایا اس کے سمجھانے کے لئے میں آپ کو اللہ کی نعمتوں میں چاند اور سورج کی مثال پیش کرتا ہوں۔ اللہ کی چھوٹی سی نشانی ہے تم سب اس کو ایک ہی گھڑی میں دیکھتے ہو اور اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ تیرے رب کی بقاء کی قسم وہ ان سے اس بات پر زیادہ قادر ہے تم اس کو دیکھو اور وہ تم سب کو دیکھے۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم جب اللہ سے ملیں گے تو وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تم اللہ کے سامنے اس حال میں پیش کئے جاؤ گے کہ تمہارے ہاتھ خالی ہوں گے تمہاری کوئی بات اس پر مخفی نہ رہے گی پھر تیرا رب عزوجل پانی کا ایک چلو بھر کر تمہاری طرف چھڑک دے گا۔ تیرے رب کی بقاء کی قسم اس کا کوئی قطرہ تمہارے چروں سے تجاوز نہ کرے گا اس کے لگنے سے مسلمان کا چہرہ سفید اور حسین و جمیل بنے گا اور کافر کا چہرہ کالے کوئلے کی طرح سیاہ بن جائے گا۔

خبردار پھر تمہارا رسول اللہ ﷺ لوٹے گا اور صالحین بھی اس کے نقش قدم پر چل کر لوٹنا شروع کر دیں گے۔ پھر آگ کے پل پر چلیں گے تم میں ایک آدمی چنگاری کو روند ڈالے گا تو ہلکی سی آواز نکالے گا۔ ارشاد ہو گا۔ پیچھے ہٹ۔۔۔

پاس کی شدت سے رسول اللہ ﷺ کے حوض پر جھانکنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے پاس لے آئے گا تیرے رب کی قسم جو اس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا تو اس کے ہاتھ میں ایسا پیالہ پڑے گا جس کو بوجھ اور پیشاب اور تکلیف سے پاک کیا گیا ہو گا یعنی اس کے پینے سے یہ چیزیں پیدا نہیں ہوں گی) چاند اور سورج کو روک لیا جائے گا ان میں سے ایک بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ جب چاند اور سورج نہیں ہوں گے ہمیں کس طرح نظر آئے گا؟ آپ نے فرمایا جس طرح اب آپ کو نظر آتا ہے اور جس طرح صبح کے وقت سورج طلوع ہو کر پہاڑوں پر لگتا ہے اور زمین اس سے روشن ہو جاتی ہے (یہی کیفیت جنت میں ہوگی) راوی کہتے ہیں پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہمیں ہماری نیکیوں اور برائیوں کا کیا بدلہ ملے گا؟ ارشاد فرمایا ایک نیکی کا دس گنا جزا اور برائی اگر معاف نہ کی گئی تو ایک ہی برائی شمار ہوگی۔ (یعنی اس کے برابر عذاب دیا جائے گا) فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا

رسول اللہ ﷺ جنت اور جہنم کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تیرے رب کی بقاء کی قسم جہنم کے سات دروازے ہیں جن میں کوئی دو دروازے ایسے نہیں ہیں مگر ان کے درمیان اتنی مسافت ہے کہ ایک سوار ان کے درمیان ستر سال تک چلتا رہے اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن میں ہر دو دروازے کے درمیان اتنی مسافت ہے کہ ایک سوار ستر سال تک اس میں چلتا رہے۔ راوی نے فرمایا میں نے عرض کیا کہ جنت کی نعمتوں کے متعلق ہم اپنی قوم کو کن چیزوں کی اطلاع دیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا۔

شہد کی نہروں کی جس کا جھاگ اتارا گیا ہے۔ اور شراب کی نہروں کی جس میں نہ سر چکرانا ہے اور نہ ندامت اور دودھ کی نہریں جس کا مزہ نہیں پھرا اور پانی کی نہریں جو بو نہیں بدلتیں اور میوؤں کی۔ اور تیرے رب کی بقاء کی قسم وہ سب چیزیں ہوں گی جو تم جانتے ہو اور اس کے ساتھ اس کے برابر اور اس سے بہتر اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت میں جو ہماری بیویاں ہوں گی تو ان میں دنیا کی نیک عورتیں بھی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا نیک عورتیں نیک مردوں کے لئے ہیں تم ان سے ایسی ہی لذت حاصل کرو گے جس طرح دنیا میں حاصل کرتے ہو اور وہ تم سے لذت حاصل کریں گی البتہ بچے پیدا نہیں ہوں گے۔

لَقَطٌ ۞ فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کیا وہ بیان کریں جس کی طرف ہم پہنچنے والے ہیں اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کس چیز پر آپ کے ساتھ بیعت کریں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک پھیلا کر ارشاد فرمایا کہ نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے اور اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو شریک نہ کرنے پر بیعت کرو۔ لَقَطٌ ۞ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا ہمارے لئے وہ ہے جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سمیٹ لئے اس گمان پر کہ میں ایسی چیز کی شرط لگانا چاہتا ہوں جو آپ کو نہیں دی گئی ہے فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کیا کہ ہم ان میں جہاں سے چاہیں مال دیدیں اور ہر آدمی کے تاوان کا وبال اس کی ذات پر پڑتا ہے یہ سن کر آپ نے ہاتھ پھیلا دیئے

اور ارشاد فرمایا یہ تیری بخشش ہے جہاں سے آپ چاہیں اور تیرا نفس ہی تیرا تاون ادا کرتا ہے فرمایا کہ پھر ہم واپس ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا یہی دونوں یہی دونوں تیرے رب کی بقاء کی قسم دنیا اور آخرت میں تمام لوگوں میں زیادہ متقی ہیں کعب بن جدار یہ (جو بنی بکر بن کلاب کا رشتہ دار تھا) نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کون تھے؟ آپ نے فرمایا بنو المنتفق ہیں پھر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا زمانہ جاہلیت میں ان میں سے کسی ایک کا کوئی واقعہ ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قریش کے سرداروں میں سے ایک شخص تھا اور فرمایا خدا کی قسم تیرا باپ منتفق جنم میں ہے راوی کہتے ہیں میرے والد کے متعلق لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے میرے خون اور گوشت میں آگ لگی اور میں نے ارادہ کیا کہ آپ سے پوچھوں یا رسول اللہ آپ کے والد کہاں ہے؟ لیکن دوسرا لفظ اس سے زیادہ اچھا تھا اس لئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اور آپ کا اہل کہاں ہے؟ ارشاد فرمایا خدا کی قسم میں اپنے اہل میں سے کسی مشرک کی قبر پر نہیں گیا چاہے عامری ہو یا قریشی ہو۔

فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا معاملہ فرمائیں گے جب کہ وہ ایسے عمل پر تھے جس کو وہ اچھا خیال کرتے تھے اور وہ اپنے آپ کو نیک گمان کرتے تھے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا یہ اس وجہ سے ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سات امتوں کے آخر میں ایک پیغمبر بھیجا پس جس شخص نے پیغمبر کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا اور جس نے اپنے پیغمبر کی اطاعت کی وہ ہدایت پر رہا۔

یہ بہت بڑی اور مشہور حدیث ہے جس کو ابوالقاسم نے عبدالرحمن بن مغیرہ بن عبدالرحمن المدنی سے روایت کیا ہے پھر یہ ابراہیم بن حمزہ زبیری مدنی سے بھی منقول ہے اور یہ دونوں مدینے کے بہت بڑے اور ثقہ علماء میں سے ہیں باب حدیث میں ان دونوں سے استدلال کیا جاتا ہے چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں سے استدلال کیا ہے اور ان دونوں سے اپنی کتاب میں کئی مقامات پر روایات نقل کی ہیں اور ائمہ حدیث نے بھی اپنی کتابوں میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔ مثلاً ابو عبدالرحمن بن عبداللہ بن امام احمد اور ابو بکر احمد بن عمرو بن ابوالقاسم اور ابوالقاسم طبرانی اور ابوالشیح الحافظ اور ابو عبداللہ بن مندہ اور حافظ ابو بکر احمد بن

موسیٰ بن مردویہ اور حافظ ابو نعیم اصفہانی اور ان کے علاوہ دوسرے حضرات نے بھی ان سے علی سبیل القبول و التسلیم روایات لی ہیں۔

حافظ ابو عبد اللہ بن مندہ فرماتے ہیں کہ محمد ابن اسحاق اور عبد اللہ بن احمد بن حنبل وغیرہ حضرات نے اس حدیث کو عراق میں علماء اور اہل دین کے ایک مجمع میں بیان فرمایا کسی نے بھی اس پر نکیر نہیں کیا اور نہ اس کی اسناد میں کوئی کلام کیا۔ اور اسی طرح ابو زرعد اور ابو حاتم نے بھی اس کو قبول کیا اور ابو الخیر بن حمدان تو فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ثابت اور مشہور حدیث ہے اور فرمایا کہ ہم نے اس کے متعلق اپنے شیخ ابو الحاج المری سے پوچھا تو فرمایا کہ اس پر نبوت کا جلال معلوم ہوتا ہے اور فرمایا کہ اس میں ایلا کی نفی ہے اور یہ حدیث جنت میں انتفاء ولادت پر صریح ہے اور پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد (اذا شتمہای) شرط سے معلق ہے اور تعلیق سے معلق اور معلق بہ کا وقوع لازم نہیں آتا اور لفظ اذا اگرچہ ظاہر میں محقق الوقوع چیز میں استعمال ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار محض تعلیق کے لئے جو محقق سے اعم ہوا استعمال ہوتا ہے۔

یہاں پر یہ توجیہ چند وجوہ سے متعین ہے۔

(۱) حدیث ابی رزین کی وجہ سے

(۲) اللہ تعالیٰ کے ارشاد (ولہم فہما زواج مطہرة) کی وجہ سے یعنی وہ عورتیں حیض نفاس اور گندگی سے پاک ہوں گی سفیان ثوری ”مجاہد“ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ عورتیں حیض پاخانہ پیشاب تھوک بلغم منی اور ولادت سے پاک ہوں گی عطاء“ فرماتے ہیں کہ وہ حمل ولادت حیض اور پاخانے اور پیشاب سے پاک ہوں گی۔

(۳) پیغمبر علیہ السلام کے ارشاد میں یہ گزر چکا کہ جنت میں نہ موت ہے اور نہ انزال اور بچہ تو مرد کی منی سے پیدا ہوتا ہے تو جب وہاں نہ منی ہو اور نہ مذی اور نہ شرمگاہ میں پھونک تو وہاں بچے کیسے پیدا ہوں گے۔

(۴) حدیث صحیح میں آپ ﷺ کا یہ ارشاد ثابت ہے کہ جب جنت میں جگہ بچے کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کچھ مخلوق پیدا کر کے اس میں ٹہرا دیں گے۔ اگر جنت میں بچے پیدا ہوتے تو وہ دوسری مخلوق سے اس جگہ کے زیادہ حقدار تھے۔

(۵) اللہ تعالیٰ نے بچوں کی پیدائش کو حیض اور منی کے ساتھ جوڑ دیا ہے تو اگر جنت میں عورتیں حاملہ ہو جائیں تو حیض اور انزال ان سے منقطع نہیں ہوگا۔

(۶) اللہ تعالیٰ نے تولد و تناسل تو دنیا میں ہی مقدر فرمایا ہے اس لئے کہ ان کے لئے یہاں موت بھی مقدر کی ہے۔ اور مختلف اوقات میں ان کو اس دار سے نکالتے رہتے ہیں اور ان کے نکلنے کا ایک وقت مقرر فرمایا ہے اس وقت تک یہ پہنچتے ہیں تو اگر یہاں تناسل نہ ہوتا تو نوع انسانی باقی نہ رہتی اور اسی وجہ سے تو فرشتوں میں تناسل جاری نہیں کیا اس لئے کہ وہ انسانوں اور جنوں کی طرح مرتے نہیں ہیں جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ زمین سے تمام لوگوں کو نکال کر ان کو دوبارہ موت کے لئے نہیں بلکہ باقی رہنے کے واسطے زندہ کریں گے جس کے بعد یہ تناسل کی طرف محتاج نہیں ہوں گے۔ اور اس طرح نوع انسانی کی حفاظت ہوگی جو کہ بقاء اور دوام کا مقتضی ہے اس کے بعد نہ اہل جنت میں تناسل ہوگا اور نہ جہنمیوں میں۔

(۷) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَنْ يَلَهُمْ فِيهَا دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ أَبَدًا فِي الْجَنَّةِ الَّتِي فِيهَا نَجْمٌ كَالْكَوْكَبِ (البقرہ ۲۱)

اور جو لوگ یقین لائے اور ان کی راہ پر چلے ان کی اولاد ایمان کے ساتھ پہنچا دیا ہم نے ان تک ان کی اولاد کو

اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ وہ اہل جنت کے ساتھ ان کے بچوں کو اکٹھا کرنے کی نعمت سے نوازیں گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو دو سری اولاد دیتے تو ان کا بھی ذکر فرماتے جیسے ان کے دنیا والے اولاد کا ذکر فرمایا اس لئے ان سے بھی ان کی آنکھیں ایسی ہی ٹھنڈی ہوں گی جیسے دنیا والے بچوں سے ٹھنڈی ہوتی ہیں۔

(۸) وجہ یہ کہ یا تو جنت میں تناسل کا استمرار ”لالی غایتہ“ (غیر متناہی) مان لیا جائے یا ”الی غایتہ“ مان لیا جائے اور پھر منقطع ہو جائے دونوں باتیں نہیں ہو سکتیں۔ اس لئے کہ پہلے کے ماننے سے غیر متناہی اشخاص کا اجتماع لازم آئے گا اور دوسرے کے ماننے سے اہل جنت کی لذت اور سرور کا انقطاع لازم آئے گا جو کہ محال ہے اور یہ کہنا بھی ممکن نہیں کہ تناسل کے بعد وہ نسل مرجائے اور اس کے بعد دو سری نسل اس کی جگہ لے لیں۔ اس لئے کہ وہاں موت ہی نہیں ہوگی۔

(۹) نویں وجہ یہ ہے کہ انسان جنت میں ایسی نشوونما نہیں پاتا ہے جس طرح کہ دنیا میں بڑھتا ہے اور نہ جنت میں رہنے والے ولدان بڑے ہوں گے اور نہ جنتی مرد بلکہ ولدان تو چھوٹے بچے ہی رہیں گے کوئی تبدیلی ان میں نہیں آئے گی۔ اور خود اہل جنت تینتیس سال کے ہوں گے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگر جنت میں ولادت ہوتی تو یہ بات ضروری تھی کہ بچہ کامل مرد بننے تک بڑھتا رہتا۔ حالانکہ یہ تو پہلے سے معلوم ہو چکا ہے کہ بچپن میں مرنے والے بچوں کو جنت میں بغیر نمو کے تینتیس سال کا بنایا جائے گا۔

(۱۰) اللہ تعالیٰ جنتیوں کو فرشتوں کی طرح بنائیں گے یا ان سے بھی زیادہ مکمل طریقے پر کہ وہ پیشاب پاخانہ نہیں کریں گے اور نہ سوئیں گے اور ان کو تسبیح کا الہام کیا جائے گا اور عرصہ دراز گزرنے پر بھی بوڑھے نہیں ہوں گے اور نہ ان کے بدن بڑھیں گے بلکہ اللہ کے مخصوص انداز پر جس پر ان کو پیدا کیا گیا ہے ہمیشہ رہیں گے۔ اس مسئلہ میں یہی کچھ تھا جو بیان ہوا آگے واللہ اعلم۔

اور بعض کا یہ کہنا کہ قدرت اس کی صلاحیت رکھتی ہے اور یہ سب ممکن ہے اور دوسرے حضرات کا یہ کہنا کہ جنت مستحقین عمل کے لئے دارالہ مکلفہن ہے وغیرہ ایسی مباحث ہیں جو بہت سستے ہیں اور لوگوں کی کتابوں میں موجود ہیں۔ وباللہ التوفیق۔

حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استاذ ابو سہل ” نے فرمایا کہ اہل زلیخ جنت میں ولادت کی حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہو گا جیسا کہ ہم نے روایات پیش کیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

ولہا ما تشتهیہن النانس وتلد الابعان (زخرف ۷۱)
اور وہاں ہیں جو دل چاہے اور جس سے آنکھیں آرام پائیں۔

اور یہ محال نہیں کہ مومن اپنی مرغوبات میں ایک ممکن پاکیزہ صاف اور آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے ٹکڑے کو اپنی پاکیزہ بیویوں کے ذریعہ حاصل کرنے کی خواہش کرے اگر کوئی یہ کہے کہ جب حدیث میں آیا ہے کہ ان عورتوں کو حیض اور نفاس نہیں ہو گا تو پھر بچہ کہاں سے پیدا ہو گا؟ آپ جواب میں یہ کہیں گے کہ حیض تو اس ولادت کا اغلب سبب ہے جو

مدت حمل سے معتد ہو وضع حمل سے بھی کہ جیسے دنیا کے تمام شہروں میں کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں میں تھکاوٹ اور تکلیف معروف ہے اور پھر ہر ایک کے برے انجام سے بھی ڈرا جاتا ہے دیکھو یہ دنیا کی حرام شراب جس کے بارے میں سوال ہو گا ہر قسم کی آفتوں سے بھرپور ہے اور اہل جنت کے لئے جو شراب اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے وہ لذت سے بھرپور اور آفتوں سے پاک ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنتی بچہ بھی ان بلاؤں سے پاک ہو (انتمہا ہی کلامہ)

میں نے کہا کہ جنت میں ولادت کی نفی کرنے والے اپنے دلوں کی کجروی کی بناء پر نفی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ابی رزین کی حدیث (غیران لا تولد) کی وجہ سے نفی کرتے ہیں (یعنی جنت میں صرف ولادت نہیں ہوگی) اور ہم نے عطاء " کا قول بھی بیان کیا ہے کہ جنتی عورتیں حیض اور ولادت سے پاک ہوں گی۔ امام ترمذی " نے اس کے بارے میں سلف اور خلف اہل علم کے دو قول بیان کئے ہیں۔ اور ابواسحاق " سے اس سے انکار کرنے کا قول بھی بیان کیا ہے۔ ابو امامہ نے اپنی حدیث میں فرمایا ہے (غیران لامنی ولا منہا) (یعنی جنت میں صرف موت اور انزال نہیں ہوگا باقی سب چیزیں ہوں گی) جنت دارالتمنا سل نہیں ہے بلکہ ہمیشگی اور بقاء کا گھر ہے۔ اس میں رہنے والا مرے گا ہی نہیں جس کے بعد اس کے قیام نسل کی ضرورت پڑے اور اس بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث کی اسانید میں بہتر سند ترمذی کی ہے اور اس پر غرابت کا حکم بھی لگایا گیا ہے کیونکہ یہ صرف ابوالصدیق ناسی کی حدیث سے پہچانی گئی ہے اور اس کے الفاظ میں بھی اضطراب ہے۔ اس لئے کہ کبھی حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے "ذا اشتهی الولد" کے الفاظ سے نقل کیا جاتا ہے اور کبھی "انہ ہشتمہی الولد" کے الفاظ سے اور کبھی "ان الرجل من اهل الجنة لیولد له" کے الفاظ سے مروی ہے۔ فاللہ اعلم۔

اگر یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو تو پھر یہ حق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں اور ان الفاظ کے درمیان کوئی تانی اور تناقض نہیں اور ابی رزین کی حدیث "غیران لا تولد" میں دنیا والی خاص ولادت کی نفی ہے اور جنت کی اس ولادت کی نفی نہیں جس کا حمل اور وضع حمل کمال عمر کو پہنچنا اور جوانی ایک گھڑی میں ہوگی ہمارا علم قاصر اس مسئلہ میں صرف یہاں تک پہنچا ہے اور اس میں ہم نے ایسی چیزیں ذکر کی ہیں جو کہ شاید آپ کو دوسری کتابوں میں مل جائیں۔

ستانواں باب

اہل جنت کا حوروں کی بہترین اور خوبصورت آوازوں کا سننا اور اس میں خوشی اور لذت

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُوسِّدُ يَتَمَفَّرُونَ
فَأَسَاءَ الَّذِينَ أَتَوْا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ
فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (الروم ۱۴)
اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن لوگ
ہوں گے قسم قسم سو جو لوگ یقین لائے اور
کئے بھلے کام سو باغ میں ہوں گے ان کی آؤ
بھگت ہوگی۔ (۱۵)

یحییٰ ابن ابی کثیر رضی اللہ عنہ عزوجل کے ارشاد (فہم فی روضۃ) 'یحبرون' کی تفسیر میں
فرماتے ہیں کہ "یحبرۃ" سے مراد لذت اور سماع ہے یحییٰ ابن ابی کثیر کا (یحبرون) سے
(سماع فی الجنۃ) مراد لینا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے منافی نہیں کہ وہ
(یحبرون) کا معنی (یکرمون) سے کرتے ہیں۔ مجاہد اور قتادہ " (ینعمون) سے اس
لئے کہ کانوں سے سننے کی لذت خوشی اور نعمت ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت
میں حوروں کی ایک اجتماع گاہ ہوگی وہ ایسی پیاری آواز سے (درج ذیل شعر پڑھیں گی) کہ اس
جیسی آواز کسی نے کبھی بھی نہ سنی ہوگی کہیں گی۔

نحن	المخالدات	فلا	نجد
ونحن	الناعمات	فلا	نجد
ہم	ہمیشہ رہنے والیاں	ہیں	کبھی ختم نہ ہوں گی
ہم	ناز و نعمت میں رہنے والیاں	ہیں	کبھی ختم نہ ہوں گی

و نحن الراضيات فلا نسخط
طوبى لمن كان لنا و كنا له
ہم راضی و خوش رہنے والیاں ہیں کبھی ناراض نہ ہوں گی
بھلائی ہو اس کے لئے جو ہمارا بن گیا اور ہم اس کے ہو گئے

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں اطراف میں کنواری لڑکیاں آنے سے سامنے کھڑی ہو کر ایسی آوازوں سے گائیں گی کہ تمام لوگ اس کو سنیں گے۔ اور اہل جنت اس سے زیادہ لذت جنت میں نہیں دیکھیں گے۔ ہم نے عرض کیا اے ابو ہریرہ وہ کیا گائیں گی؟ فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو تسبیح و تحمید اور تقدیس اور اللہ عزوجل کی تعریف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کا تنا سونے کا اور شاخیں زبرجد اور موتیوں کی ہوں گی۔ اس کے لئے ایک ہوا چلے گی جس کے سے سننے والوں نے اس سے بڑھ کر لذیذ آواز کبھی نہیں سنی ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوریں جنت میں اس طرح گائیں گی۔ کہیں گی۔

نحن الحور الحسن
خلقن کرام
ہم حسین و جمیل حوریں ہیں
ہمیں عزت مند شوہروں کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔

ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت میں سے ہر ایک کا چار ہزار کنواری لڑکیوں آٹھ ہزار بیواؤں اور ایک سو حوروں سے نکاح کیا جائے گا۔ وہ ہر ہفتے میں جمع ہوں گی اور ایسی پیاری آوازوں سے ذیل کے اشعار پڑھیں گی کہ مخلوق نے اس طرح کی پیاری آواز کبھی نہ سنی ہوگی۔

نحن الخالدات فلا نپوب
ونحن الناعمات فلا نپاس

ونحن الراضيات فلما نسخط
نحن المقيمات فلما نطعن
طوبى لمن كان لنا وكننا له
(ترجمہ وہی ہے جو گزر چکا ہے)

ابو امامتہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی جنت میں داخل ہو گا تو اس کے سراور پیروں کے پاس دو حوریں بیٹھی ہوں گی اور ایسی پیاری آواز سے گائیں گی جو کسی انسان یا جن نے نہ سنی ہو اور یہ آواز مزا میر شیطان میں سے نہیں ہوگی۔
ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کی بیویاں اپنے شوہروں کے ہاں ایسی پیاری آوازوں سے گائیں گی جو کسی نے نہ سنی ہوگی وہ یہ اشعار پڑھیں گی۔

نحن الخيرات الحسان
ازواج قوم کرام
ہم عمدہ اور حسین عورتیں ہیں
عزت مند قوم کی بیویاں ہیں
ینظرون بقرة اعین

اور یوں بھی کہیں گی۔

جو آنکھوں کی ٹھنڈک سے دیکھتے ہیں

نحن الخالدات فلما نمتنہ
نحن الائمات فلما تعلفنہ
نحن المقيمات فلما نضعنہ

ترجمہ گزر چکا ہے

ابن وہب فرماتے ہیں کہ سعید ابن ابی ایوب نے مجھ سے فرمایا کہ ایک قریشی شخص نے ابن شہاب سے پوچھا کیا جنت میں سماع (گیت) ہوگی؟ اس لئے کہ مجھے سماع بہت پسند

ہے۔ فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ابن شہاب کی جان ہے جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے اوپر موتی اور زبرجد ہیں۔ اس کے نیچے ابھرے ہوئے پستانوں والی لڑکیاں ہیں۔ وہ مختلف آوازوں میں یوں گائیں گی۔

نحن الناعمات فلما نباس

نحن الخالدات فلما نموت

ہم نازو نعمت میں رہنے والیاں ہیں کبھی خستہ حال نہ ہوں گی
ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی نہیں مریں گی
جب درخت یہ اشعار سنے گا۔ تو ایک دوسرے سے ٹکرا جائے گا۔ تو وہ لڑکیاں اس
کو جواب دیں گی۔ پھر ہمیں معلوم نہیں کہ ان لڑکیوں کی آوازیں پیاری ہیں یا درخت کی
آوازیں۔

ابن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خالد بن زید لہٹ رضی اللہ عنہ سے نقل کر کے فرماتے ہیں کہ
حوریں اپنے شوہروں کے سامنے گائیں گی۔ چنانچہ کہیں گی۔

نحن الخيرات الحسان

ازواج شباب کرام

ہم عمدہ خوبصورت عورتیں ہیں

عزت مند نوجوانوں کی بیویاں ہیں

نحن الناعمات فلما نباس

نحن الخالدات فلما نموت

ہم نازو نعمت میں رہنے والیاں ہیں کبھی خستہ حال نہ ہوں گی
ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی نہیں مریں گی

ونحن الراضيات فلما نسخط
نحن المقدمات فلما نطعن

اور ہم راضی رہنے والیاں ہیں کبھی ناراض نہ ہوں گی
اور ہمیشہ ایک حالت پر قائم رہنے والیاں کبھی بوڑھی نہ ہوں گی

ان میں سے ایک کے سینے پر لکھا ہوا ہو گا۔ تو میرا محبوب ہے اور میں تیری محبوب
ہوں۔ میری خواہش آپ پر ختم ہے۔ میری آنکھوں نے تجھ جیسے کو نہیں دیکھا۔ یحییٰ ابن ابی کثیر
فرماتے ہیں کہ حوریں جب اپنی شوہروں سے باب جنت کے پاس ملاقات کریں گی تو ان سے
کہیں گی کہ ہم نے تمہارا بہت لمبا نظار کیا اور پھر پیاری آوازوں سے مذکورہ اشعار پڑھیں گی
اور پھر کہیں گی کہ تو میرا محبوب ہے اور میں تیری محبوبہ ہوں۔ نہ تیرے سامنے کوئی کوتاہی ہوگی
اور نہ تجاوز۔

فصل :

اہل جنت کے لئے اس سے بھی بڑھ کر اعلیٰ سماع (گیت) ہو گا

ابن ابی الدنیا وزاعی سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل
ؑ کی آواز جیسی کوئی آواز پیدا نہیں فرمائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے تو وہ گیت
شروع کریں گے تو آسمان میں کوئی ایسا فرشتہ باقی نہیں رہے گا جس پر اس کی تسبیح اور عبادت
منقطع نہ ہو جائے۔ جتنا اللہ چاہیں گے تو اسکی وجہ سے ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد
فرمائیں گے میری عزت کی قسم اگر میرے بندے میری عظمت کو جانتے تو میرے علاوہ غیر کی
عبادت نہ کرتے۔ محمد بن الہذکدہ رانس بن مالک ؑ سے نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن
ایک پکارنے والا پکارے گا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو مزا میر شیطان اور لہو کی مجلسوں سے اپنے
کانوں اور دلوں کی حفاظت کرتے تھے؟ ان کو مشک کے باغ میں ٹھہرا دو۔ پھر فرشتوں سے ارشاد
فرمائیں گے کہ ان کو میری بزرگی اور تعریف (کے گیت) سنا دو۔

ابن ابی الدنیا مالک ابن دینار سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد (وان له عندنا لزلفی وحسن ماب) کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہو گا تو جنت میں بہت اونچے منبر کی تنصیب کا حکم دیا جائے گا۔ پھر آواز دی جائے گی اے داؤد اس منبر پر اس پیاری اور نرم آواز سے میری بزرگی بیان کر جس طرح تو دنیا میں میری بزرگی بیان کرتا تھا۔ چنانچہ داؤد ؑ کی آواز جنتوں کو جنت کی دوسری نعمتوں سے فارغ کر دیگی۔ یہی اللہ تعالیٰ کے ذیل ارشاد سے مراد ہے۔

وان له عندنا لزلفی وحسن ماب اور اسکا ہمارے یہاں مرتبہ ہے اور اچھا
(سورۃ ص ۴۰) ٹھکانا۔

شہر بن حوشب ؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل و ثناء فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے بندے دنیا میں پیاری آواز کو پسند کرتے تھے۔ لہذا میرے بندوں کو سناؤ چنانچہ فرشتے تسبیح و تہلیل اور تکبیر کی آوازیں شروع کر دیں گے۔ وہ ایسی پیاری آوازیں ہوں گی کہ انہوں نے اس طرح کبھی نہ سنی ہوں گی۔ عبداللہ بن الامام احمد اپنے والد سے (کتاب الزہد) میں مالک بن دینار سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد (وان له عندنا لزلفی وحسن ماب) کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت داؤد ؑ کو عرش کے ساق کے پاس کھڑا کر کے ارشاد فرمائیں گے۔ اے داؤد آج اپنی پیاری اور نرم آواز سے میری بزرگی بیان کر۔ حضرت داؤد ؑ عرض کریں گے۔ پروردگار کیسے آپ کی بزرگی بیان کروں حالانکہ وہ تو آپ نے دنیا میں مجھ سے سلب فرمائی ہے۔ ارشاد ہو گا میں دوبارہ آپ کو عطاء کروں گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ داؤد ؑ کو اس سے بڑھ کر حسین آواز عطاء فرمادیں گے تو داؤد ؑ کی آواز اہل جنت کو دیگر نعمتوں سے فارغ کر دیگی۔

ابن ابی الدنیا ابن ابی لبابہ ؓ سے نقل کرتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے پھل زبرجد یا قوت اور موتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجیں گے اس درخت سے ایسی آوازیں پیدا ہوں گی کہ اس سے بڑھ کر پیاری اور لذیذ آوازیں کسی نے نہ سنی ہوں گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک اتنا بڑا تناور درخت ہے کہ ایک

سوار سو سال تک اس کے سایہ میں چلتا رہے تو اس کو طے نہ کر سکے۔ اہل جنت اس کے سائے میں بیٹھ کر آپس میں باتیں کریں گے تو ان میں سے بعض کو اشتہا پیدا ہوگی اور وہ دنیا کے لہو و لعب کو یاد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جنت سے ہوا بھیج کر اس کو حرکت دیں گے جس کی وجہ سے وہ دنیا کی تمام لہو و لعب کی چیزیں بر سادے گا۔ سعید بن سعید الحارثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ بیان کیا گیا کہ جنت میں ایک گنجان درخت ہو گا جس کا تنا سونے کا اور شاخیں موتیوں کی ہوں گی۔ جب اہل جنت کو پیاری آواز سننے کی چاہت پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان گنجان درختوں پر ایسی ہوا بھیجیں گے۔ جس سے ان کی چاہت کے مطابق ہر قسم کی آواز پیدا ہوگی۔

فصل :

اس سے بڑھ کر اہل جنت ایک اعلیٰ قسم کی آواز سنیں گے جس کے سامنے تمام آوازیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہوں گی یہ اس وقت ہو گا جبکہ اہل جنت اللہ عزوجل کے کلام، سلام اور خطاب سے مشرف ہوں گے اور وہاں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ ان کو اپنا کلام سنائیں گے۔ جب یہ لوگ اللہ کا کلام سنیں گے تو یوں معلوم ہو گا کہ اس سے پہلے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ عنقریب اس کے متعلق صحاح کی احادیث آپ کے سامنے گذر جائیں گی۔ اور ان احادیث کا سننا بھی دنیا میں محبوب اور کانوں میں پڑنے والی سب سے زیادہ باعث لذت اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس لئے کہ اللہ کا دیدار اور اس کا کلام سننے سے بڑھ کر جنت میں کوئی چیز زیادہ لذیذ نہیں ہوگی۔ اور اہل جنت کو اس سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں دی جائے گی۔

عبداللہ بن ابی بریدہ فرماتے ہیں کہ جنتی ہر دن دو مرتبہ اللہ جل جلالہ کے پاس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنا کلام پڑھ کر سنائیں گے۔ ہر آدمی اپنے مخصوص سونے موتی اور زبرجد زرد اور یاقوت سے بنے ہوئے منبر پر بیٹھے گا۔ اس کے بغیر نہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور نہ اس سے بڑھ کر پیاری آواز انہوں نے سنی ہوگی۔ اس کے بعد ناز و نعمت میں آنکھوں کی ٹھنڈک کے ساتھ اپنی منزل کی طرف لوٹیں گے جس طرح گذشتہ کل لوٹے ہوں گے۔

اٹھاونواں باب

اہل جنت کی سوار یوں اور گھوڑوں کا بیان

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک صاحب نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں داخل فرما دیا تو تم اگر یہ چاہو گے کہ وہاں تمہیں سرخ موتی کے ایسے گھوڑے پر سوار کر دیا جائے جو تمہیں جنت میں وہاں لے کر اڑے جہاں تم چاہو تو یہ بھی ہو جائے گا: ایک صاحب نے آپ سے پوچھا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم: کیا جنت میں اونٹ بھی ہوں گے؟ فرمایا (راوی نے) کہ ان سے آپ نے وہ بات نہ فرمائی جو ان کے دوسرے ساتھی سے فرمائی تھی۔ آپ نے یہ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرمائیں گے تو تمہیں وہ سب ملے گا جو تمہارا نفس چاہے گا اور تمہیں اچھا لگے گا۔

حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول مجھے گھوڑا پسند ہے کیا جنت میں گھوڑا ہو گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر تمہیں جنت میں داخل کر دیا گیا تو تمہارے پاس یا قوت کا بنا ہوا ایک گھوڑا لایا جائے گا جس کے دو پر لگے ہوں گے تمہیں اس پر سوار کر دیا جائے گا پھر تم جہاں چاہو گے وہ تمہیں لے کر اڑتا پھرے گا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا فردوس بہت بلند و بالا مقام ہے اسی سے جنت کی نہریں پھوٹی ہیں اور قیامت کے دن اس پر عرش رکھا جائے گا۔ ایک صاحب کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھوڑا پسند ہے: کیا جنت میں گھوڑا ہو گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے جنت میں ایسے باریک کمروالے عمدہ گھوڑے اور اونٹ ہیں جو جنت کے درختوں کے پتوں کے درمیان میں سے تیزی سے گزریں گے اہل جنت جہاں چاہیں گے اس پر سوار ہو کر

ایک دوسرے سے ملاقات کے لئے جائیں گے۔ ایک دوسرے صاحب کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ! مجھے اونٹ پسند ہے راوی نے آگے آخر تک اسی طرح حدیث بیان کی۔

واصل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے گھوڑے شریف النسل عمدہ اور سفید ہوں گے گویا کہ وہ یاقوت ہیں: جنت میں اونٹوں اور گھوڑوں کے علاوہ چوپایوں میں سے کوئی جانور نہیں ہے۔

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے پاس سرخ یاقوت کے ایسے گھوڑے آئیں گے جن کے پر لگے ہوئے ہوں گے۔ وہ نہ پیشاب کریں گے اور نہ لید۔ یہ ان پر بیٹھ جائیں گے وہ ان کو لیکر جنت میں اڑتے پھیریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لئے تجلی فرمائیں گے جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے تو سجدے میں گر پڑیں گے۔ ارشاد ہو گا سراٹھالو یہ عمل کا دن نہیں ہے۔ بلکہ یہ نعمتوں اور عزتوں کا دن ہے۔ چنانچہ وہ اپنے سراٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر خوشبو برسا دیں گے۔ ان کا گذر مشک کی ٹیلوں پر ہو گا تو اللہ تعالیٰ ان ٹیلوں پر ایک ہوا چلائیں گے جس کی وجہ سے وہ اپنے اہل کی طرف اس حال میں لوٹیں گے کہ ان کے بال پراگندہ اور غبار آلود ہوں گے۔

انسٹھ واں باب

جنتیوں کا ایک دوسرے سے ملاقات اور ان کا آپس میں دنیوی احوال کا مذاکرہ

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

پھر منہ کیا ایک نے دوسرے کی طرف پوچھنے لگے (ایک دوسرے سے) ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا میرا ایک ساتھی تھا جو کہا کرتا کیا تو یقین کرتا ہے۔ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو گئے اور ہڈی کیا ہم کو جزا ملے گی؟ کہنے لگا بھلا تم جھانک کر دیکھو گے۔ پھر جھانکا تو اس کو دیکھا بچوں بیچ دوزخ کے۔ بولا قسم اللہ کی تو تو مجھ کو ڈالنے لگا تھا گڑھے میں اور اگر نہ ہوتا میرے رب کا فضل تو میں بھی ہوتا انہی میں جو پکڑے ہوئے آئے۔

فَأَقْبِلْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ . يَقُولُ
إِنَّكَ لَمِنَ الْمَصْدُوقِينَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا
تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَدِينُونَ ۝ قَالَ هَلْ
أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ۝ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ
الْحَجِيمِ قَالَ تَاللَّهِ إِن كُنتَ لَتَرِ دِينِ
۝ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتَ مِنَ
الْمُخْضَرِينَ . (سورة الصافات ۵۰-۵۷)

اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ اہل جنت آپس میں بیٹھ کر دنیوی احوال کے متعلق تبادلہ خیال کریں گے۔ اس دوران ان میں سے ایک شخص کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور آخرت کا انکار کرتا تھا اور اس قسم کی باتیں کرتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے آیات مذکورہ میں اس سے نقل کی ہیں۔ یعنی مجھ سے یہ کہا کرتا تھا کیا تو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ہمیں ہمارے

اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور حساب کیا جائے گا جبکہ ہم گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے۔ اور صرف مٹی اور ہڈیاں باقی رہ چکی ہوں گی؟ پھر مومن اپنے جنتی بھائیوں سے کہے گا۔ کیا تم اس کو جہنم میں جھانک کر دیکھو گے؟ چلو میرے اس ساتھی کا ٹھکانا اور انجام دیکھ کر آتے ہیں۔

یہ قول تو سب اقوال سے زیادہ ظاہر ہے۔ اس میں دو قول اور بھی ہیں۔ (۱) فرشتے ان تذکرہ کرنے والوں سے پوچھیں گے (هل انتم ساطعون؟ کیا تم جھانک کر اس کو دیکھو گے؟) یہ قول عطاء رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائیں گے۔ هل انتم ساطعون؟ لیکن صحیح قول پہلا ہے کہ یہ مومن کا مقولہ ہے جو اپنے ساتھی کی حالت کی اطلاع اپنے ہم نشینوں کو دے رہے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک کھڑکی ہے جب مومن اپنے دنیوی دشمن کی طرف دیکھنے کا ارادہ کرے گا تو اس کڑکی سے جھانک کر اس کو دیکھے گا ”واطلاع“ کا معنی ”شرف“ ہے۔ مقاتل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مومن اپنے ساتھیوں سے کہے گا کیا تم جھانک کر دیکھو گے۔ وہ جواب میں کہیں گے۔ آپ اس کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں لہذا آپ ہی جھانک کر دیکھ لیں۔ چنانچہ جب وہ جھانکے گا تو اس کو جہنم کے بیچ میں دیکھ لے گا اگر اللہ اس کی پہچان نہ کراتے تو مومن اس کو نہیں پہچان سکتا۔ اس لئے کہ عذاب کی وجہ سے اس کا چہرہ اور رنگ نہایت بگڑ چکا ہو گا۔ اس وقت مومن یہ کہے گا خدا کی قسم تو مجھ کو بھی گڑھے میں ڈالنے لگا تھا اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو میں بھی تیرے ساتھ انہی میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

واقبل بعضهم علی بعض يتساءلون
 ○ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين
 ○ فمن الله علينا ووقنا عذاب السموم
 ○ انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر
 الرحيم
 (سورة الطور ۲۴-۲۶)

اور منہ کیا بعضوں نے دوسروں کی طرف
 آپس میں پوچھتے ہوئے بولے ہم بھی تھے
 اس سے پہلے اپنے گھروں میں ڈرتے رہتے۔
 پھر احسان کیا اللہ نے ہم پر اور بچا دیا ہم کو لو
 کے عذاب سے ہم پہلے سے پکارتے تھے اس
 کو بیشک وہی ہے نیک سلوک والا مہربان۔

ابو امامتہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا کہ اہل جنت ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والے نیچے والوں سے ملاقات کریں گے مگر نیچے والے اوپر والوں سے ملاقات نہیں کر سکیں گے مگر وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے وہ اونٹوں پر سوار ہو کر ان کے پاس جہاں سے چاہیں گے اس حال میں آئیں گے کہ اپنے بچوں کو پیچھے بٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اور اس سے پہلے بھی اس کے متعلق حدیث گزر چکی ہے کہ اہل جنت ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے جس کی وجہ سے ان کی لذت اور سرور مکمل ہو گا۔ اسی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارثہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے حارثہ آپ نے کس حال میں صبح کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں سچا مومن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر حق کے لئے ایک حقیقت ہوتی ہے تو تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے شب بیدار کی اور دن کو پیاسا رہا گویا کہ میں اپنے رب کے عرش کو سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اور اہل جنت کو جنت میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے اور جہنمیوں کو اس میں عذاب ملتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایسا بندہ ہے جس کے دل کو اللہ نے منور فرمایا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ایک دوسرے کی ملاقات کی خواہش ظاہر کریں گے۔ تو ان کے پلنگ خود چل کر جمع ہو جائیں گے۔ ایک جنتی دوسرے سے پوچھے گا آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے کب ہماری بخشش فرمائی؟ اس کا ساتھی جواب دے گا کہ ہم فلاں دن فلاں فلاں مقام پر تھے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اس نے ہماری مغفرت فرمائی۔

شعیب بن مانع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت کو یہ نعمت بھی ملے گی کہ وہ عمدہ سواروں پر سوار ہو کر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور ان کو جنت میں زین کسا ہوا گھوڑا دیا جائے گا جو نہ لید کرے گا اور نہ پیشاب یہ لوگ اس پر سوار ہو کر جہاں تک اللہ چاہیں گے پہنچ جائیں گے۔ ان کے اوپر ایک بادل سا آئے گا جس میں وہ

انعامات ہوں گے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے ہوں گے اور نہ کان نے سنے ہوں گے، یہ کہیں گے ہم پر برسادو، چنانچہ وہ برستار ہے گا۔ ان کو ان کی امیدوں سے بڑھ کر ملے گا، پھر اللہ تعالیٰ ضرر سے پاک ہوا بھیجیں گے جو ان کے دائیں اور بائیں جانب سے مشک کے ٹیلوں سے مشک کو اڑا کر ان کے گھوڑوں کی پیشانیوں اور ان کے سروں اور مانگوں میں بسادے گا ان میں ہر آدمی کے لئے ان کی چاہت کے مطابق لو سے نیچے تک سر کے بال ہوں گے تو مشک ان کے اس بالوں میں اور کپڑوں میں اور گھوڑوں میں خوب لگ کر رہے گا۔ پھر یہ لوگ چلنا شروع کریں گے جہاں تک اللہ نے چاہا پہنچیں گے۔ ان میں سے بعض کو ایک عورت پکار کر کہے گی۔ اے اللہ کے بندے کیا آپ کو ہماری ضرورت نہیں؟ جنتی کہے گا تو کیا ہے؟ اور کون ہے؟ وہ جواب دے گی میں تیری بیوی اور محبوبہ ہوں۔ جنتی کہے گا کہ مجھے تو آپ کی جگہ کا علم ہی نہیں تھا کہ تو کہاں ہے؟ وہ کہے گی کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد معلوم نہیں۔

فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرۃ سو کسی جی کو معلوم نہیں جو چھپا دھری ہے
اعین: جزاء عما كانوا يعملون۔ ان کے واسطے آنکھوں کی ٹھنڈک بدلا اس کا
(سورۃ السجدہ) جو کرتے تھے۔

جنتی کہے گا خدا کی قسم کیوں نہیں معلوم۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ شاید اس کو جنت کی دوسری عزتوں اور نعمتوں نے اس جگہ سے چالیس سال مشغول رکھا ہو گا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت نہایت ہی سیاہ سفید اونٹوں پر سوار ہو کر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے جن پر سونے کے کجاویں ہوں گے ان کے کھر مشک کا غبار اڑائیں گے۔ ان میں سے ایک اونٹ کا لگام دنیا اور اس میں کچھ ہے سے بہتر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرئیل علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق پوچھا۔

ونفخ فی الصور فصعق من فی السموت ومن فی الارض الا من شاء
اللہ۔ (سورۃ الزمر ۶۸)

اور پھونکا جاوے گا صور میں پھر بے ہوش ہو جائے جو کوئی ہے آسمانوں میں اور زمین میں مگر جس کو اللہ چاہے (وہ بے ہوش نہ ہوں گے)

جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد شہداء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے گرد اس حال میں اٹھائیں گے کہ تلواریں لٹکائے ہوئے ہوں گے۔ فرشتے ان کے پاس محشر سے یا قوت کے عمدہ اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے جن کی لگائیں سفید موتی کی نبی ہوں گی۔ کجاوے سونے کے ہوں گے قلا دیں موٹے اور باریک ریشم کے ہوں گے اور تکتے ریشم سے زیادہ نرم ہوں گے اس کے ایک قدم اتنی مسافت کی ہوگی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے اور اسی طرح جنت میں گھوڑوں پر سوار ہو کر چلیں گے۔ پوری سیر و تفریح کرتے وقت وہ یہیں کہیں گے ہمیں لے چلو تاکہ ہم دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے درمیان کیسے فیصلہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف مسکرائیں گے اور جب اللہ تعالیٰ کسی جگہ اپنے بندے کے لئے مسکراتا ہے تو اس پر کوئی حساب نہیں ہوتا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کی شاخوں سے جوڑے نکلتے ہیں اور اس کی جڑ سے موتی اور یا قوت کے زین کسے ہوئے سونے کے ایسے گھوڑے نکلتے ہیں جو نہ پیشاب کریں گے اور نہ لید ان کے پر لگے ہوں گے۔ قدم اتنا تیز ہو گا جہاں تک نگاہ جاتی ہے۔ اہل جنت ان گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے وہ ان کو لیکر اڑتے پھریں گے۔ ان سے کم درجے والے جنتی عرض کریں گے اے پروردگار آپ کے یہ بندے کس عمل کے ذریعہ اس عزت کو پہنچے؟ ارشاد ہو گا یہ لوگ رات کو نماز پڑھتے تھیں اور آپ لوگ سوتے تھے، یہ روزہ رکھتے تھے اور آپ لوگ کھاتے تھے۔ یہ خرچ کرتے تھے اور آپ لوگ بخل سے کام لیتے تھے، یہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے تھے اور آپ لوگ بزدلی دکھاتے تھے۔

فصل :

اس سے بڑھ کر یہ لوگ اللہ کے دیدار اور اس کا کلام سننے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس کی رضامندی سے مالا مال ہوں گے۔ اگر اللہ نے چاہا تو عنقریب اس کے دیدار کا بیان آنے والا ہے۔

سائھواں باب

جنت کے بازار اور وہ انعامات جو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے بندوں کے لئے تیار کئے ہیں

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی لوگ ہر جمعہ کے دن جمع ہوا کریں گے پھر شمالی ہوا چلے گی تو وہاں کاگرد و غبار (جو مشک اور زعفران ہے) ان کے چہروں اور کپڑوں پر پڑے گا جس سے ان کا حسن و جمال اور زیادہ ہو جائے گا پھر جب اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ کر آئیں گے تو ان کا بھی حسن و جمال بڑھ گیا ہو گا ان کے گھر والے ان سے کہیں گے خدا کی قسم تمہارا حسن و جمال ہمارے بعد تو بہت بڑھ گیا ہے پھر وہ جواب دیں گے کہ خدا کی قسم تمہارا بھی حسن و جمال ہمارے بعد زیادہ ہو گیا۔

سعید بن مسہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ابو ہریرہ سے ملے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہتا ہوں کہ وہ مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں اکٹھا فرمادیں۔۔۔ سعید بن المسہب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا جنت میں بازار بھی ہو گا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلایا ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے اعمال کی فضیلت کے مطابق جگہ پائیں گے۔ پھر دنیا کے دنوں کے حساب سے ایک جمعہ کے برابر زمانہ میں آواز دی جائے گی جس سے وہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے اور ان لوگوں پر اس کا عرش ظاہر ہو گا اور خود پروردگار ان کے لئے جنت کے کسی باغ میں ظاہر ہوں گے اور ان کے لئے نور موتی یا قوت زمر چاندی اور سونے کے منبر رکھے جائیں گے ان لوگوں میں نسبتاً جو سب سے معمولی اور ادنیٰ ہوں گے وہ بھی مشک اور کافور کے ٹیلوں پر ہوں گے یہ لوگ یہ نہ سمجھیں گے کہ منبروں والے ان سے اچھے اور افضل ہیں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیا تم سورج اور چودھویں کا چاند دیکھنے میں کوئی شک و شبہ کرتے ہو ہم نے عرض کیا جی نہیں۔ ارشاد فرمایا اسی طرح تم اپنے رب کا دیدار کرنے میں کوئی شک و شبہ نہ کرو گے۔ اس مجلس میں جتنے ہیں سب سے ایک ایک سے اللہ تعالیٰ روبرو بات چیت کریگا حتیٰ کہ وہ آدمی سے فرمائے گا۔ اے فلاں کے بیٹے فلاں تجھے وہ دن یاد ہے جب تو نے فلاں فلاں بات کہی تھی۔ اس طرح اس کو اس کی بعض نافرمانیاں یاد دلائے گا جو اس نے دنیا میں کی تھیں۔

وہ عرض کرے گا کیوں نہیں لیکن کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا حق تعالیٰ فرمائیں گے۔

یقیناً بخش دیا میری بخشش کی وسعت کی وجہ سے تو تو اس درجہ تک پہنچا ہے اتنے میں ان کو اوپر سے ایک بادل ڈھانپ لے گا پھر اس کو ان پر ایسی خوشبو برسانے کا حکم دیا جائے گا کہ اس جیسی خوشبو کسی چیز کی نہیں دیکھی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہمارے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہو گا اٹھو ہم نے جو کچھ انعام و اکرام لوگوں کے لئے مہیا کر رکھا ہے اس کی طرف بڑھو اور جو چاہو لو۔ اب ہم ایک بازار میں آئیں گے جسے فرشتے گھیرے ہوں گے اس میں ایسی ایسی چیزیں ہوں گی کہ اس جیسی نہ آنکھوں نے دیکھی ہوں گی نہ کانوں نے کبھی سنی ہوں گی اور نہ کبھی دل میں ان کا خیال گزرا ہو گا اور ہماری طرف لائی جائے گی جو ہم چاہیں گے وہاں خرید و فروخت نہ ہوگی اس بازار میں جنتیوں کی آپس میں ملاقات ہوگی۔ بلند مرتبہ والا آگے بڑھے گا اور اپنے سے نیچے مرتبہ والے سے ملے گا۔ جبکہ ان میں کوئی بھی کم درجہ کا نہیں ہے وہ اس کا لباس دیکھ کر خوش ہو گا بھی اس کی باتیں ختم نہ ہوں گی کہ اس کو خیال آئے گا کہ اس کا لباس اس سے بہتر ہے اور ایسا اس لئے ہو گا کہ وہاں کسی کو رنج و الم زیبا نہیں۔ پھر ہم اپنے گھروں میں واپس آئیں گے ہماری بیویاں ہمارا استقبال کریں گی اور خوش آمدید کہیں گی تم آئے ہو جبکہ تم حسن و جمال میں اس سے بڑھ کر ہو جب تم ہمارے پاس سے گئے تھے۔ ہم کہیں گے کہ آج ہم نے اپنے پروردگار جبار کے ساتھ ہم نشینی کی ہے اس لئے لائق ہے کہ ہم اس حالت میں پھریں۔

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے (مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک

بازار ہے جس میں خرید و فروخت نہیں ہے بلکہ اس میں مردوں اور عورتوں کی تصویریں ہیں جب کوئی آدمی کسی تصویر کو پسند کر لے گا تو وہی صورت اختیار کر لے گا۔

انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی کہیں گے بازار چلتے ہیں چنانچہ وہ مشک کے نیلوں کی طرف چلیں گے پھر جب اپنی بیویوں کی طرف لوٹیں گے تو کہیں گے کہ آج تو تم سے ایسی خوشبو مہکتی ہے جو پہلے نہیں تھی۔ راوی فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جواب دیں گی کہ تم بھی ایسی خوشبو کے ساتھ لوٹ کر آئے ہوں کہ ہمارے پاس سے جاتے وقت وہ خوشبو تم میں نہیں تھی۔

عبداللہ بن المبارک رضی اللہ عنہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جنت میں مشک کے نیلوں کا ایک بازار ہے جنتی اس کی طرف نکل کر اکٹھے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی طرف ایک ہوا بھیجیں گے جو ان کے گھروں میں داخل ہوگی جب یہ لوگ اپنے بیویوں کے پاس لوٹیں گے تو وہ کہیں گی کہ ہمارے بعد تو تمہارا حسن بہت بڑھ گیا ہے۔

جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ہم اکٹھے تھے۔ ارشاد فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت جنت میں ایک بازار ہے جس میں تصویروں کے علاوہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی جب آدمی کو کسی مرد یا عورت کی صورت پسند آئے گی تو اس صورت میں داخل ہو جائے گا۔ واللہ اعلم

اکٹھ واں باباہل جنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا بیان

انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت جبرئیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا سفید شیشہ لائے جس پر چھوٹے چھوٹے نشانات تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرئیل یہ کیا ہے؟ جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا یہ جمعہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو اور آپ کی امت کو فضیلت دی گئی اور لوگ یعنی یہود اور نصاریٰ اس میں تمہارے تابع ہیں۔ اور تمہارے لئے اس میں خیر کی ایک گھڑی ہے اور اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کوئی مسلمان بندہ اس کو نہیں پاتا کہ اللہ سے اس میں بھلائی کا سوال کرے مگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جمعہ کا دن یوم المزید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرئیل یوم المزید کیا ہے؟ جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا تیرے رب نے جنت فردوس میں ایک وادی بنائی ہے جس میں مشک کے کشادہ سرسبز ٹیلے بنائے گئے ہیں جب قیامت کا دن ہو گا اللہ تعالیٰ جتنے فرشتوں کو چاہیں گے نازل فرما دیں گے۔ اس کے گرد نور کے منبر ہوں گے جس پر نبیوں کی نشستیں ہوں گی اور ان منبروں کا سونے کے منبروں سے جو یا قوت اور زبرد سے مرصع ہوں گے گھیراؤ کیا گیا ہو گا۔ ان پر شہداء اور صدیقین کی نشستیں ہوں گی۔ چنانچہ وہ ان ٹیلوں کے پیچھے بیٹھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں تمہارا پروردگار ہوں تم میرے وعدے کی تصدیق کر چکے ہو اب مانگو میں عطا کروں گا۔ اہل جنت عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار ہم آپ سے آپ کی رضا مانگتے ہیں۔ ارشاد ہو گا میں تم سے راضی ہوا اور تمہارے لئے وہ ہے جس کی تم نے تمنا کی ہے اور میرے پاس مزید بھی ہے۔ پس وہ جمعہ کا دن پسند کریں گے اس لئے کہ ان کے رب نے اس میں ان کو بھلائی عطا کی تھی۔ کہہ کا دن وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عرش پر استویٰ کیا اور اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اس میں قیامت قائم ہوگی۔ اس حدیث کے مختلف طرق ہیں اگر اللہ نے چاہا

تو ہم ”باب المزید“ میں اس کی طرف اشارہ کریں گے۔

ابو برة اسلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت دیدار کے لئے صبح ایک جوڑے میں جائیں گے اور شام کو دوسرے جوڑے میں۔ جس طرح تم دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی ملاقات کے لئے صبح اور شام جاتے ہو تو اسی طرح اہل جنت بھی صبح اور شام اپنے رب کے دیدار کرنے کے لئے جائیں گے۔ اور ان کے پاس کچھ ایسی علامات اور اندازے ہوں گے جس سے انکو اللہ کے دیدار کی گھڑی معلوم ہوگی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں رہنے لگیں گے تو ان کے پاس ایک فرشتہ آکر کہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیدار کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ وہ اکٹھے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ داؤد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیں گے تو وہ اپنی مخصوص آواز میں تسبیح و تہلیل پڑھیں گے۔

پھر مائدۃ الخلد رکھا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مائدۃ الخلد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا ایک کونہ مشرق اور مغرب کی درمیانی مسافت سے زیادہ وسیع ہے۔ (یعنی اتنا بڑا دسترخوان ہے) پھر جنتی کھائیں گے اور پیئیں گے اور پہنیں گے۔ اور کہیں گے کہ اب اللہ تعالیٰ کے دیدار کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے ظاہر ہوں گے تو وہ سجدے میں گر پڑیں گے ان سے کہا جائے گا تم دارالعمل میں نہیں ہو بلکہ تم دارالجزاء میں ہو (یعنی یہاں سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں)۔

محمد بن علی بن الحسین ابن فاطمہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کو طوبی کہا جاتا ہے اگر عمدہ سوار اس کے سائے میں ایک گھوڑے پر چلنا شروع کر دے تو سو سال تک چلتا رہے۔ اس درخت کے پتے سبز دھاری دار کپڑے ہیں۔ اور اس کے پھول زرد رنگ کے باغیچے ہیں۔ اس کے چھلکے موٹے اور باریک ریشم ہوں گے اس کے پھل جوڑیں ہیں۔ اور اس کے خوشے زنجیل اور شہد ہیں۔ اس کی مٹی مشک کی اور گھاس زعفران کی ہے اور زمین بہت پختہ ہے۔

اور اس کی جڑ سے سلابیل چشمے اور شراب کی نہریں جاری ہیں اور اس کا سایہ اہل جنت کے لئے مجلس کی جگہ ہے جہاں وہ سب بیٹھ کر آپس میں باتیں کریں گے۔ چنانچہ وہ اسی

گفتگو میں مصروف ہوں گے کہ فرشتے ان کے پاس یا قوت سے پیدا شدہ سواری کے عمدہ اونٹ ہنکاتے ہوئے لے آئیں گے۔ پھر اس میں روح پھونک دیں گے وہ سونے کی زنجیروں سے بندھے ہوئے ہوں گے اور ان کے چہرے تروتازہ حسین ہوں گے گویا کہ وہ چراغ ہیں ان کے بال سرخ ریشم اور سفید پشم کے اختلاط سے ایسے خوبصورت ہوں گے کہ دیکھنے والوں نے اس طرح نہ دیکھیں ہوں گے اس پر کجاوے ہوں گے جس کے تختے موتی اور یا قوت کے ہوں گے جس پر موتیوں اور مرجان کے نگینے لگے ہوں گے اور اس کی گدی سرخ سونے کی ہوگی جس پر سرخ اور سبز رنگ کا بچھونا ہوگا۔ فرشتے (مذکورہ صفات کے حامل) اونٹوں کو ان کے پاس بٹھا دیں گے پھر ان سے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا ہے عنقریب تم اس کا دیدار کرو گے تم سلام کرو گے وہ تمہارے سلام کا جواب دیں گے۔ تم ان سے بات کرو گے اور وہ تم سے بات فرمائیں گے اور اپنے وسعت فضل سے تمہیں مزید عطا فرمائیں گے کیونکہ وہ وسیع رحمت اور بڑے فضل والے ہیں۔ چنانچہ ہر ایک آدمی اپنی سواری پر سوار ہو جائے گا اور پھر ایک سیدھی برابر قطار میں چلنے لگیں گے۔ ایک اونٹنی کا کان دوسرے کے قریب نہیں ہوگا اور نہ ایک اونٹنی کے بالکل متصل چلے گی۔

اور جنت کے کسی درخت پر ان کا گزر نہیں ہوگا مگر وہ ان کو اپنے پھلوں کا تحفہ پیش کریں گے اور ان کا راستہ خالی کر دیں گے تاکہ نہ ان کی صف ٹوٹے اور نہ کسی کو اپنے ساتھی سے الگ کرے۔ پھر جب یہ حضرات جبار تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو وہ ان کے لئے اپنی ذات کو ظاہر فرمائیں گے اور اپنی عظیم شان میں ان کے سامنے تجلی فرمائیں گے۔ اہل جنت بول اٹھیں گے۔ ربنا انت السلام و ربنا انت السلام و لک حق الجلال والاكرام۔ (اللہ تو سلامت رہنے والا ہے اور تجھ ہی سے سلامتی مل سکتی ہے بزرگی اور عظمت تیرا حق ہے) اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائیں گے۔ میں سلامت رہنے والا ہوں اور سلامتی میری طرف سے ہی مل سکتی ہے اور بزرگی اور عظمت میرا ہی حق ہے۔ میں اپنے ان بندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جنہوں نے میری وصیت کی حفاظت کی اور میرے عمد کی رعایت کی اور بن دیکھے مجھ سے ڈرے اور ہر حال میں مجھ سے ڈرنے والے تھے، جنتی کہیں گے اے پروردگار تیری عزت اور جلال اور بلند

مرتبے کی قسم ہم نے اس طرح آپ کی قدر نہیں کی جس طرح کرنے کا حق تھا اور پوری طرح ہم سے آپ کا حق ادا نہ ہو سکا لہذا ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں نے تم سے عبادت کی مشقت ہٹالی ہے اور تمہارے بدنوں کو راحت دی ہے۔ تم نے میرے لئے اپنے بدنوں اور چہروں کو بہت تھکا لیا ہے اب تو تم میری عزت اور رحمت میں پہنچ چکے ہوں۔ جو چاہو مجھ سے مانگو اور تمنا کرو میں تمہاری تمناؤں کو پورا کروں گا۔ آج میں تم کو تمہارے اعمال کے بقدر بدلہ نہیں دوں گا بلکہ اپنی رحمت اور عزت طاقت اور جلال اور اپنے بلند مرتبے اور عظمت شان کے بقدر دوں گا۔ چنانچہ اہل جنت بہت ساری تمناؤں اور بخششوں میں لگ جائیں گے یہاں تک کہ ان میں سب سے کم گھٹیا تمنا کرنے والا شخص پوری دنیا کے برابر (اس کی پیدائش سے لیکر یوم فناء) کی تمنا کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائیں گے کہ تم لوگوں نے اپنی تمناؤں میں کوتاہی کی اور اپنا حق لئے بغیر راضی ہو گئے پس جو تم نے مانگا اور تمنا کی وہ میں نے تمہارے لئے واجب کر دیا اور میں تم سے تمہاری اولاد ملاؤں گا اور وہ زیادہ عطا کروں گا جس میں تمہاری تمناؤں نے کوتاہی کی۔

”وَلَا يَصِحُّ دَفْعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَسْبُهُ أَنْ يَكُونَ

مِنْ كَلَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ - فَغَلَطَ لَهُ بَعْضُ هَؤُلَاءِ الضَّعَفَاءِ فَجَعَلَهُ

مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.“

ضحاک رضی اللہ عنہ کے ارشاد

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفِدَا جَسَدِ دَنِّهِمْ كَثْفًا كَرِيسًا لَأَيُّسَّرَ لَكُمْ

(سورة مریم ۸۵)

رحمان کے مہمان بلائے ہوئے۔

کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ عمدہ اونٹوں پر جس پر کجاوے رکھے ہوں گے سوار ہو کر

آئیں گے۔

باسٹھواں بابجنت میں اہل جنت پر بارش برسنے اور بادل کا بیان

جنت کے بازار کے بیان میں حدیث گزر چکی ہے جس میں یہ ہے کہ دیدار کے دن اہل جنت کو اوپر سے بادل ڈھانپ لے گا اور ان پر ایسی خوشبو برسا دے گا کہ اس جیسی خوشبو انہوں نے کبھی نہیں پائی ہوگی۔ کثیر ابن مرثد فرماتے ہیں مزید انعامات میں سے یہ ہو گا کہ اہل جنت پر بادل کا گزر ہو گا بادل کہے گا تم کیا چاہتے ہو کہ میں تم پر برسوں چنانچہ وہ جس چیز کی تمنا کریں گے وہ ان پر برسائی جائے گی۔

صفی یمانی نے عبدالعزیز ابن مروان سے وفد اہل جنت کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ اہل جنت ہر جمعرات کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مہمان بن کر جائیں گے وہاں ان کے لئے چار پائیاں رکھی جائیں گی۔ آپ اب جس چار پائی پر ہیں ہر ایک آدمی اس سے زیادہ اپنی چار پائی کو پہچانے گا جب وہ ان چار پائیوں پر بیٹھ جائیں گے اور لوگ اپنی اپنی نشستوں پر پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے۔ میرے بندوں اور میری مخلوق اور میرے پڑوسیوں اور میرے مہمانوں کو کھانا کھلا دو۔ چنانچہ وہ کھانا کھالیں گے۔ پھر ارشاد ہو گا ان کو پلا دو۔ فرمایا پھر ان کے پاس مرشدہ مختلف رنگوں کی شراب کے برتن لائے جائیں گے یہ لوگ اس کو پی لیں گے۔ پھر ارشاد ہو گا۔ میرے بندوں نے اور میری مخلوق میرے پڑوسیوں اور میرے مہمانوں نے کھایا پیاب ان کو میوے کھلا دو۔ چنانچہ درخت کے میوے ان کے قریب کر دیئے جائیں گے۔ یہ جتنا چاہیں گے اس سے کھالیں گے۔ پھر ارشاد ہو گا میرے بندوں میرے مخلوق اور میرے پڑوسیوں اور میرے مہمانوں نے کھایا پیاب ان کو لباس پہنا دو۔ چنانچہ ان کے پاس زرد سبز اور سرخ رنگ کے پھل لائے جائیں گے اور ہر رنگ جوڑے ہی اگاتا ہے چنانچہ ان کے سامنے جوڑے اور قمیصیں پھیلا دیئے جائیں گے۔ پھر ارشاد ہو گا کہ میرے بندوں اور میری مخلوق اور میرے پڑوسیوں اور میرے مہمانوں نے کھایا پیاب اور میووں سے ناکہ

حاصل کر لی اور جوڑے پہن لئے اب ان کو خوشبو لگا دو۔ چنانچہ ان پر بارش کی فوار کی طرح خوشبو چھڑکا دی جائے گی۔ پھر ارشاد ہو گا میرے بندوں اور میرے پڑوسیوں اور میری مخلوق اور میرے مہمانوں نے کھایا، پیا اور جوڑے پہنیں اور میوؤں سے لذت حاصل کی اور خوشبو لگائی اب میں ضرور تجلی فرماؤں گا حتیٰ کہ یہ لوگ میرا دیدار کر لیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کے سامنے تجلی فرمائیں گے اور یہ دیدار سے مشرف ہوں گے تو انکے چہرے تروتازہ ہو جائیں گے پھر ان سے ارشاد ہو گا کہ اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ وہاں پہنچ کر ان کی بیویاں ان سے کہیں گی کہ تم ایک صورت پر ہمارے پاس سے نکلے تھے اور اب دوسری صورت میں لوٹ کر آئے ہو؟ وہ جواب دیں گے یہ اس لئے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے تجلی فرمائی اور ہم اس کے دیدار سے مشرف ہوئے تو ہمارے چہرے تروتازہ ہو گئے۔

فصل

اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس دنیا میں بارش کو زندگی اور رحمت کا سبب بنایا ہے بعینہ اس طرح قبروں میں دوبارہ زندہ کرنے کے لئے زمین پر عرش کے نیچے سے لگاتار چالیس دن تک بارش برے گی اور لوگ کھیتی کی طرح زمین کے نیچے سے اگنا شروع ہوں گے۔ اور قیامت کے دن لوگوں کو اس حال میں دوبارہ زندہ کیا جاوے گا اوپر سے ان پر فوار سی برس رہی ہوگی۔ واللہ علم۔

گویا کہ وہ عظیم بارش اسی طرح اثر کرے گی جیسے دنیا میں کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لئے جنت میں بادل اٹھا دیں گے جو ان کی چاہت کے مطابق ان پر خوشبو وغیرہ برسائے گا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے لئے عذاب پر عذاب برسانے کے لئے بادل اٹھادیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے قوم ہود اور قوم شعیب کی ہلاکت کے لئے بادل بھیجے تھے۔ بادل کو اللہ تعالیٰ رحمت اور عذاب دونوں کے لئے استعمال فرماتے ہیں۔

تریسٹھ واں باب

اہل جنت کی بادشاہت کا بیان

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا. (سورة الانسان ۲۰)
اور جب تو دیکھے گا وہاں تو دیکھے نعمت اور سلطنت بڑی۔

مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”ملکا کبیرا“ کا معنی ہے ”ملکا عظیمہما“ (بڑی بادشاہت) اور فرمایا کہ فرشتے ان کی اجازت بغیر ان کے پاس نہیں آئیں گے۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ مذکورہ آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس فرشتے بھیجیں گے فرشتے آکر ان سے داخل ہونے کی اجازت لیں گے اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد خدام ہیں وہ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوں گے۔ حکم بن ابان عکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جنت کے مراتب کا ذکر فرمایا اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی (وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا) بن ابی الحواری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے مذکورہ آیت کی تفسیر میں ابو سلیمان سے سنا ”الملک الکبیر“ یعنی بڑی بادشاہی یہ ہے کہ اللہ کا قاصد اور بھیجا ہوا اس کے پاس تحفے تحائف لیکر حاضر ہو گا تو اجازت کے بغیر جنتی تک اس کی رسائی نہیں ہوگی۔ چنانچہ وہ دربان سے کہے گا میرے لئے اللہ کے دلی سے اجازت لے لو کیونکہ میں بغیر اجازت کے اس کے پاس نہیں پہنچ سکتا ہوں۔ اس کے بعد یہ دربان دوسرے دربان کو اطلاع کرے گا اور وہ تیسرے کو وہ پھر چوتھے کو اسی طرح آخر تک ایک دربان اپنے سے آگے والے کو اطلاع کرتا رہے گا اور اس کے گھر سے دارالسلام کی طرف ایک دروازہ نکلتا ہو گا جس سے یہ جب چاہے اپنے رب کے پاس جاسکے گا پس اس سے بڑھ کر بڑی بادشاہی کیا ہوگی کہ رب العزت کا قاصد بغیر اجازت کے اس کے پاس نہ آسکے اور وہ رب العزت کے پاس بغیر اجازت کے داخل

ہو۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ سب سے کم درجے والے جنتی کے سرہانے دس ہزار خادم کھڑے ہوں گے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے کم درجے والے جنتی کے خدمت کے لئے جبکہ وہاں کوئی بھی ادنیٰ نہیں ہوگا ہر دن صبح اور شام پندرہ ہزار خادم آئیں گے جائیں گے اور ہر خادم کے پاس وہ نئی چیز ہوگی جو دو سرے کے پاس نہیں ہوگی۔

حمید بن ہلال فرماتے ہیں کہ ہر جنتی کے ایک ہزار خادم ہوں گے ہر خادم الگ الگ خدمت اور کام میں مصروف ہوگا۔

ابو عبدالرحمن العجبلی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو موتیوں کی مانند ستر ہزار خادم اس کا استقبال کریں گے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ادنیٰ درجہ کے جنتی کے لئے جبکہ وہاں کوئی بھی ادنیٰ نہیں ہوگا دس ہزار خادم ہوں گے ہر خادم کے پاس ایسا نیا تحفہ ہوگا جو دو سرے کے پاس نہیں ہوگا ابو عبدالرحمن المغافری فرماتے ہیں کہ جنتی کے استقبال کے لئے غلمان کی دو صفیں ہوں گی کہ جنتی کو اس کی انتہا نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ ان کے درمیان سے گزرے گا تو وہ اس کے پیچھے چلیں گے۔

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادنیٰ درجہ کے جنتی کے اسی ہزار خادم اور بہتر بیویاں ہوں گی اور اس کے لئے موتی، یاقوت اور زبرجد کے ایسے گنبد نصب کئے جاویں گے جن کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا کہ جابہ اور صنعاء کے درمیان ہے۔ ابوالحجاج فرماتے ہیں میں ابوامامہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مومن جنت میں داخل ہونے کے بعد پلنگ پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اس کے سامنے خادم کی دو قطاریں ہوں گی ان کے آخر میں ایک دروازہ ہوگا اللہ عزوجل کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس دروازے سے آکر اجازت طلب کرے گا تو سب سے ادنیٰ خادم دروازہ کی طرف اٹھ کر

دیکھے گا تو وہ فرشتہ ہو گا جو اجازت طلب کر رہا ہو گا۔ چنانچہ وہ اپنے سے قریب خادم کو اطلاع دے گا کہ فرشتہ اجازت طلب کر رہا ہے اسی طرح ایک دوسرے کو اطلاع دیتے دیتے مومن کے پاس اطلاع پہنچے گی وہ کہے گا فرشتے کو اجازت دیدو تو پھر یہی بات (فرشتے کو اجازت دیدو) بھی خادم ایک دوسرے سے نقل کرتے کرتے اس خادم کے پاس اطلاع پہنچے گی جو دروازے کے پاس ہے۔ اطلاع کے بعد وہ دروازہ کھولے گا فرشتہ داخل ہو کر سلام کرے گا اور پھر لوٹے گا۔


ضحاک بن مزاحم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی اپنے گھر میں ہو گا کہ اس کے پاس اللہ کا قاصد حاضر ہو کر اجازت طلب کرے گا یوں عرض کرے گا کہ اللہ کے قاصد کے لئے اللہ کے ولی سے اجازت لے لو۔ اطلاع کرنے والا عرض کرے گا اے اللہ کے ولی اللہ کا قاصد آپ کے پاس آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، وہ کہے گا اس کو اجازت دیدو، چنانچہ اطلاع دینے والا فرشتے کو اطلاع دے گا اور وہ اللہ کے ولی کے پاس چلا جائے گا اور اس کے سامنے تحفہ رکھ دے گا اور عرض کرے گا اے اللہ کے ولی تیرے رب نے تجھے سلام کہا ہے اور تحفے کے کھانے کا حکم دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ تحفہ اس کھانے کے مشابہ ہو گا جو وہ کھا چکا ہو گا کہ یہ تو میں ابھی کھا چکا ہوں فرشتہ عرض کرے گا تیرے رب نے تجھے اس کے کھانے کا حکم دیا ہے۔ پھر جنتی اس کو کھانا شروع کر دے گا تو جنت کے تمام پھلوں کا مزہ اس میں محسوس کرے گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد (واتوا بہ متشابہا) کا یہی مطلب ہے۔

مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا کہ سب سے کم درجہ والا جنتی کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ایک آدمی ہے جس کو جنتیوں کے جنت میں داخل کرنے کے بعد لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ کہے گا اے رب میں کیسے داخل ہو جاؤں جبکہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا چکے ہیں اور جو کچھ لینا تھا لے چکے ہیں؟ اس سے کہا جائے گا کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے اتنا ملے جتنا دنیا کے بادشاہوں میں ایک بادشاہ کے لئے ہوا کرتا ہے وہ عرض کرے گا اے رب میں راضی ہوا ارشاد ہو گا کہ اس کے ساتھ تیرے لئے چار گنا اور بھی پانچویں مرتبہ وہ عرض کرے گا میرے

پروردگار میں راضی ہوا اور ارشاد ہو گا کہ تیرے لئے یہ بھی اور اس کے ساتھ دس گنا اور بھی اور تجھے وہ بھی ملے گا جو تیرا دل چاہے اور آنکھوں کو جو اچھا لگے وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار میں راضی ہوا۔

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایسا بنایا کہ اس میں ایک اینٹ سونے کی ہے اور دوسری چاندی کی۔ اور اس میں اپنے ہاتھ سے درخت لگائے اور پھر اس کو حکم دیا بول (بات کر) جنت بولی ”قد افلح المؤمنون“ (مومن کام نکال لے گئے) پھر فرشتے جنت میں داخل ہوئے تو کہنے لگے خوشخبری ہو بادشاہوں کا ٹھکانا ہے۔

اور پہلے ایک حدیث میں گزر چکا ہے کہ اہل جنت کے سروں پر ایسے تاج ہوں گے جیسے بادشاہ پہنتے ہیں۔



چونٹھ واں باب

جنت میں جنتی کو اس کے خیال اور خواہش سے بڑھ کر ملے گا اور جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سے بہتر ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

جدا رہتی ہیں ان کی کروٹیں اپنے سونے کی جگہ سے پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈر سے اور لالچ سے اور ہمارا دیا ہوا کچھ خرچ کرتے ہیں۔ سو کسی جی کو معلوم نہیں جو چھپا دھری ہے ان کے واسطے آنکھوں کی ٹھنڈک بدلا اس کا جو کرتے تھے۔

لنحسبوا في جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعا ولما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.

(سورۃ السجدہ ۱۶-۱۷)

رات کو قیام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے وہ انعامات چھپا کر رکھے ہیں جس کو کوئی نہیں جانتا۔ اور نماز کے لئے اپنے بستروں سے اٹھتے وقت ان کے اضطراب اور پریشانی اور ڈرنے کے بدلے میں ان کو جنت میں آنکھوں کی ٹھنڈک سے نوازیں گے یہ سب غور کرنے کی چیزیں ہیں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عزوجل فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ انعامات تیار کر رکھے ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے ہیں اور نہ کسی کان نے سنے ہیں اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔ اللہ کی کتاب میں اس کا مصداق یہ آیت ہے۔ (فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون) صحیح

مسلم میں سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مجلس میں حاضر تھا جس میں آپ نے جنت کی نعمتیں بیان فرمائی آخر تک حدیث بیان کی پھر حدیث کے آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ کسی بشر کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید میں مذکورہ آیت تلاوت فرمائی۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں تمہارے ایک کمان کے برابر جگہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے (یعنی پوری دنیا سے) ابو امامتہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا جنت کا کوئی طلبگار نہیں حالانکہ جنت بہت بلند مقام ہے۔ رب کعبہ کی قسم جنت چمکتا ہوا نور ہے اور کھل کھلاتا ہوا پھول ہے اور پختہ محل ہے اور جاری نہر ہے اور پکا میوہ ہے۔ اور حسین و جمیل بیوی ہے اور بہت جوڑے ہیں اور ہمیشہ رہنے کے لئے سلامتی کا گھر ہے۔ اور خوشگوار اور نچا مقام ہے۔

جنت کی برتری اور شرافت کے لئے یہی کافی ہے کہ اللہ کی ذات کے واسطے سے جنت کے علاوہ کسی چیز کی دعا نہیں مانگی جاتی ہے۔ اس لئے کہ سنن ابو داؤد میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات کے واسطے سے صرف جنت ہی کے لئے دعا مانگی جاسکتی ہے! ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا کیا تو اس میں وہ نعمتیں پیدا فرمادیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے پھر اس سے فرمایا بول جنت نے کہا ”قد افلح المؤمنون“ (مومن کام نکال لئے گئے) سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک کوڑے کی مقدار جگہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سے بہتر ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ زمین اور آسمان کے درمیانی خلاء (یعنی پوری دنیا) سے بہتر ہے۔

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بواسطہ والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا اگر جنت کی کوئی چیز ناخن پر بھی ظاہر ہو جائے تو دنیا جگمگاٹھے اور بارونق ہو جائے اور اگر اہل جنت میں سے کوئی شخص جھانک لے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے جس طرح سورج سے تاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ اس مقام کی عظمت کا کیا ٹھکانا ہے جس کے درخت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لگائے ہوں اور اپنے محبوب لوگوں کے لئے قرار گاہ بنایا ہو۔ اور اپنی رضا اور رحمت و کرامت سے بھر دیا ہو اور اس کی نعمتوں کو بڑی کامیابی اور بڑی بادشاہت قرار دیا ہو۔ اور تمام بھلائیاں اس میں ودیعت فرمائی ہوں اور ہر عیب اور نقص اور آفت سے اس کو پاک کیا ہو۔ اگر آپ اس کی زمین اور مٹی کے بارے میں پوچھیں تو وہ مشک اور زعفران کی ہے اور اگر آپ اس کی چھت کے بارے میں پوچھیں تو وہ رحمن کا عرش ہے، اگر آپ اس کے گارے کے بارے میں پوچھیں تو وہ خالص مشک ہے۔ اور اگر آپ اس کی کنکریوں کے متعلق پوچھیں تو وہ موتی اور جواہرات ہیں۔ اور اگر آپ اس کے تعمیر کے بارے میں پوچھیں اس کی تعمیر میں ایک اینٹ سونے کی اور دو سری چاندی کی ہے۔ اگر آپ اس کے درختوں کے بارے میں پوچھیں تو اس میں کوئی ایسا درخت نہیں جس کا تنا سونے اور چاندی کا نہ ہو۔ کسی درخت کا تنا لکڑی کا نہیں ہو گا۔ اور اگر آپ اس کے پھلوں کے بارے میں پوچھیں تو وہ منکوں کے برابر بڑے مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھے ہیں۔ اور اگر آپ اس کے پتوں کے بارے میں پوچھیں تو وہ باریک جوڑوں سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اور اگر آپ اس کی نہروں کے متعلق پوچھیں تو اس میں دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزا نہیں بدلا اور شراب کی نہریں ہیں جس میں پینے والوں کے لئے مزا ہے اور جھاگ اتارے ہوئے شہد کی نہریں ہیں۔ اور اگر آپ ان کے کھانے کے متعلق پوچھیں تو وہ میوے ہیں جس کو وہ پسند کرتے ہیں اور پرندے کا گوشت جس کو وہ چاہتے ہیں اور اگر آپ ان کے پینے کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں تو وہ تسنیم اور زنجیل اور کافور ہیں اور اگر آپ ان کے برتنوں کے بارے میں پوچھیں تو وہ شیشے کی طرح صاف سونے اور چاندی کی ہیں۔ اور اگر آپ ان کے دروازوں کی کشادگی کے بارے میں پوچھیں تو ایک دروازے کے دو چوکھٹوں کے درمیان چالیس سال کی مسافت ہے۔ اس کے باوجود اس پر ایسا دن ضرور آئے گا کہ وہ

ازدحام کی وجہ سے بھرا ہوا ہو گا۔ اگر آپ اس کے درختوں پر ہوا چلنے کے بارے میں پوچھیں تو اس کی آواز سے سننے والے کو خوشی ہوگی۔ اور اگر آپ اس کا سایہ معلوم کرنا چاہے تو اس میں ایک ایسا درخت ہے کہ عمدہ تیز سوار اس کے سایہ میں سو سال تک چلتا رہے۔ تو پھر بھی اس کو طے نہ کر سکے۔ اور اگر آپ جنت کی وسعت کے بارے میں پوچھیں تو اس کا عالم یہ ہے کہ ادنیٰ جنتی اپنی بادشاہی اور مسہریوں اور محلات اور باغوں میں دو ہزار سال کی مسافت چلتا رہے گا۔ اور اگر آپ اس کے خیموں اور گنبدوں کے بارے میں پوچھیں تو ایک خیمہ ایک ہی خولدار موتی کا بنا ہو گا جس کی لمبائی ساٹھ میل ہوگی۔

اور اگر آپ اس کے محلات کے متعلق پوچھیں تو وہ تہ بہ تہ بالا خانے بنے ہوئے ہیں جس کی نیچے نہریں بہتی ہیں اور اگر آپ اس کی بلندی کو معلوم کرنا چاہیں تو آسمان کے کنارے میں طلوع ہونے والے یا غروب ہونے والے ستارے کو دیکھ لیں جو مشکل سے نظر آتا ہے۔ اگر آپ ان کے لباس کا پوچھیں تو وہ ریشم اور چاندی ہے اگر آپ ان کے بچھونوں کا پوچھیں تو ان کے استرموٹے ریشم کے ہیں جو اونچے اونچے پانٹلوں پر بچھے ہوئے ہیں اور اگر ان کی مسہریوں کا پوچھیں تو وہ تخت ہیں جس پر سونے کے نگینوں سے مزین چھت بنا ہوا ہے اس میں کسی قسم کا سوراخ نہیں۔ اگر آپ ان کے چہروں کا پوچھیں تو وہ چاند کی طرح حسین ہیں۔ اگر آپ ان کی عمروں کا پوچھیں تو وہ ابوا بشر آدم عليه السلام کے صورت پر تینتیس سال کی عمر میں ہوں گے۔ اور اگر آپ ان کے سماع (گیت) کا پوچھیں تو وہ حور عین میں سے اپنی بیویوں کی پیاری آوازیں سنیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر فرشتوں کی آوازوں کا سننا ہو گا اور پھر ان دونوں سے بھی بڑھ کر رب العالمین کا خطاب سننے سے مشرف ہوں گے اور اگر آپ ان کی سواروں کا پوچھیں جن پر وہ سوار ہو کر ایک دوسرے سے ملاقات کرنے جائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو وہ عمدہ اونٹ ہوں گے یہ جنتوں میں جہاں جانا چاہیں گے وہ ان کو لے چلیں گے۔ اور اگر آپ ان کے زیورات کا پوچھیں تو وہ سونے اور موتیوں کے نقش ہوں گے اور سروں پر تاج ہوں گے۔

اگر آپ ان کے غلام (خدام) کا پوچھیں تو وہ سدا رہنے والے لڑکے ہوں گے گویا کہ وہ موتی ہیں غلاف کے اندر۔ اگر آپ ان کی دلہنوں اور بیویوں کا پوچھیں تو وہ ستاروں کی

طرح حسین اور ہم عمر ہوں گی ان کے اعضاء میں جوانی کا پانی جاری ہو گا ان کے رخساروں کا رنگ گلاب اور سیب کی طرح خوبصورت ہو گا اور پستان انار کی طرح ابھرے ہوئے ہوں گے اور پروئے ہوئے موتیوں کی طرح ان کے دانت ہوں گے۔ اور ان کے سرین نرمی اور لطافت پر مشتمل ہوں گے۔ جب وہ ظاہر ہوگی تو اس کے چہرے کے محاسن میں سورج دوڑتا ہو گا اور جب وہ ہنسے گی تو ان کے دانتوں کے درمیان بجلی چمکے گی۔ ان کی محبت آگ کی طرح تیز ہوگی اور جب وہ جنتی سے بات کرے گی تو پھر دو محبوبوں کی آپس کی گفتگو کا کیا کہنا اور جب وہ اس کو اپنے سینے سے لگائے تو اس معاذے کا کیا عالم ہو گا۔ جنتی کو اس کے رخسار میں اپنا چہرہ ایسا نظر آئے گا جیسا کہ صاف شیشے میں دکھائی دیتا ہے اور اس کی ہڈی کا گودا اس کے گوشت کے اندر سے دکھائی دے گا۔ اس کا چہرہ اور اس کی ہڈی اور اس کے جوڑے اس کو نہیں چھپا سکے گا۔ اگر وہ دنیا میں جھانک لے تو زمین اور آسمان کا درمیانی خلاء خوشبو سے بھر جائے اور مخلوق کی زبانوں پر بے ساختہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور سبحان اللہ کا ورد جاری ہو جائے اور مشرق اور مغرب کا درمیان مزین ہو جائے اور آنکھیں صرف اسی میں مشغول ہو جائیں اور سورج کی روشنی ماند پڑ جائے جس طرح سورج کے سامنے ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔

اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور مافیہا سے بہتر ہے اور جنتی کو اس کا وصال تمام امیدوں اور تمناؤں میں مرغوب ہو گا اور زمانوں کے گزرنے پر ان کا حسن و جمال بڑھتا رہے گا اور بہت زمانہ ساتھ رہنے سے ان کی محبت اور وصال اور بڑھے گا۔ حمل ولادت اور حیض و نفاس سے بری ہوں گی، بلغم اور تھوک پیشاب اور پاخانے اور تمام گندگیوں سے پاک ہوں گی۔ نہ ان کی جوانی ختم ہوگی نہ کپڑے بوسیدہ ہوں گے اور نہ ان کا حسن پرانا ہو گا اور نہ اس کے وصال سے اکتایا جائے گا۔ اس کی نگاہ اپنی خاوند پر ہی بند رہے گی غیر کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی اور اس کے خاوند کی نگاہ بھی اسی پر محصور ہوگی۔ جب اس کی طرف نظر کرے گا تو اس کو خوش کرے گی۔ حکم دے گا تو اطاعت کرے گی اور اس کی عدم موجودگی میں اس کی حفاظت کرے گی۔ جنتی کی عظیم تمنا یہی عورت ہوگی اس سے پہلے اس کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہو گا اور نہ کسی جن نے جنتی جب بھی اس کی طرف نگاہ اٹھائے گا تو اس کا دل سرور سے بھر

جائے گا۔ اور جب بھی اس کے ساتھ ہم کلام ہو گا تو اسکے کان پر دئے ہوئے اور بکھرے ہوئے موتیوں سے بھر جائیں گے۔ اور جب وہ ظاہر ہوگی تو محل اور کمرہ کو نور سے بھر دے گی۔ اگر آپ ان کی عمروں کا پوچھیں تو وہ ہم عمر اور سن شباب کے درمیان میں ہوں گی۔ اگر آپ ان کے حسن کا پوچھیں تو کیا آپ نے سورج اور چاند نہیں دیکھا؟

اگر آپ ان کے قدوں کا پوچھیں تو کیا آپ نے خوبصورت ٹہنیوں کو نہیں دیکھا۔ اور اگر آپ ان کے پستانوں کا ابھار پوچھیں تو وہ عمدہ انار کی طرح ہے اور اگر آپ ان کا رنگ پوچھیں تو گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہے۔ اور اگر آپ ان کے چال ڈھال کا حسن پوچھیں تو وہ بڑا عمدہ اور حسین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں حسن اور احسان جمع فرمایا اور جمال باطن اور ظاہر جمع فرما کر ان کو دلوں کی خوشی کا سبب اور جاذب نظر بنایا۔ اور اگر آپ ان کے حسن عشرت اور لذت کو پوچھنا چاہیں تو وہ خاندوں کو پیار دلانے والیاں اور محبوب ہیں۔ اس عورت کے حسن کے متعلق آپ کا کیا گمان ہے کہ جب وہ اپنے خاوند کے چہرے میں ہنسے گی تو اس کے ہنسنے سے پوری جنت روشن ہوگی اور جب وہ ایک محل سے دوسرے محل میں منتقل ہوگی تو آپ کہیں گے کہ یہ سورج اپنے آسمان کے برجوں میں منتقل ہو رہا ہے۔ اور پھر جب وہ اپنے شوہر کے پاس حاضر ہوں گی تو اس ملاقات کے حسن کا کیا کہنا اور پھر جب وہ اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے گا اور گلے لگائے گا تو اس معاذے کے لذت کا کیا پوچھنا۔

وحدیثہما السحر الجمال لو انہ

لم یجن قتل المسلم المتعزز

وان طال لم یمل وان ہی حدثت

ودالحدث انہالم توجز

اور جب وہ گائے گی تو اس میں کیا لذت ہوگی اور جب آپ اس سے سے محبت کریں گے اور فائدہ اٹھائیں گے تو وہ موانستہ اور فائدہ کیا اچھا ہوگا۔ اور جب آپ اس کا بوسہ لیں گے تو اس سے بڑھ کر آپ کے ہاں کوئی مرغوب چیز نہیں ہوگی اور جب آپ اس کو پکڑ لیں گے تو اس سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور اگر آپ یوم المزید اور اللہ تعالیٰ عزیز و رحیم کے

دیدار کا پوچھیں جس کی ذات تمثیل اور تشبیہ سے منزہ ہیں تو وہ اس طرح ہو گا جیسا کہ آپ دوپہر کے وقت سورج کو اور چودھویں رات میں چاند دیکھتے ہیں۔ اس پر صادقاً، مصدوق ﷺ سے نقل متواتر ثابت ہے جو کہ صحاح اور سنن اور مسانید میں بروایت جریر رضی اللہ عنہما اور صہبہ اور انس رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ اور ابو موسیٰ اشعری اور ابو سعیدی رضی اللہ عنہم موجود ہیں اور کان لگالے جس دن پکارنے والا پکارے گا اے جنتیوں غنقریب تم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار کرو گے۔ یہ سن کر جنتی جواب دیں گے ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ چنانچہ وہ دیدار کے لئے جلدی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ان کے لئے عمدہ اونٹوں کی سواریاں حاضر کر دی جائیں گی یہ جلدی ان پر سوار ہو کر وادی افصح پہنچیں گے جو ان کے دیدار کے لئے مقرر ہوگی۔ یہ سب وہاں جمع ہوں گے وہ داعی ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کرسی کا حکم دیدیں گے جو وہاں نصب کر دی جائے گی۔ اور اہل جنت کے بیٹھنے کے لئے نور موتی سونے اور چاندی زبرجد اور زمر کے بنے ہوئے منبر نصب کر دیئے جائیں گے۔ ان میں ادنیٰ شخص مشک کے نیلوں پر ہو گا جبکہ وہاں کوئی بھی ادنیٰ نہیں ہو گا۔ اور ان کو خیال بھی نہیں ہو گا کہ کرسیوں والے ان سے افضل ہیں۔ یہاں تک کہ جب یہ لوگ اپنی اپنی نشستوں پر اطمینان سے بیٹھیں گے تو پکارنے والا پکارے گا۔ اے جنتیوں اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا۔ جس کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ عرض کریں گے وہ کیا ہے؟ کیا آپ نے ہم کو سرخ رو نہیں کیا اور ہمارے میزان کو بھاری نہیں کیا اور ہمیں جنت میں داخل کر کے جہنم سے نہیں بچایا؟ وہ اسی میں ہوں گے کہ ان کے سامنے ایک نور بلند ہو گا جو جنت کو روشن کر دے گا جنتی سراٹھا کر دیکھیں گے تو وہ جبار جل جلالہ و تقدس اسماء کی ذات اقدس ہوگی۔ وہ ان کے اوپر آکر ارشاد فرمائیں گے اے جنتیوں تم پر سلام ہو جنتی بڑے عمدہ طریقے سے جواب دیں گے کہ اے اللہ تو ہی سلامتی دینے والا ہے اور سلامتی تیرے ہی طرف سے ہی ہے اور بابرکت ہے آپ کی ذات اے بزرگی اور عزت والے۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف تبسم فرما کر تجلی فرمائیں گے اور ارشاد فرمائیں گے اے جنتیوں چنانچہ جنتی سب سے پہلی بات جو اللہ سے سنیں گے۔ کہاں ہیں میرے وہ بندے جنہوں نے بن دیکھے میری اطاعت کی اور تم لوگوں نے آج تک مجھے نہیں

دیکھا تھا۔ یہ انعام کا دن ہے۔ چنانچہ جنتی ایک بات پر متفق ہو کر یہی عرض کریں گے اے اللہ ہم راضی ہو گئے آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ارشاد ہو گا اے جنتیوں اگر میں تم لوگوں سے راضی نہ ہوتا تو تمہیں اپنی جنت میں نہ ٹھہراتا یہ یوم المزید احسان کا دن ہے مجھ سے مانگو جنتی پھر ایک ہی بات پر متفق ہو کر عرض کریں گے اے اللہ ہمیں اپنی دیدار کرا دیں۔ (ان کی درخواست پر) اللہ تعالیٰ پر وہ ہٹالیں گے اور تجلی فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا نور ان کو ڈھانپ لے گا اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے نہ جلنے کا فیصلہ نہ فرماتے تو یہ لوگ جل جاتے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کے ہر شخص سے روبرو بات کریں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص سے فرمائیں گے اے فلاں؟ کیا آپ کو فلاں دن یاد ہے جس دن آپ نے فلاں فلاں کام کیا تھا۔ دنیا کے بعض گناہ اس کو یاد دلائیں گے۔ وہ عرض کرے گا اے پروردگار کیا آپ نے میری بخشش نہیں فرمائی؟ ارشاد ہو گا کہ میری بخشش ہی کی وجہ سے تو آپ اس مرتبے کو پہنچے۔ اس ملاقات میں کیا ہی لذت ہوگی اور آخرت میں اللہ کے دیدار سے نیک لوگوں کی آنکھیں کیسی ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اور صفت خسران کے ساتھ لوٹنے والوں کو زلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔

وجوه يومئذ ناضرة الي ربها ناظرة
 ووجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها
 فاقرة. (سورة القيامة ۲۲-۲۵)

کتنے منہ اس دن تازہ ہیں اپنے رب کی طرف
 دیکھنے والے اور کتنے منہ اس دن ادا ہیں
 خیال کرتے ہیں کہ ان پر وہ آئے جس سے
 ٹوٹے کمر۔

پینسٹھواں باب

اہل جنت کا اپنی آنکھوں سے کھلم کھلا چودھو میں رات کے چاند کی طرح اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا اور اللہ تعالیٰ کا مسکراتے ہوئے ان کے سامنے تجلی فرمانا۔

یہ باب اس کتاب کے اہم اور عظیم الشان ابواب میں سے ہے۔ اس لئے کہ یہ بحث اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور گمراہوں اور بدعتیوں پر سخت ترین چیز ہے۔ یہ وہ مقصد ہے جس کی طرف دوڑنے والوں نے دوڑ لگائی اور رغبت کرنے والوں نے اس میں رغبت کی اور سبقت کرنے والوں نے اس کے لئے عمل کریں۔ اہل جنت جب اس نعمت سے مالا مال ہوں گے تو دوسری تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ اور جہنمیوں پر اللہ کے دیدار کے حرمان کا پردہ جہنم کے عذاب سے زیادہ سخت ہو گا۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے اثبات پر تمام انبیاء اور پیغمبروں اور تمام صحابہ اور تابعین اور ائمہ اسلام کا اتفاق ہے۔ تجاوز کرنے والے بدعتیوں نے اور گمراہ جماعت جہنمیوں نے اور تعطل کے قائل فرقہ فرعونیہ نے اور تمام ادیان سے خارج فرقہ باطنیہ نے اور شیطان کی رسیوں سے استدلال کرنے والے اور اللہ کی رسی سے الگ ہونے والے اور اللہ کے رسول کے اصحاب پر تبراء اور گالی دینے پر ٹوٹ پڑنے والے اور اہل سنت سے لڑنے والے اور اس کے رسول اور اس کے دین کے ہر دشمن سے صلح کرنے والے رافضیوں نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انکار کیا۔ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم کر دیئے جائیں گے۔

اور یہ سب کے سب گمراہوں کی جماعتیں اور لعین گروہ ہے۔ اللہ کے رسول کے دشمن اور اس کے دشمنوں کے ہم جماعت ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے زمانے کی

تمام مخلوق میں بڑے عالم کے بارے میں جو کہ روئے زمین میں اس کا کلیم اور راز دار اور برگزیدہ ہیں بتلایا کہ انہوں نے اپنے رب سے اس کے دیدار کرنے کی درخواست کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

رؤیت باری تعالیٰ کے دلائل

دلیل (۱)۔ فرمایا ہرگز نہ دیکھے گا لیکن تو دیکھتا رہ پہاڑ کی
لن ترانی ولكن انظر الی الجبل فان
استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی
ربہ للجبل جعلہ دکا۔ (سورۃ الاعراف
۱۴۳) آیت مذکورہ سے مختلف طریقوں پر استدلال کیا گیا ہے۔

(۱) کلیم رحمان (موسیٰ علیہ السلام) پر یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ وہ ناجائز چیز کی درخواست کریں۔ اس لئے کہ یہ تو بڑا باطل اور اعظم المحال ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر کوئی نکیر نہیں فرمائی اگر رؤیت باری محال ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس پر ضرور نکیر فرماتے۔ اسی وجہ سے جب ابراہیم خلیل اللہ نے مردوں کے زندہ ہونے کی کیفیت دکھانے کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے نکیر نہیں فرمائی۔ اور اسی طرح جب عیسیٰ بن مریم علیہما السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آسمان سے دسترخوان اتارنے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی نجات کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر نکیر فرمائی چنانچہ ارشاد ہے۔

انی اعظک ان تکون من الجاہلین قال
رب انی اعوذ بک ان أسالک مالیس لی
به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من
الخاصرین۔ (سورۃ ہود ۴۶-۴۷)

میں نصیحت کرتا ہوں تجھ کو کہ نہ ہو جائے تو جاہلوں میں بولا اے رب میں پناہ لیتا ہوں تیری اس سے کہ پوچھوں تجھ سے جو معلوم نہ ہو مجھ کو اور اگر تو نہ بخشے مجھ کو اور رحم نہ کرے تو میں ہوں نقصان والوں میں۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا یہ کہہ کر قبول فرمائی (لن ترانی)

یہ نہیں فرمایا ”لا ترانی“ اور میں دکھائی نہیں دیتا ہوں اور نہ یہ کہ میرا دیدار جائز نہیں۔ غور کرنے والے کے لئے ان دونوں جوابوں میں فرق ظاہر ہے۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھائی دیتا ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوی اس دنیا میں قوت بشری کے ضعف کی وجہ سے رویت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جس کی وضاحت چوتھی وجہ میں ہوگی۔

(۴) وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے (انظرالی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی) چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلادیا جب اس دنیا میں پہاڑ اپنی سختی اور قوت کے باوجود اللہ کی تجلی کے سامنے ثابت اور قائم نہیں رہ سکتا تو ضعیف انسان جس کی تخلیق ہی ضعف سے ہوئی ہو کیسے ٹھہر سکتا ہے۔

(۵) اللہ تعالیٰ پہاڑ کو اپنی جگہ برقرار رکھنے پر قادر تھے۔ اور یہ اس کے مقدور میں ممتنع نہیں تھا۔ بلکہ ممکن تھا اللہ تعالیٰ نے رویت کو اس کے ساتھ معلق بنایا اگر رویت اپنی ذات میں محال ہوتی تو ذات کے اعتبار سے ممکن چیز کے ساتھ اس کو معلق نہ فرماتے۔ اگر رویت محال ہوتی تو یہ آیت اس قول کی نظیر ہوتی۔ ”ان استقر الجبل فسوف اکل واشرب وانام“ (یعنی اگر اپنی جگہ پہاڑ ٹھہرا رہا تو عنقریب میں کھاؤں گا پیوں گا اور سوؤں گا) پس یہ دونوں باتیں تمہارے ہاں برابر ہوتیں۔

(۶) اللہ تعالیٰ کا ارشاد (فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا) ہے آیت کا یہ حصہ رویت باری تعالیٰ کے جواز پر سب سے زیادہ بین دلیل ہے۔ اس لئے کہ جب یہ بات جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑ کے لئے تجلی فرمادیں جو کہ جماد ہے نہ ثواب کا مستحق ہے نہ عذاب کا، تو یہ کیسے ممتنع ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور پیغمبروں اور اولیاء کو جنت میں اپنا دیدار نہ کرائے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتلادیا کہ جب اس دنیا میں پہاڑ میرے دیدار کا تحمل نہیں تو انسان تو اس سے زیادہ کمزور ہے۔

(۷) اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے اور اس کے ساتھ سرگوشی فرمائی اور

اس کو آواز دی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا بغیر واسطہ کے کلام کرنا اور اس کا کلام سننا جائز ہے تو اس کا دیدار تو اولیٰ بالجواز ہے۔ اس وجہ سے کلام کا انکار کرنا صحیح نہیں۔ مذکورہ جماعتوں نے ان دونوں باتوں کا انکار کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک سے بات کرے یا کوئی ایک اس کو دیکھ سکے۔ حالانکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام سنایا تو انہوں نے دیدار کی درخواست کی کیونکہ اللہ کے نبی کو وقوع خطاب کی وجہ سے رویت کے جواز کا علم ہو گیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو رویت کے محال ہونے کی خبر نہیں دی بلکہ صرف اس کو یہ سمجھایا کہ اس نے جس چیز کی درخواست کی ہے اس کی برداشت پر قادر نہیں جیسا کہ پہاڑ اس کی تجلی کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد (لن ترانی) تو مستقبل میں رویت کی نفی پر دلالت کرتا ہے دوام نفی پر تو دلالت نہیں کرتا۔ اور اگر اسکو تائید یعنی ہمیشگی کے ساتھ مقید کیا جائے تو پھر آپ اللہ کے ارشاد ”ولن یتممنوہ ابدًا“ (اور ہرگز آرزو نہ کریں گے موت کی کبھی) کو کیسے مطلق بنائیں گے جبکہ دوسری جگہ ان کے بارے میں ارشاد ہے ”ونادو یا مالک لہقض علیہنا ربک“ (اور پکاریں گے اے مالک کہیں ہم پر فیصلہ کر چکے تیرا رب)

دلیل (۲)

وانقوا للہ واعلموا انکم سلاقوہ (سورۃ البقرۃ ۲۲۳)
اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو کہ تم کو اس سے ملنا ہے۔

نعمتہم یوم یلقونہ سلام (سورۃ احزاب ۴۴)
دعا ان کی جس دن اس سے ملیں گے سلام ہے

فمن کان یرجو اللقاء ربہ (سورۃ کف) پھر جس کو امید ہو ملنے کی اپنے رب سے۔

قال الذین یظنون انہم سلاقوا للہ (سورۃ البقرۃ ۲۲۹)
کنے لگے وہ لوگ جن کو خیال تھا کہ ان کو اللہ سے ملنا ہے۔

اہل لسان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لقاء کی نسبت جب کسی بینا اور زندہ شخص کی طرف کی جائے تو یہ مشاہدے اور رویت کا تقاضا کرتا ہے۔ مذکورہ قاعدہ اللہ تعالیٰ کے اس

ارشاد سے نہیں ٹوٹتا۔

فاعقبہم نفاقا فی قلوبہم الی یوم یلقونہ (سورۃ التوبہ ۷۷) اس دن تک کہ وہ اس سے ملیں گے۔

صحیح اور صریح احادیث اس بات پر دال ہیں کہ منافقین قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور کفار بھی دیکھیں گے جیسا کہ صحیحین میں قیامت کے دن تجلی فرمانے کی حدیث میں وارد ہے اگر اللہ نے چاہا تو عنقریب آنے والی ہے۔ اس مسئلے میں اہل سنت کے تین اقوال ہیں۔ (۱) صرف مومن ہی اللہ کو دیکھیں گے۔

(۲) میدان حشر میں مومن اور کافر سب دیکھیں گے پھر کفار کو ہمیشہ کے لئے محروم کیا جائے گا۔

(۳) منافقین اس کو دیکھ سکیں گے کفار نہیں۔

یہ تینوں اقوال امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کے ہیں اور بعینہ ان کے یہی تینوں اقوال اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے بارے میں بھی ہیں۔ اور اس بارے میں ہمارے شیخ (علامہ ابن تیمیہ) کی ایک منفرد تصنیف ہے جس میں انہوں نے یہی تینوں اقوال اور ان کے اصحاب کے دلائل ذکر کئے ہیں۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

یا ہما الانسان انک کادح الی ربک کدحا اے آدمی تجھ کو تکلیف اٹھانی ہے اپنے رب فملاقیہ (سورۃ الانشقاق ۶) تک پہنچنے میں سے سے کر پھر اس سے ملنا ہے۔

اگر اس میں (ملاقیہ) کی ضمیر کا مرجع عمل ہو تو اس کا معنی اس کو کتاب میں لکھا ہوا ثابت پانا ہے اور اگر اس کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہو تو پھر اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ ملاقات ہے جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔

دلیل (۳)

اور اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف اور

و الله يدعو الي دار السلام ويهدى من
 ينساء الي صراط مستقيم. للذين
 احسنوا الحسنی و زیادة ولا یرھق
 وجوھم قتر ولا ذلة اولئک اصحاب
 الجنة هم فیھا خالدون. (سورۃ یونس)
 اور نہ رسوائی اور وہ ہیں جنت والے وہ اسی
 میں رہا کریں گے۔ (۱۶)

”حسنى“ سے مراد جنت اور ”زیادة“ سے مراد اللہ کا دیدار ہے۔ یہی تفسیر رسول
 کریم ﷺ نے جن پر قرآن کریم نازل ہوا ہے اور آپ کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم نے کی ہے۔
 جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت
 تلاوت فرمائی۔ للذین احسنوا الحسنی و زیادة پھر ارشاد فرمایا جب اہل جنت جنت میں اور
 دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اے جنتیوں اللہ
 کے پاس تمہارا ایک وعدہ ہے جس کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اہل جنت عرض کریں گے کہ وہ
 وعدہ کیا ہے؟ کیا آپ نے ہمیں سرخ رو نہیں فرمایا! کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں
 فرمایا۔ اور جہنم سے نجات عطا نہیں فرمائی۔ فرمایا حجاب ہٹا دیا جائے گا اور وہ اللہ جل شانہ کا دیدار
 کریں گے۔ انہیں اپنے پروردگار کے دیدار سے زیادہ کوئی اور چیز محبوب نہیں ہوگی۔
 (زیادة) سے یہی مراد ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں (للذین احسنوا الحسنی و زیادة) کے بارے میں رسول
 اللہ ﷺ سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو دنیا میں
 اچھا عمل کریں جنت ملے گی اور اللہ کا دیدار کریں گے۔ کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے
 اس آیت کی تفسیر میں یہی نقل فرماتے ہیں۔

ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا
 قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک اعلان کرنے والا بھیجے گا جو اتنی اونچی آواز سے اعلان کرے گا جس
 کو اولین اور آخرین سب سنیں گے! اے جنتیوں اللہ تعالیٰ نے تم سے حسنی اور زیادة کا وعدہ کیا
 تھا۔ حسنی جنت ہے اور ”زیارت“ رحمن کا دیدار ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں (للذین

احسنواالحسنی و زیادة) سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔

ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہو گا تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کی طرف ایک اعلان کرنے والا بھیجے گا جو یہ اعلان کرے گا! کیا اللہ نے تمہیں سب کچھ پورا عطا فرمایا؟ یہ سن کر جنتی اللہ کے انعامات کی طرف نظر دوڑا کر عرض کریں گے جی ہاں۔ وہ کہے گا (للذین احسنواالحسنی و زیادة) یعنی اللہ کا دیدار تو اب باقی ہے۔

ابو تمیمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بصرہ کی جامع مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے سنا فرمایا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں کے پاس فرشتہ بھیجیں گے۔ فرشتہ اعلان کرے گا اے جنتیوں جس چیز کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کیا وہ تم کو پورا عطا فرمایا؟ یہ سن کر اہل جنت زیورات اور جوڑوں اور نہروں اور پاکیزہ بیویوں میں نظر دوڑانے لگیں گے۔ پھر عرض کریں گے جی ہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سے جس چیز کا وعدہ کیا تھا وہ پورا عطاء فرمایا پھر تین مرتبہ فرشتہ اعلان کرے گا کیا تم کو وعدے کے مطابق پورا عطا فرمایا جنتی پھر دیکھ کر وعدہ کئی گئی چیزوں میں سے کسی کو غائب نہ پائیں گے تو عرض کریں گے جی ہاں! فرشتہ کہے گا ابھی تمہاری ایک چیز باقی ہے۔ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے (للذین احسنواالحسنی و زیادة) سن رکھو الحسنی سے مراد جنت ہے اور "زیادة" سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ (للذین احسنواالحسنی و زیادة ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حسنی تو جنت ہے اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی دیدار ہے اور "قتر" کا معنی سیاہ ہے، یہی تفسیر عبدالرحمن ابن ابی لیلیٰ عامر بن سعد اور اسماعیل بن عبدالرحمن السدی اور صحاک بن مزاحم اور عبدالرحمن بن سابط اور ابواسحاق السبعمی رضی اللہ عنہ اور قتادہ اور سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ اور حسن بصری رضی اللہ عنہ اور عکرمہ مولیٰ بن عباس، مجاہد بن جبیر وغیرہ سب حضرات سے منقول ہے اور سلف میں سے تو یہ تفسیر کسی ایک نے نہیں کی۔ (بلکہ سب نے کی ہے)

ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ (سورۃ یونس) اور نہ چڑھے گی ان کے منہ سیاہی اور نہ

رسوائی۔

(۲۶)

مذکورہ آیت میں بیان شدہ کیفیت اللہ تعالیٰ کی دیدار کے بعد ہوگی۔ جیسے کہ صحیح

احادیث اس میں وارد ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ”الزیادة“ کا عطف (الحسنی) پر کیا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ زیادت جنت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے اور اس پر ایک قدر زائد ہے۔ اور جس نے زیادت کی تفسیر مغفرت اور اللہ کی رضامندی سے کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لوازمات میں سے ہیں۔

فصل (۳)

دلیل (۴) کلا انہم عن ربہم یومئذ کوئی نہیں وہ اپنے رب سے اس دن روک لہم حجوبون۔ (سورۃ المطففین ۱۵) دیئے جائیں گے۔

اس آیت سے اس طرح استدلال کیا گیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دیدار اور اس کے کلام سننے سے محرومی کو عظیم عذاب اور عقوبت قرار دیا اگر مومن اللہ تعالیٰ کی دیدار نہ کرتے اور اس کا کلام نہ سنتے تو وہ بھی اس طرح مجوب شمار ہوتے۔ امام شافعی اور دوسرے ائمہ نے اس سے استدلال کیا ہے۔ طبرانی وغیرہ نے مزنی سے نقل کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد (کلا انہم عن ربہم یومئذ لہم حجوبون) کی تفسیر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا فرمایا اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے اولیاء قیامت کے دن اس کا دیدار کریں گے۔ ربیع ابن سلیمان کہتے ہیں کہ میں محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس موجود تھا کہ اس کے پاس صعید کا رقعہ (یعنی استفتاء) آیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ارشاد (کلا انہم عن ربہم یومئذ لہم حجوبون) کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کافروں کو ناراضگی میں دیدار سے روکا گیا تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے اولیاء (یعنی مومنین) حالت رضاء میں اس کا دیدار کریں گے۔ ربیع کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے ابا عبد اللہ آپ کا یہی فتویٰ ہے؟ فرمایا جی ہاں اگر محمد بن ادریس کو اس کے دیدار کا یقین نہ ہوتا تو وہ اللہ عزوجل کی عبادت نہ کرتے۔

محمد بن الحسین فرماتے ہیں محمد بن عبد اللہ بن الحکم سے پوچھا گیا، کیا قیامت کے دن سب لوگ مومن اور کافر اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ محمد بن عبد اللہ نے فرمایا صرف

مومن ہی اس کا دیدار کریں گے اور پھر فرمایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا۔ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے (کلما انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون) اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ مومن اللہ کے دیدار سے نہیں روکے جائیں گے۔

دلیل (۵)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لہم ما اشاء ون فیما ولدینا مزید (سورۃ ق) ان کے واسطے ہے وہاں جو وہ چاہیں اور ہمارے پاس ہے کچھ زیادہ بھی۔ (۳۵)

علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ تابعین میں سے زید بن وہب کا بھی یہی قول ہے۔

دلیل (۵)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

لا تدرك الابصار وهو یدرک الابصار۔ نہیں پاسکتیں اس کو آنکھیں اور وہ پاسکتا ہے اس آیت سے آنکھوں کو۔ (سورۃ الانعام ۱۰۳)

روایت پر استدلال ہنسبت نفی پر استدلال والوں کے دلائل سے زیادہ عجیب ہے ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے باریک اور احسن طریقے پر اس سے طریقہ استدلال بیان کیا ہے۔ چنانچہ شیخ نے مجھ سے کہا کہ جب بھی کوئی باطل والے کسی آیت یا حدیث صحیح سے اپنے باطل کے ثابت کرنے کے لئے استدلال کرتے ہیں تو اسی آیت میں ایسی دلیل ہوتی ہے جو ان کے قول کے نقیض پر دلالت کرتی ہے ان میں سے ایک یہ آیت بھی ہے۔ یہ نفی روایت کے ہنسبت جواز روایت پر زیادہ دلالت کرتی ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تدریح (تعریف) کے سیاق میں ذکر کیا ہے اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ مدح و اوصاف ثبوتیہ سے ہوتا ہے اور کسی چیز کا

معدوم محض ہونا کوئی کمال نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مدح کو اس معدوم چیز سے نہیں کیا جاسکتا مگر اس صورت میں کہ جب وہ امر وجودی کو متضمن ہو۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ سے نیند اور اونگ جو کہ اس کے کمال قیومیت کو متضمن ہے۔ نفی کر کے تعریف کرنا۔ اور موت کی نفی کر کے تعریف کی جو کہ اس کے کمال حیات اور تھکاوٹ کی نفی کو متضمن ہے۔ اور جیسے کہ صفت احیاء کمال قدرت کو متضمن ہے۔ شریک اور بیوی اور بیٹے اور مددگار کی نفی اس کے کمال ربوبیت اور الوہیت اور غلبے کو متضمن ہے اور کھانے پینے کی نفی اس کے کمال بے نیازی اور استغناء کو متضمن ہے۔ اور اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کی نفی اس کے کمال توحید اور ظلم کی نفی اس کے کمال عدل اور علم اور احاطے کو متضمن ہے۔ اور مثل کی نفی اس کی ذات اور صفات کے کمال کو متضمن ہے اس وجہ سے ایسے معدوم محض سے اللہ کی تعریف نہیں جاسکتی جو کسی امر ثبوتی کو متضمن نہ ہو۔ کیونکہ اس کی تعریف ایسے امر سے نہیں کی جاتی جس میں اس کے ساتھ معدوم شریک ہو۔ اگر (لا تدركه الابصار) سے مراد یہ لیا جائے کہ کسی حال میں وہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس میں نہ تعریف ہے اور نہ کمال کیونکہ اس وصف میں معدوم بھی اس کے ساتھ شریک ہے اس لئے کہ معدوم محض دکھائی نہیں دیتا اور نہ آنکھیں اس کا احاطہ کر سکتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت بلند و بالا ہیں کہ ایسی چیز سے اس کی تعریف کی جائے جس میں اس کے ساتھ معدوم شریک ہو حالانکہ آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ دکھائی دیتا ہے لیکن اس کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا معنی ہے۔

وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة
یعنی وہ ہر چیز جانتے ہیں۔

وما من من لغوب
یعنی وہ کامل قدرت والے ہیں۔

”ولما يظلم ربك احدا“ یعنی وہ کامل عدل والے ہیں۔

پس اللہ تعالیٰ کا قول (لا تدركه الابصار) اس کی نہایت عظمت اور اس کے ہر چیز سے بڑے ہونے اور اس کی عظمت کے عدم احاطے پر دلالت کرتا ہے۔ اس لئے کہ ”دراک“ کے معنی کسی چیز کے احاطہ کرنے کے ہیں۔ جو کہ رویت پر ایک قدر زائد ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا

ارشاد ہے۔

فلما تراء الجمع قال اصحاب پھر جب مقابل ہوئیں دونوں فوجیں، کہنے
موسیٰ انا لمدركون (سورة الشعراء) لگے موسیٰ کے لوگ ہم تو پکڑے گئے۔

اس میں موسیٰ عليه السلام نے نہ رویت کی نفی فرمائی اور نہ ان کے قول (انا لمدركون) سے
"۴۴ المریون" (ہم دیکھ لئے گئے) مراد لیا۔ بلکہ موسیٰ عليه السلام نے "کلا" کہہ کر ادراک کی نفی فرمائی
اور اللہ تعالیٰ نے ذیل ارشاد سے یہ بتلادیا کہ موسیٰ عليه السلام ان کے پکڑنے سے نہیں ڈرتا۔

ولقد اوحينا الى موسى ان أسر اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ عليه السلام کو کہ لے نکل
بعبادى فاضرب لهم طريقا في البحر میرے بندوں کو رات سے پھر ڈال دے ان
يسبلا تخاف دركك ولا تخشى (سورة) کے لئے سمندر میں راستہ سوکھانہ خطرہ کہ
طہ ۷۷)

آپکڑنے کا اور نہ ڈر ڈوبنے سے۔

پس رویت اور ادراک میں سے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ پایا جاتا ہے اور کبھی
نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ دکھائی تو دیتا ہے لیکن اس کا ادراک نہیں کیا جاسکتا جیسے کہ اللہ تعالیٰ
جانتے ہیں لیکن اس کے علم کا احاطہ ناممکن ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اور ائمہ رحمہم اللہ نے
اس آیت سے یہی کچھ سمجھا ہے جو بیان ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں (لا تدرك
الابصار) کا معنی ہے کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں۔ قنادة عليه السلام فرماتے ہیں اس کا مطلب
یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند و بالا ہیں کہ آنکھیں اس کا احاطہ کر سکیں۔ عطیہ عليه السلام
فرماتے ہیں کہ اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے لیکن اس کی عظمت کی وجہ ان کی آنکھیں اللہ کا
احاطہ نہیں کر سکیں گی اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ ان کا احاطہ کرے گی۔ فرمایا یہی اس کے ارشاد
(لا تدرك الابصار و هو يدرك الابصار) کا مطلب ہے چنانچہ مومن کھلم کھلا اپنے رب کا دیدار
کریں گے لیکن ان کی آنکھیں اس کا احاطہ نہ کر سکیں گی۔ اس لئے یہ جائز نہیں کہ ایسی چیز سے
اللہ کی تعریف کی جائے جو اس کا احاطہ کر سکے۔ اس لئے کہ وہ خود ہر چیز پر احاطہ کرنے والی ذات
ہیں۔ اسی طرح وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے اپنا کلام سنا دے لیکن مخلوق اس کے کلام کا
احاطہ نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح وہ جو مخلوق کو سکھلائے تو وہ جان لیتے ہیں لیکن اس کے علم کا

احاطہ نہیں کر سکتے اس کی مثال جیسے منکرین (لیس کمثلہ شی) سے صفات کی نفی پر استدلال کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ آیت تو اس کے صفات کمال کی کثرت پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس لئے کہ اللہ کی ذات اپنی کثرت صفات اور عظمت اور وسعت کے اعتبار سے ایسی ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ورنہ اگر اس سے نفی صفات مراد لی جائے تو پھر تو معدوم محض اولی بالمدح ہے۔ باوجودیکہ تمام عقلاء کہنے والے کے قول سے یہی سمجھتے اور مراد لیتے ہیں (فلاں لا مثل لہ ویس لہ نظیر ولا شبیہ ولا مثل)

یعنی اس میں ایسی صفات ہیں جس کی وجہ سے وہ عام لوگوں سے ممتاز ہے جس میں ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور جب اس کے اوصاف بہت زیادہ ہو گئے تو ان صفات کے حامل لوگ بھی ختم ہو گئے اور یہ شخص اب اپنے ہم مثلوں کی مشابہت سے دور ہو گیا۔ پس اللہ تعالیٰ کا ارشاد (لیس کمثلہ شی) اس کی کثرت صفات پر سب سے بڑی دلیل ہے اور اس کا ارشاد (لا تدركه الابصار) اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ دکھائی دیتا ہے لیکن اس کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔

وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین چھ
 دن میں پھر قائم ہوا تخت پر جانتا ہے جو اندر
 جاتا ہے زمین اور جو اس سے نکلتا ہے اور جو
 کچھ اترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ اس میں
 چڑھتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں
 کہیں تم ہو اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھتا
 ہے

(سورۃ حدید)

اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق سے مباہینت پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ذات میں پیدا نہیں کیا بلکہ ان کو اپنی ذات سے خارج پیدا کیا۔ پھر عرش پر استویٰ فرما کر ان سے اوچھل ہو گئے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ کس حالت پر ہیں اور اپنی صفت علم اور

قدرت، صفت ارادہ اور صفت سمع و بصر کے ذریعہ ان کا احاطہ فرماتے ہیں۔ اس کے ارشاد (وَهُوَ سَمْعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ) کا یہی مطلب ہے۔ آپ غور فرمائیں یہ کیا ہی اچھا لفظی و معنوی تقابل ہے جو کہ اس کے ارشاد (لَا تَدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ) سے مستفاد ہوا۔

اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عظمت کی وجہ سے اس سے بہت بلند و بالا ہیں کہ آنکھیں اس کا احاطہ کر سکیں اور وہ اپنی صفت لطیف و خبیر کی وجہ سے تمام مخلوق کا احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ کوئی چیز ان سے مخفی نہیں وہ اپنے لطف میں عظیم اور عظمت میں لطیف ہیں وہ اپنے قرب میں عالی اور علو میں قریب ہیں اس کی مثل کوئی چیز نہیں وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ آنکھوں کا احاطہ کرتے ہیں وہ باریک بین اور باخبر ہے۔

دلیل (۷)

وجود یومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة (سورة القیامہ آیت نمبر ۲۳) دیکھنے والے۔

جب آپ نے اس آیت کو تحریف سے اور اس کے متکلم کو اپنی مراد میں جھوٹ سے بچایا تو آپ اس آیت کو کھلم کھلا یہ اعلان کرتا ہوا پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھلم کھلا نظر آئیں گے۔

ورنہ وہ تحریف جس کو محرفین تاویل کہتے ہیں ان کے لئے یہ تاویل بہ نسبت نصوص معاد جنت اور جہنم میزان و حساب کی تاویل کے زیادہ آسان ہے اور اس طرح ہر اس نص کی تاویل جس کو قرآن و سنت متضمن ہو ان پر آسان ہوگی اور روئے زمین پر جو بھی باطل پرست چاہے گا تو نصوص میں تاویل کر کے اپنے مقام سے ہٹائے گا۔ یہی چیز ہے جس نے دین و دنیا کو بگاڑ دیا۔ لفظ ”وجہ“ کی طرف نظر کی اضافت اور لفظ ”الی“ کے ساتھ اس کو متعدی کرنے جو کہ آنکھوں سے دیکھنے میں صریح ہے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں اللہ کی ذات کی طرف اس آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے جو چہرے میں ہیں۔ اس لئے کہ لفظ نظر فی نفسہ متعدی ہو

تو اس کا معنی تو قف اور انتظار کے آتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
انظرونا نقتس من نورکم
راہ دیکھو ہماری ہم بھی روشنی لے لیں
(سورۃ الحديد) تمہارے نور سے۔

اگر یہ لفظ الی کے ساتھ متعدی ہو تو اس کے معنی آنکھوں سے دیکھنے کے آتے ہیں۔
جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

انظروا الی ثمرہ اذا ثمر (سورۃ الانعام ۹۹)
دیکھو ہر ایک درخت کی پھل کو جب وہ پھل
لاتا ہے

تو پھر چہرے کی طرف اس کی اضافت کر کے جو آنکھوں کا محل ہے کیسے دیکھنے کے معنی
مراد نہیں ہوں گے؟

عبداللہ بن مبارک حسن رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک
و تعالیٰ کی طرف نظر کی تو میں نے اس کو نور سے دیکھا۔ اے شریف اور بلند مرتبے والے شخص
اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ اور تابعین کی تفسیر کان لگا کر سن لے۔ ابن
مردویہ اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عمرو سے نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آیت (وجوه یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ) کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے دیدار کی وجہ سے
بہت سے چہرے حسین اور تروتازہ ہوں گے۔ ابو صالح نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے (الی
ربہا ناظرۃ) کی تفسیر میں نقل کر کے فرمایا یہ چہرہ اپنے رب کی ذات کی طرف دیکھے گا۔ عکرمہ رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں (وجوه یومئذ ناظرۃ) کا معنی ہے (من النسیم الی ربہا ناظرۃ)

اور فرمایا یہ چہرہ اپنے رب کا دیدار کرے گا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اس طرح
منقول ہے اور اہل سنت والحدیث کے ہر مفسر کا یہی قول ہے۔

رویت باری تعالیٰ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر احادیث نقل کرنے والے

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

(۱) ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ (۲) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ (۳) ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ (۴) جرید ابن عبداللہ

الجبلی رضی اللہ عنہ (۵) صہب رضی اللہ عنہ (۶) ابن سنان رومی رضی اللہ عنہ (۷) عبداللہ بن مسعود ہذلی رضی اللہ عنہ

(۸) علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ (۹) ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ (۱۰) عدی بن ابی حاتم طائی رضی اللہ عنہ (۱۱) انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ (۱۲) بریدہ بن الحصیب اسلمی رضی اللہ عنہ (۱۳) ابورزین العقیلی رضی اللہ عنہ (۱۴) جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ (۱۵) ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ (۱۶) زید بن ثابت رضی اللہ عنہ (۱۷) عامر ابن یاسر رضی اللہ عنہ (۱۸) ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا (۱۹) عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما (۲۰) عمارہ بن روبیہ رضی اللہ عنہا (۲۱) سلمان فارسی رضی اللہ عنہ (۲۲) حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ (۲۳) عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما (۲۴) عبد اللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ان کی حدیث موقوف ہے (۲۵) ابن بن کعب رضی اللہ عنہ (۲۶) کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ (۲۷) فضالتہ بن عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کی حدیث بھی موقوف ہے (۲۸) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک غیر مستثنیٰ شخص کی روایت۔

اور اس کے علاوہ صحاح اور مسانید اور سنن کی احادیث کا سیاق بھی اس پر دلالت کرتا ہے جن کو تلقی بالقبول والتسلیم حاصل ہے اور شرح صدر ہوتا ہے۔ تحریف و تبدیل اور طعن و تشنیع سے شرح صدر نہیں ہوتا۔ اور نہ ان حدیثوں کی تکذیب کی جاسکتی ہے اور جس شخص نے ان کی تکذیب کی تو وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہے گا۔

فصل:

ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر بیٹھ گئے یہاں تک کہ جب چاشت کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھ کر تبسم فرمایا اور پھر اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ یہاں تک کہ ظہر عصر اور مغرب کی نماز ادا کی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بات نہیں کی یہاں تک کہ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لے گئے۔ لوگوں نے حضرت ابوبکر سے کہا کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکی حالت دریافت نہیں کرتے؟ اس لئے کہ آج انہوں نے ایسا کام کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے فرمایا جی ہاں دنیا و آخرت میں جو ہونے والے امور تھے وہ میرے سامنے پیش کئے گئے اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کو ایک میدان میں جمع فرمایا لوگ پریشان ہو گئے حتیٰ کہ

حضرت آدم ﷺ کے پاس اس حال میں آئے کہ قریب تھا پینسٹھواں کے حلق گلوں تک پہنچ جاتا۔ عرض کیا اے آدم آپ ابوا بشر ہیں اور اللہ عزوجل نے آپ کو چنا اس لئے اپنے رب کے پاس ہماری سفارش فرمائیے آدم ﷺ نے فرمایا مجھے بھی وہی درپیش ہے جو تمہیں درپیش ہے۔ اس لئے اپنے دو سرے باپ نوح ﷺ کے پاس چلیں۔

اس لئے کہ اللہ پاک نے چنا آدم نوح آل ابراہیم اور آل عمران کو جہاں والوں میں

(ترجمہ آیت آل عمران ۳۳)

فرمایا کہ لوگ نوح ﷺ کے پاس چلے جائیں گے اور عرض کریں گے کہ اپنے رب کے پاس ہماری سفارش فرمائیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا اور آپ کی دعا قبول فرما کر روئے زمین پر کسی کافر کو بسنے نہیں دیا وہ فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں ابراہیم ﷺ کے پاس چلے جائیں کیونکہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا ہے چنانچہ لوگ ابراہیم ﷺ کے پاس جائیں گے اور یہی عرض کریں گے وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں موسیٰ ﷺ کے پاس چلو اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں موسیٰ ﷺ بھی یہی جواب دیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں عیسیٰ ابن مریم ﷺ کے پاس چلے جائیں اس لئے کہ وہ مادر زاد اندھوں برص کے مریضوں اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ عیسیٰ ﷺ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ آپ لوگ اولاد آدم کے سردار محمد ﷺ کے پاس جائیں وہ تمہارے رب کے ہاں تمہاری سفارش فرمادیں گے۔ فرمایا کہ اس کے بعد جبرئیل ﷺ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہوں گے اللہ کی طرف سے حکم ملے گا کہ نبی کریم ﷺ کو اجازت دید و اور ان کو جنت کی بشارت دو۔ چنانچہ جبرئیل ﷺ یہ پیغامات لیکر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد آپ ﷺ ایک جمعہ کی مقدار سجدے میں گر پڑیں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے ارشاد ہو گا۔ اپنا سراٹھائیے اور کہئے آپ کی بات سنی جائے گی اور سفارش فرمائیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ فرمایا کہ میں سراٹھالوں گا لیکن جب اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوں گا تو دوبارہ سجدے میں گر پڑوں گا اور دوبارہ ایک جمعہ کی مقدار سجدہ کروں گا اللہ کے طرف سے ارشاد ہو گا۔ اپنا سراٹھالیں اور کہئے آپ کی بات سنی جائے گی اور سفارش فرمائیے آپ کی

سفارش قبول کی جائے گی۔ فرمایا کہ اس کے بعد میں پھر سجدہ کرنے کا ارادہ کروں گا تو جبرئیل علیہ السلام میرے بازو پکڑ لیں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے ایسی دعا مجھے سکھائی جائے گی جو کبھی کسی بشر کو نہیں سکھائی گئی ہوگی۔ میں عرض کروں گا اے میرے پروردگار آپ نے مجھے اولاد آدم کا سردار بنایا اور مجھے اس پر فخر نہیں اور سب سے پہلے مجھ سے زمین کو چیرا جائے گا لیکن مجھے اس پر فخر نہیں۔ حتیٰ کہ میرے حوض پر اس سے زیادہ لوگ پانی پینے آئیں گے جتنا کہ صنعاء اور ایلہ کی درمیانی مسافت ہے۔ پھر ارشاد ہو گا۔ صدیقین کو بلاؤ چنانچہ وہ بھی سفارش کریں گے پھر ارشاد ہو گا انبیاء کو بلاؤ چنانچہ ایک پیغمبر تشریف لائیں گے جن کے ساتھ چند ساتھی ہوں گے اور ایک نبی آئے گا جس کے ساتھ پانچ یا چھ ساتھی ہوں گے اور ایک پیغمبر ایسے بھی آئیں گے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہو گا۔ پھر ارشاد ہو گا شہداء کو بلاؤ چنانچہ وہ جس کے لئے چاہیں گے سفارش کر دیں گے فرمایا کہ جب شہداء اس کام سے فارغ ہو جائیں گے تو اللہ عزوجل ارشاد فرمائیں گے میں ارحم الراحمین ہوں۔ میری جنت میں وہ شخص داخل ہو جائے جس نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر اللہ عزوجل ارشاد فرمائیں گے جہنمیوں میں دیکھو ان میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے کبھی بھی نیکی کا کام کیا ہو؟ فرمایا کہ ان کو جہنم میں ایک آدمی ملے گا۔ ان سے پوچھیں گے کیا آپ نے کبھی بھی کوئی بھلائی کا کام کیا ہے؟ وہ کہے گا کچھ نہیں سوا اس کے کہ میں خرید و فروخت کے معاملہ میں لوگوں سے چشم پوشی کرتا تھا۔ اللہ عزوجل ارشاد فرمائیں گے میرے بندوں کے ساتھ چشم پوشی کرنے کی وجہ سے میرے اس بندے کے ساتھ بھی چشم پوشی کرو۔ پھر جہنم سے ایک آدمی کو نکال کر اس سے کہیں گے کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی کا کام کیا تھا؟ وہ کہے گا نہیں سوا اس کے میں نے اپنی اولاد کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ میں جلا دو پھر مجھے پیسو یہاں تک کہ میں آٹے کی طرح ہو جاؤں تو پھر مجھے سمندر کے پاس لیجا کر ہوا میں اڑا دو۔ خدا کی قسم اس طرح میں کبھی رب العالمین کے قابو میں نہیں آسکوں گا۔ اللہ رب العزت اس سے ارشاد فرمائیں گے تو نے یہ کیوں کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اس بڑی بادشاہی کی طرف دیکھ اس کا دس گنا تجھے ملے گا وہ عرض کرے

گا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں حالانکہ آپ بادشاہ ہیں فرمایا کہ یہی چیز تھی جس کی وجہ سے بوقت چاشت میں ہنساتھا۔

صحیحین میں روایت ہے

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ نبی کریم ﷺ نے پوچھا کیا تمہیں چودھویں رات کے چاند دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ پھر آپ نے پوچھا کیا جب بادل نہ ہو تو تمہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا پھر تم اسی طرح اللہ کو دیکھو گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور کہے گا تم میں جو کوئی جس کی عبادت کرتا تھا اس پیچھے کے ہو جائے جو چاند کی عبادت کرتا تھا وہ چاند کے پیچھے ہو جائے گا اور جو بتوں کی عبادت کرتا تھا وہ بتوں کے پیچھے ہو جائے گا۔ پھر یہ امت باقی رہ جائے گی اس میں ان کی شفاعت کرنے والے ہوں گے یا منافق ہوں گے یعنی ابراہیم کو شک ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے گا اور کہے گا۔ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم یہیں رہیں گے۔ یہاں تک کہ ہمارا رب آجائے۔ جب ہمارا رب آجائے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جسے وہ پہچانتے ہوں گے اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں وہ اقرار کریں گے کہ تو ہمارا رب ہے چنانچہ اس کے پیچھے ہو جائیں گے اور جہنم کی پشت پر ”صراط“ نصب کر دی جائے گی اور میں اور میری امت سب سے پہلے اس کو پار کرنے والے ہوں گے اور اس دن صرف انبیاء کلام کر سکیں گے اور انبیاء کی زبان پر ہو گا اے اللہ! محفوظ رکھ محفوظ رکھ اور جہنم میں سعدان کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے کیا تم نے سعدان دیکھا ہے لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں یا رسول اللہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ وہ سعدان کے کانٹوں ہی کی طرح ہوں گے۔ البتہ وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ اس کا طول و عرض اللہ کے سوا اور کسی کو معلوم نہ ہو گا۔ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے میں اچک لیں گے تو ان میں سے وہ ہوں گے جو ہلاک ہونے والے ہوں گے اور اپنے عمل کی وجہ سے باقی رہ جائیں گے یا اپنے عمل کے ساتھ بندھے ہوں گے اور ان

میں سے بعض ٹکڑے کر دیئے جائیں گے یا بدلہ دیئے جائیں گے یا آپ ﷺ نے اس جیسے الفاظ بیان کئے۔ پھر اللہ تعالیٰ تجلی فرمائے گا اور جب بندوں کے درمیان فیصلہ کر کے فارغ ہو گا اور دوزخیوں میں سے جسے اپنی رحمت سے باہر نکالنا چاہے تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے انہیں جہنم سے نکال لیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرنا چاہے گا ان میں جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا چنانچہ فرشتے انہیں سجدوں کے اثر سے جہنم میں پہنچائیں گے۔

جہنم ابن آدم کا ہر عضو بھسم کر دے گی سوا سجدے کے اثر کے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم پر حرام کیا ہے کہ وہ سجدے کے اثر کو جلانے چنانچہ یہ لوگ جہنم سے اس حال میں نکالے جائیں گے کہ یہ جل چکے ہوں گے پھر ان پر آب حیات ڈالا جائے گا اور یہ اس کے نیچے سے اس طرح اگ کر نکلیں گے جس طرح سیلاب کے کوڑے کرکٹ سے سبزہ اگ آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ سے فارغ ہو گا ایک شخص باقی رہ جائے گا جس کا چہرہ جہنم کی طرف ہو گا وہ ان دوزخیوں میں سب سے آخری فرد ہو گا وہ کہے گا اے رب میرا چہرہ دوزخ سے پھیر دے مجھے اس کی ہوانے ہلکان کر رکھا ہے اور اس کی تیزی نے جھلسا ڈالا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے وہ اس وقت تک دعا کرتا رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کیا اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو تو اور مجھ سے مانگے گا؟ وہ کہے گا نہیں تیرے غلبے کی قسم اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں مانگوں گا اور وہ شخص اللہ رب العزت سے بڑے عہد و پیمان کرے گا۔ چنانچہ اللہ اس کا چہرہ جہنم کی طرف سے پھیر دیگا۔ پھر جب وہ جنت کی طرف رخ کرے گا اور اسے دیکھے گا تو اتنی دیر خاموش رہے گا جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ اسے خاموش رہنے دینا چاہے گا پھر وہ کہے گا اے رب مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تو نے عہد و پیمان نہیں کئے تھے کہ جو کچھ میں نے دیدیا ہے اس کے سوا اور کچھ بھی تو نہ مانگے گا۔ افسوس ابن آدم تو کتنا عہد شکن ہے پھر وہ کہے گا اے رب اور اللہ سے دعا کرے گا آخر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا اگر میں نے تیرا یہ سوال پورا کر دیا تو اور اس کے سوا کچھ مانگے گا؟ وہ کہے گا تیرے غلبے کی قسم اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگوں گا اور جتنے اللہ چاہے گا وہ شخص عہد و پیمان کرے گا۔ چنانچہ اسے جنت کے

دروازے تک پہنچا دیا جائے گا پھر جب وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا تو جنت اسے سامنے نظر آئے گی اور دیکھے گا کہ اس کے اندر کس قدر بھلائی اور مسرت ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ جتنی دیر چاہے گا وہ خاموش رہے گا پھر کہے گا اے رب مجھے جنت میں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اس پر کہے گا کیا تو نے عمد و بیان نہیں کئے تھے کہ جو کچھ میں نے تجھے دیدیا اس کے سوا تو اور کچھ نہیں مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا افسوس ابن آدم تو کتنا عمد شکن ہے وہ کہے گا اے رب مجھے اپنی مخلوق میں سب سے بد بخت نہ بنا چنانچہ وہ مسلسل دعا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں پر ہنس دے گا جب ہنس دے گا تو اس کے متعلق کہے گا اے جنت میں داخل کر دو۔ جب جنت میں اسے داخل کر دے گا تو اس سے کہے گا کہ اپنی آرزو میں بیان کر۔ وہ اپنی تمام آرزو میں بیان کریگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے یاد دلائیں گے وہ کہے گا فلاں فلاں چیز یہاں تک کہ اس کی آرزو میں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ آرزو میں اور انہیں جیسی اور تمہیں ملیں گی۔ عطا بن زید نے بیان کیا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود تھے ان کی حدیث کا کوئی حصہ رد نہیں کرتے تھے البتہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ”یہ اور اپنی جیسی تمہیں اور ملیں گی“ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے دس گناہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد یاد ہے کہ ”یہ اور اپنی جیسی اور“ اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے آپ کا یہ ارشاد یاد کیا ہے کہ ”تمہیں یہ سب چیزیں ملیں گی اور اس سے دس گنا اور“ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ شخص جنت میں سب سے آخری داخل ہونے والا ہو گا۔۔۔۔۔

اسی طرح صحیحین میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم سورج اور چاند دیکھنے میں دشواری محسوس کرتے ہو جبکہ آسمان صاف ہو۔ ہم نے عرض کیا نہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنے رب کے دیدار میں تمہیں دشواری پیش نہیں آئے گی جس طرح سورج اور چاند کو دیکھنے میں نہیں پیش آتی۔ پھر آپ نے

فرمایا کہ ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ہر قوم اس کے ساتھ جائے جس کی وہ عبادت کرتی تھی۔ چنانچہ صلیب کے پجاری اپنی صلیب کے ساتھ بتوں کے پجاری اپنے بتوں کے ساتھ اور تمام معبودان باطل کے پجاری اپنی معبودوں کے ساتھ چلے جائیں گے اور صرف وہ باقی رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے ان میں نیک اور فاجر دونوں ہوں گے اور اہل کتاب کے کچھ باقی ماندہ بھی ہوں گے پھر دوزخ ان کے سامنے پیش کی جائے گی وہ ایسی ہوگی جیسے ریت کا میدان ہوتا ہے پھر یہود سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے ہم عزیز ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے انہیں جواب ملے گا کہ تم جھوٹے ہو۔ خدا کی نہ کوئی بیوی ہے نہ لڑکا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سیراب کیا جائے۔ ان سے کہا جائے گا پو اور پھر وہ جنم میں ڈال دیئے جائیں گے پھر نصاریٰ سے کہا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم مسیح ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا تم جھوٹے ہو۔ اللہ کی نہ بیوی تھی اور نہ کوئی بچہ۔ اب تم کیا چاہتے ہو۔ وہ کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سیراب کیا جائے۔ ان سے کہا جائے گا پو اور انہیں جنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ وہی باقی رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے نیک و بد کار دونوں ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ کیوں رکے ہوئے ہو جبکہ سب لوگ جا چکے ہیں وہ کہیں گے ہم ان سے ایسے وقت جدا ہوئے کہ ہمیں ان کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ اور ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا ہے کہ ہر قوم اس کے ساتھ ہو جائے جس کی وہ عبادت کرتی تھی اور ہم اپنے رب کے منتظر ہیں۔ بیان کیا کہ پھر اللہ جبار انکے سامنے اس صورت کے علاوہ دوسری صورت میں آئے گا جس میں انہوں نے اسے پہلے مرتبہ دیکھا ہو گا۔ اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور اس دن انبیاء کے سوا اور کوئی بات نہیں کرے گا پھر پوچھے گا کیا تمہیں اسکی کوئی نشانی یاد ہے؟ وہ کہیں گے ”ساق“ (پنڈلی) پھر اللہ تعالیٰ اپنی ساق کو کھولے گا اور ہر مومن اس کے لئے سجدہ ریز ہو جائے گا صرف وہ باقی رہ جائیں گے جو ریاء اور شہرت کے لئے اسے سجدہ کرتے تھے وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پیٹھ تختہ کی طرح ہو جائے گی۔ پھر انہیں پل پر لایا جائے گا ہم نے پوچھا یا رسول اللہ پل کیا چیز ہے؟ آپ ﷺ

نے فرمایا کہ پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے اس پر کانٹے اور آنکڑے ہوں گے اور چوڑے گوکھر ہوں گے اور ایسے مڑے ہوئے کانٹے ہوں گے جیسے نجد میں ہوتے ہیں انہیں سعدان کہا جاتا ہے مومن اس پر سے چشم زدن میں بجلی کی طرح ہوا کی طرح تیز رفتار گھوڑے اور سواری کی طرح گزر جائیں گے ان میں سے بعض تو صحیح سلامت نجات پانے والے ہوں گے۔ (اور بعض جہنم کی آگ سے جھلس کر بیچ نکلنے والے ہوں گے یہاں تک کہ آخری شخص اس پر سے گھسٹتے ہوئے گزرے گا تم آج مجھ سے حق کے معاملے میں اس قدر سخت نہیں ہو جیسا کہ اس دن اللہ کے سامنے مومن کریں گے اور جب وہ دیکھیں گے کہ اپنے بھائیوں میں سے ان کو نجات ملی ہے تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ دوسرے (نیک) اعمال کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے نکال لو اور اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں کو دوزخ پر حرام کر دے گا۔ چنانچہ وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ بعض کا تو جہنم میں قدم اور آدھی پنڈلی تباہ ہوئی ہے۔ چنانچہ جنہیں وہ پہچانیں گے انہیں نکالیں گے پھر واپس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر بھی ایمان ہو اسے نکال لو تو چنانچہ جسے وہ پہچانیں گے اسے نکالیں گے پھر وہ واپس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ۔ چنانچہ پہچانے جانے والوں کو نکالیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو یہ آیت پڑھو۔ (ترجمہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا اگر نیکی ہے تو اس کو بڑھاتا ہے) پھر انبیاء علیہم السلام اور فرشتے شفاعت کریں گے اور ذوالجبروت کا ارشاد ہو گا کہ میری شفاعت باقی رہ گئی ہے چنانچہ جہنم سے ایک مٹھی بھرے گا اور ایسے لوگوں کو نکالے گا جو کونلہ ہو گئے ہوں گے پھر وہ جنت کے سامنے ایک نہر میں ڈال دیئے جائیں گے جسے آب حیات کہا جاتا ہے اور یہ لوگ اس کے کنارے سے اس طرح آئیں گے جس طرح سیلاب کے کوڑے کرکٹ سے سبزہ آگ آتا ہے۔ تم نے یہ منظر کسی چٹان کے یا کسی درخت کے کنارے دیکھا ہو گا تو جس پر دھوپ پڑی رہتی ہے وہ سبزہ آگتا ہے اور جس پر سایہ ہوتا ہے وہ سفید ہوتا

ہے پھر وہ اس طرح نکلیں گے جیسے موتی۔ اس کے بعد ان کی گردنوں میں مہریں ڈال دی جائیں گی اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور اہل جنت انہیں ”عقواء الرحمن“ (رحم کرنے والے کے آزاد کردہ) کہیں گے۔ اور انہیں اللہ نے بلا عمل کے جو انہوں نے کیا ہو اور بلا خیر کے جو ان سے صادر ہوئی ہو جنت میں داخل کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے ہمارے رب آپ نے تو ہمیں اتنا دیا کہ جہان والوں میں سے کسی کو اتنا نہیں دیا ارشاد ہو گا تمہارے لئے میرے پاس اس سے بھی افضل ہے عرض کریں گے اے رب اس سے افضل کیا چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میری رضامندی ہے میں اس کے بعد ہمیشہ کے لئے تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودھویں کی چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا عنقریب تم اپنے رب کی اس طرح دیدار کرو گے جیسے کہ تم اس چاند کو دیکھتے ہو اور تمہیں اس کے دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ اگر تم سے ہو سکے کہ طلوع شمس اور غروب شمس سے پہلے والی نماز سے مغلوب نہ ہو تو پڑھا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیل کی آیت تلاوت فرمائی

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ
الغروب. (سورۃ ق ۳۹)
سورج کے نکلنے سے اور پہلے ڈوبنے سے۔

حضرت صہب رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو وہ عرض کریں گے ”ہاں پروردگار کیا آپ نے ہمیں سرخرو نہیں فرمایا“ اور جنت میں داخل نہیں کیا؟ اور ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی؟ فرمایا کہ اس کے بعد پردہ ہٹا دیا جائے گا تو اپنے رب کے دیدار سے بڑھ کر کوئی محبوب چیز ان کو عطا نہیں کی گئی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید میں یہ آیت تلاوت فرمائی (للمذین احسنوا الحسنی و زیادة)

عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو اس حال میں جمع فرمائیں گے وہ چالیس سال اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے فیصلے کے انتظار میں کھڑے رہیں گے۔ فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ بادلوں کے سایوں میں عرش

سے کرسی پر نزول فرمائیں گے۔ پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اے لوگو! کیا تم اپنے اس پروردگار سے راضی نہیں ہو جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہیں رزق دیا اور تم کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ تم اس کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے اور یہ کہ وہ تم میں ان تمام لوگوں کو اس کے حوالہ کر دے جس کی وہ دنیا میں بندگی اور محبت کرتے تھے کیا یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے عدل نہیں ہو گا؟ جواب دیں گے کیوں نہیں؟ اس کے بعد ہر قوم ان کی طرف چل پڑے گی جن کی وہ دنیا میں بندگی اور محبت کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ چلیں گے تو ان کی معبودین کی اشباہ ان کے سامنے کر دی جائے گی۔ فرمایا کہ ان میں سے بعض لوگ سورج کی طرف چل پڑیں گے اور بعض چاند کی طرف اور پتھر کے بتوں اور ان اشباہوں کی طرف چل پڑیں گے جس کی یہ لوگ دنیا میں عبادت کرتے تھے، فرمایا حضرت عیسیٰ ﷺ کی عبادت کرنے والوں کے آگے عیسیٰ ﷺ سامنے کر دیا جائے گا۔ اور عزیر ﷺ کی عبادت کرنے والوں کے لئے عزیر کی شبیہ سامنے کر دی جائے گی محمد ﷺ اور ان کی امت باقی رہ جائے گی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آکر ارشاد فرمائیں گے تم کیوں نہیں چلتے جیسے کہ لوگ چلے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جواب دیں گے ہمارا ایک ہی معبود تھا اس کے علاوہ ہم کسی کو معبود نہیں سمجھتے تھے۔ ارشاد ہو گا اگر تم اس کو دیکھ لو تو پہچان سکو گے۔ عرض کریں گے ہمارے اور ان کے درمیان ایک علامت ہے اگر وہ ہمیں نظر آجائے تو ہم پہچان لیں گے۔ ارشاد ہو گا وہ علامت کیا ہے عرض کریں گے ساق کی تجلی فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ساق کی تجلی فرمائیں گے تو یہ سجدے میں گر پڑیں گے اور ایک قوم باقی رہ جائے گی کہ ان کی پیٹھ گائے کی سینگوں کی طرح ہو جائے گی یہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن اس کی طاقت نہیں ہوگی اس لئے کہ یہ لوگ سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے اس حال میں کہ یہ تندرست تھے (پھر بھی سجدہ نہیں کرتے تھے) پھر ان سے ارشاد ہو گا اپنے سر اٹھا لو۔ یہ لوگ اپنے سر اٹھالیں گے انکے اعمال کے بقدر ایک نور ان کو ڈھانپ لے گا۔ ان میں بعض وہ ہوں گے جن کو ایک بڑے پہاڑ کے برابر نور دیا جائے گا جو انکے آگے دوڑے گا۔ اور بعض وہ ہوں گے جن کا نور اس سے چھوٹا ہو گا یہاں تک آخری آدمی کو اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے برابر نور عطا کیا جائے گا جو کبھی روشن ہو گا اور کبھی بجھے گا۔ اللہ تعالیٰ

ان کے سامنے ہوں گے حتیٰ کہ یہ جہنم پر گزرے گا تو اس کا اثر تلوار کی دھار کی مانند باقی رہے گا۔ فرمایا ان سے کہا جائے گا گزرو۔ چنانچہ ہر ایک اپنے نور کے بقدر گزرنے لگے گا۔ ان میں بعض وہ ہوں گے جو آنکھ کی جھپک میں گزر جائیں گے اور بعض وہ ہوں گے جو بجلی کی طرح پار ہو جائیں گے اور بعض وہ ہوں گے جو بادل کی طرح گزر جائیں گے اور بعض وہ ہوں گے جو ستارہ ٹوٹنے کی طرح گزر جائیں گے اور بعض ہوا کی طرح پار ہوں گے اور بعض تیز گھوڑے کی طرح پار ہوں گے اور بعض پیادہ تیزی سے گزریں گے یہاں تک کہ وہ آدمی بھی گزرنے لگے گا جس کو اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے برابر نور دیا گیا تھا تو وہ ہاتھ پیر اور چہرے کے بل گھسٹا ہوا گزرے گا اس حال میں کہ اس کے پہلوؤں میں آگ پہنچے گی اور اس حالت میں گھسٹتا ہوا چلتا رہے گا یہاں تک کہ اس کو بھی نجات ملے گی اور جب وہ نجات پائے گا تو اس کو جہنموں پر کھڑا کر دیا جائے گا پھر یہ ان کو دیکھ کر کہے گا تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اس نے مجھے وہ کچھ عطا فرمایا جو کسی ایک کو بھی نہیں ملا کہ مجھے جہنم سے نجات ملی اس کے دیکھنے کے بعد چنانچہ اس کو باب جنت کے پاس بڑے تالاب پر لایا جائے گا یہ اس میں غسل کرے گا پھر اہل جنت کی ہوا اور انکے رنگ اسکی طرف لوٹیں گے تو دروازے کے بیچ سے جنت کی تمام نعمتیں اس کو نظر آئیں گی عرض کرے گا اے رب مجھے جنت میں داخل کر دے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جنت مانگتے ہو؟ حالانکہ میں نے تجھے جہنم سے نجات دی۔ عرض کرنے گا اے رب میرے اور جہنم کے درمیان ایک پردہ حائل فرما دے تاکہ میں اس کی آواز بھی نہ سنوں فرمایا کہ پھر یہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور اس کا ٹھکانا اس کے سامنے کر دیا جائے گا۔ گویا کہ وہ اس کے اندر ہے تاکہ یہ اس میں داخل ہو جائے۔ عرض کرے گا اے رب یہ ٹھکانا مجھے عطا فرمائیں ارشاد ہو گا اگر میں یہ آپ کو دے دوں تو آپ اور مانگیں گے۔ عرض کرے گا تیرے غلبہ کی قسم اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا اور اس سے بڑھ کر خوبصورت ٹھکانا کیا ہو گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ مقام اس کو دیدیں گے اور یہ اس میں داخل ہو جائے گا فرمایا پھر اس کو ایک دو سرا مقام دکھایا جائے گا تاکہ یہ اس میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ یہ اس منظر کو دیکھ کر پھر عرض کرے گا اے رب یہ مقام مجھے دیدیں۔ ارشاد ہو گا اگر میں یہ آپ کو دے دوں تو آپ اور مانگیں گے عرض کرے گا نہیں۔

تیرے غلبہ کی قسم اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا اور اس سے بڑھ کر کونسا مقام اچھا ہو گا؟ فرمایا کہ وہ مقام بھی اس کو دیا جائے گا اور یہ اس میں داخل ہو جائے گا فرمایا کہ پھر اس منزل کے سامنے ایک اور مقام اس کے سامنے کر دیا جائے گا گویا کہ یہ اس کے اندر ہے۔ عرض کرے گا اے رب یہ مقام مجھے عطا فرمائیے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائیں گے اگر میں یہ آپ کو دیدوں تو اور مانگوں گے۔ عرض کرے گا نہیں تیرے غلبہ کی قسم اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا اور اس سے بڑھ کر اچھا مقام کیا ہو سکتا ہے فرمایا اس کو یہ مقام بھی عطا کیا جائے گا اور یہ اس میں داخل ہو جائے گا پھر چھپ رہے گا اللہ عزوجل فرمائیں گے تجھے کیا ہوا کہ تو نہیں مانگ رہا؟ عرض کرے گا اے رب میں تجھ سے مانگتا رہا۔ یہاں تک کہ مجھے آپ سے حیا آنے لگی اور میں تیری قسم کھاتا رہا۔ یہاں تک کہ مجھے آپ سے حیا آنے لگی۔ اللہ عزوجل ارشاد فرمائیں گے کیا تو اس پر راضی نہیں کہ یہ دنیا جب سے میں نے اس کو پیدا کیا ہے یوم فناء تک یہ سب اور اس کے دس گنا تجھے دیدوں۔ وہ عرض کرے گا کیا آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ رب العزت ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی اس بات سے ہنسیں گے راوی کہتے ہیں کہ میں عبد اللہ بن مسعود کو دیکھ رہا تھا کہ جب حدیث کے اس مقام پر پہنچے تو ہنسنے لگے ایک شخص نے اس سے پوچھا اے ابو عبد الرحمن میں نے کئی مرتبہ آپ کو یہ حدیث بیان کرتے سنا جب بھی آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں تو آپ ہنستے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو یہ حدیث بیان کرتے کئی مرتبہ سنا آپ ﷺ جب بھی اس مقام پر پہنچتے تو آپ ہنستے۔ یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو جاتے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں (یعنی میں استہزاء نہیں کر رہا ہوں) بلکہ میں قادر ہوں مانگ۔ وہ عرض کرے گا مجھے لوگوں میں شامل کر دے۔ ارشاد ہو گا لوگوں سے مل جا چنانچہ یہ چلے گا جنت میں رمی کرتا ہوا چلے گا یہاں تک کہ جب لوگوں کے قریب پہنچے گا تو ایک موتی کا محل اس کے سامنے کر دیا جائے گا تو یہ سجدے میں گر پڑے گا اس سے کہا جائے گا تجھے کیا ہوا اپنا سراٹھالے یہ کہے گا میں نے اپنے رب کو دیکھا اس سے کہا جائے گا یہ تو آپ کے ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ ہے فرمایا کہ پھر جنت میں ایک آدمی سے ان کی ملاقات ہوگی تو یہ سجدے کے لئے تیار ہو جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کیا ہوا وہ کہے گا میں نے سمجھا کہ آپ

فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہیں وہ کہے گا میں تو آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام کے داروغوں میں سے ایک داروغہ ہوں۔ میری ذمہ داری میں میرے ماتحت ایک ہزار خدام شامل ہیں۔ فرمایا کہ وہ اس کے آگے چلے گا یہاں تک کہ ایک محل اس کے لئے کھول دے گا فرمایا کہ وہ محل ایک خولدار (کھوکھلے) موتی کا ہو گا اس کی چھت دروازے تالے اور چابیاں باہر سے سبز جواہرات اور اندر سے سرخ جواہرات کی بنی ہوں گی۔ ہر ہیرے کا رنگ دوسرے سے علیحدہ ہو گا۔

ہیرے اور مسریاں اور بیسیاں اور خدمات جن میں سے سب سے ادنیٰ حور عین ہوگی جو ستر جوڑے پہنے ہوئی ہوگی اس کی ہڈی کا گودا ان تمام جوڑوں کے اندر سے دکھائی دے گا اس کا جگر اس کے شوہر کا آئینہ ہو گا جب یہ اس سے ایک مرتبہ اعراض کرے گا تو اسکی نگاہوں میں پہلے کی بہ نسبت ستر گنا زیادہ محبت بڑھ جائے گی تو یہ اسے کہے گا خدا کی قسم تو میری نگاہ میں ستر گنا (حسن میں) بڑھ چکی ہے تو وہ کہے گی خدا کی قسم، خدا کی قسم، آپ بھی میری نگاہ میں ستر گنا بڑھ چکے ہیں اس سے کہا جائے گا: جھانک لے فرمایا کہ وہ جھانکے گا: اسے کہا جائے گا تیری بادشاہی سو سال کی مسافت پر ہے جہاں تک نگاہ ختم ہو جاتی ہے راوی کہتا ہے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

اے کعب: کیا آپ ابن ام عبد کی حدیث نہیں سن رہے جو انہوں نے ادنیٰ جنتی کے بارے میں بیان کی تو اعلیٰ جنتی کا کیا مقام ہو گا؟ حضرت کعب نے فرمایا "اے امیر المؤمنین اس میں تو وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں اور نہ کسی کان نے سنیں۔ اللہ عزوجل نے اس میں ایک گھر بنایا اور پھر بیویوں اور میوؤں اور مختلف قسم کی مشروبات میں سے جو چاہا اس میں رکھا اور پھر اس کو بند کیا اس کی مخلوق میں سے اس کو کسی ایک نے بھی نہیں دیکھا نہ جبرئیل نے اور نہ فرشتوں میں سے کسی اور نے

پھر حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی۔

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً

بما كانوا يعملون. (سجدة: ۱۷)

ان کے واسطے آنکھوں کی ٹھنڈک بدلا اس کا

جو کرتے تھے۔

فرمایا اس کے علاوہ اور دو جنتیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائیں اور جس سے چاہا ان کو مزین فرمایا، جس کا اعمال نامہ علیتین میں ہو وہ اپنے گھر میں داخل ہو گا۔ جو کسی نے بھی نہیں دیکھا یہاں تک کہ علیتین والوں میں سے ایک آدمی نکلے گا اور اپنی بادشاہی میں چلنا شروع کرے گا کوئی خیمہ جنت کے خیموں میں سے ایسا باقی نہیں رہے گا جس میں اس کے چہرے کی رونق داخل نہ ہو اس کی خوشبو سے اہل جنت خوش ہوں گے اور کہیں گے واہ کیا ہی اچھی خوشبو ہے یہ آدمی علیتین والوں میں سے ہے جو اپنی بادشاہی میں تفریح کے لئے نکلا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے کعب رضی اللہ عنہ تعجب ہے آپ نے تو ان دلوں کو آزاد کر دیا اب ان کو قابو (کنٹرول) کر دے یہ سن کر حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ قیامت کے دن جنم کے لئے ایک چنگھاڑ ہوگی کہ نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی بھیجا ہوا پیغمبر ایسا باقی نہیں رہے گا جو گھٹنوں کے بل نہ گرے۔ یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی کہیں گے اے رب میری جان، میری جان: یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس اپنے عمل کے ساتھ ستر انبیاء کا بھی عمل ہو تو آپ کو پھر بھی اپنی نجات کا یقین نہیں ہو گا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت ہر جمعے کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو ملنے والی نعمتوں کا ذکر فرمایا، فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے پردہ ہٹا دو چنانچہ ایک پردہ ہٹایا جائے گا پھر دو سرا پردہ ہٹا دیا جائے پھر اللہ تعالیٰ ان کے لئے اپنی ذات کی تجلی فرمادیں گے ان کو ایسا محسوس ہو گا گویا کہ انہوں نے اس سے پہلے کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذیل ارشاد کا یہی مصداق ہے۔

ولدینا مزید (سورۃ ق ۳۵) اور ہمارے پاس ہے کچھ زیادہ بھی

صحیحین میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو جنتیں ایسی ہوں گی جو خود اور ان میں سارا سامان چاندی کا ہو گا اور دو جنتیں ایسی ہوں گی جو خود اور ان میں سارا سامان سونے کا ہو گا جنت عدن میں لوگوں اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنے کے درمیان اس کی ذات پر اس کی کبریائی کی چادر حائل ہوگی۔

ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت

کے دن تمام امتوں کو ایک میدان میں جمع فرمادیں گے پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جدا کرنا شروع کریں گے تو ہر قوم کے سامنے اسی کا نمونہ دکھایا جائے گا جس کی وہ عبادت کرتی تھی یہ اس کے پیچھے ہو جائیں گے یہاں تک کہ ان کو آگ میں داخل کر دے گا پھر ہمارے پاس اللہ عزوجل اس حال میں آئیں گے کہ ہم ایک اونچے مقام پر ہوں گے۔ ارشاد ہو گا تم کون ہو؟ عرض کریں گے ہم مسلمان ہیں۔ ارشاد ہو گا تمہیں کس چیز کا انتظار ہے ہم عرض کریں گے کہ ہم اپنے رب عزوجل کا انتظار کر رہے ہیں۔ ارشاد ہو گا اگر تم اسے دیکھ لو تو پہچان سکو گے؟ ہم عرض کریں گے ہاں اس لئے کہ اس کے برابر کوئی نہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ ہنستے ہوئے ہمارے لئے تجلی فرمادیں گے اور ارشاد فرمائیں گے اے مسلمانوں کی جماعت خوش رہو۔ اس لئے کہ تم میں کوئی ایک ایسا نہیں جس کی جگہ میں نے جہنم میں کسی یہودی یا نصرانی کو نہ ڈالا ہو۔

صحیح بخاری میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا کہ ایک شخص آپ کے پاس فاقہ کی شکایت کرنے آیا پھر دو سرا آکر ڈکیتی کی شکایت کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی کیا آپ نے حیرہ مقام دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں لیکن مجھے اس کی خبر دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر آپ کی عمر دراز ہوئی تو آپ ایک عورت کو دیکھیں گے جو مقام حیرہ سے چلے اور یہاں تک کہ کعبہ کا طواف کرے گی اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہو گا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ مومنین قیامت کے دن جمع کئے جائیں گے یہاں تک کہ اس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جائیں گے (۱) یہاں تک کہ اس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جائیں گے۔ اور کہیں گے کہ کاش کوئی ہماری شفاعت کرتا تاکہ ہم اپنی اس حالت سے نجات پاتے چنانچہ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ آدم ہیں انسانوں کے جدا مجد اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا آپ کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا۔ اور ہر چیز کے نام آپ کو سکھائے۔ پس آپ اپنے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کریں تاکہ ہمیں اس حالت سے چھٹکارا ملے۔ چنانچہ آپ جواب دیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں اور آپ اپنی غلطی انہیں یاد دلائیں گے جو آپ سے سرزد ہوئی تھی۔ اور کہیں گے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ

کیونکہ وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ نے زمین والوں کی طرف مبعوث کیا تھا چنانچہ لوگ نوح ﷺ کے پاس آئیں گے تو آپ بھی فرمائیں گے کہ میرا یہ مقام نہیں ہے اور اپنی اس غلطی کو یاد کریں گے جو بغیر علم کے اللہ رب العزت سے سوال کر کے انہوں نے کی تھی اور کہیں گے کہ ابراہیم ﷺ کے پاس جاؤ جو اللہ کے خلیل ہیں۔ بیان کیا کہ سب لوگ ابراہیم ﷺ کے پاس آئیں گے وہ بھی عذر کریں گے کہ میرا یہ مقام نہیں اور اور آپ ان تین باتوں کو یاد کریں گے جن میں آپ نے غلط بیانی کی تھی اور کہیں گے کہ موسیٰ ﷺ کے پاس جاؤ وہ ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ نے توریت دی۔ انہیں ہم کلامی کا شرف بخشا اور ان سے سرگوشی کی۔ بیان کیا کہ پھر لوگ موسیٰ ﷺ کے پاس آئیں گے وہ بھی کہیں گے کہ میرا یہ مقام نہیں اور آپ اپنی وہ غلطی یاد کریں گے جو ایک شخص کو قتل کر کے آپ نے کی تھی البتہ عیسیٰ ﷺ کے پاس جاؤ وہ اللہ کے بندے اور اسکے رسول اللہ کی روح اور اسکا کلمہ ہیں۔ چنانچہ لوگ عیسیٰ ﷺ کے پاس آئیں گے۔ آپ فرمائیں گے کہ میرا یہ مقام نہیں تم لوگ محمد ﷺ کے پاس جاؤ۔ وہ ایسے بندے ہیں کہ اللہ نے ان کے تمام اگلے بچھلے گناہ معاف کر دیئے تھے۔ چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں اپنے رب سے اس کے گھر میں آنے کے لئے اجازت چاہوں گا۔ مجھے اس کی اجازت دی جائے گی۔ پھر جب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں گا تو سجدہ میں گر پڑوں گا اور اللہ مجھے جب تک چاہیں گے اس حالت میں رہنے دے گا پھر فرمائے گا کہ محمد! اٹھو کہو سنا جائے گا شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، مانگو دیا جائے گا۔ بیان کیا کہ پھر میں اپنا سراٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و ثناء کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا۔ بیان کیا کہ پھر شفاعت کروں گا چنانچہ میرے لئے حد مقرر کی جائے گی اور اسکے مطابق لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل کروں گا پھر میں دوبارہ سجدے میں گر پڑوں گا اور اللہ تعالیٰ جب تک مجھے چاہیں گے اسی حالت میں رہنے دے گا۔ پھر فرمائے گا سراٹھاؤ مانگ اپنا قبول کی جائے گی بیان کیا پھر میں اپنا سراٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و ثناء کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا بیان کیا کہ میں پھر شفاعت کروں گا چنانچہ میرے لئے حد مقرر کر لی جائے گی اور اس کے مطابق میں لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ راوی کہتا ہے کہ پھر میں نہیں جانتا کہ آپ نے تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ میں یوں فرمایا کہ

پھر میں عرض کروں گا اے پروردگار اب جہنم میں صرف وہی باقی رہ گئے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہے، یعنی انہیں ہمیشہ ہی اس میں رہنا ہو گا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جتنا چاہے لوگوں کو روکے رکھے گا۔ لوگ کہیں گے ہمیں آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو تاکہ وہ ہمارے رب کے ہاں ہماری سفارش کریں پھر آخر تک حدیث کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سفارش کی درخواست کریں گے۔ میں کہوں گا کہ میں ہی اس کا اہل ہوں۔ چنانچہ میں جاؤں گا یہاں تک کہ جنت کا دروازہ کھولنے کو کہوں گا تو وہ میرے لئے کھول دیا جائے گا میں اس حال میں داخل ہو جاؤں گا کہ میرا رب عرش پر ہو گا میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔

اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کو دیکھنا حدیث و سنت کے علم رکھنے والوں کے ہاں قطعی طور پر ثابت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حدیث میں ہے فرمایا کہ میں اول وہ شخص ہوں جس سے زمین چیری جائے گی اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں اور میں اولاد آدم کا سردار ہوں مجھے اس پر فخر نہیں میں لواء الحمد فلا ہوں مجھے اس پر فخر نہیں (۱) اور میں لواء الحمد والا ہوں مجھے اس پر فخر نہیں۔ اور میں ہی سب سے پہلا شخص ہوں جو جنت میں داخل ہو گا اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں۔ میں جنت کا کواڑ پکڑ لوں گا تو مجھے اجازت دیدی جائے گی جبار جل جلالہ میرا استقبال کریں گے میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد (للمذنب احسنوا الحسنی و زیادہ) میں ”زیادت“ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جبرئیل علیہ السلام ہاتھ میں سفید شیشے کی طرح چیز اٹھائے میرے پاس آئے کہ اس میں کالا ساداغ تھا میں نے کہا اے جبرئیل تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ جمعہ ہے۔ میں نے کہا جمعہ کیا ہے؟ فرمایا اس میں تمہارے لئے بہت خیر و برکت ہے۔ میں نے پوچھا اس میں ہمارے لئے کیا ہیں؟ فرمایا اس میں آپ کی اور آپ کی قوم کی وعید ہے۔ یہود اور نصاریٰ آپ کے تابع ہیں۔ میں نے پھر پوچھا ہمارے لئے اس میں کیا ہے؟ فرمایا تمہارے لئے اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ اس

میں جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے جس میں اس کے لئے مصلحت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اگر اس میں بندے کی مصلحت نہ ہو تو اس کو اس کی آخرت کے لئے ذخیرہ فرما دیتے ہیں جس کا فائدہ دنیا میں ملنے سے بڑھ کر ہے۔ میں نے پوچھا اس میں یہ داغ کس چیز کا ہے؟ فرمایا یہ وہی گھڑی ہے اور ہم اس کو یوم المزید کہتے ہیں میں نے پوچھا اے جبرئیل وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تیرے رب نے جنت میں وادی بنائی ہے جس میں سفید مشک کے ٹیلے ہیں۔ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ علیتین سے کرسی پر اترتے ہیں۔ پس اس کی کرسی کو نور کی کرسیوں سے ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام تشریف لاکر ان کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے اور یہ کرسیاں نور اور سونے اور جواہرات کے منبروں سے گھیر لی جاویں گی پھر صدیقین اور شہداء آکر ان نور کے منبروں پر بیٹھ جائیں گے۔ پھر بالا خانوں والے اپنے بالا خانوں سے اتر پڑیں گے، مشک کے ان ٹیلوں پر بیٹھ جاویں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے لئے تجلی فرمائیں گے اور ارشاد فرمائیں گے کہ میں وہ ذات ہوں جس نے تم سے اپنے کئے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو پورا کیا۔ یہ میری عزت کی جگہ ہے مجھ سے مانگو۔ چنانچہ وہ مانگنا شروع کر دیں گے حتیٰ کہ ان کی رغبت ختم ہو جائے گی۔ اس دوران ان کے لئے وہ نعمتیں کھول دی جائیں گی جو نہ کسی آنکھ دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا یہ اتنی مقدار میں ہو گا جتنی مقدار میں تم جمعے کی نماز پڑھ کر واپس لوٹتے ہو۔ پھر اللہ عزوجل اپنی کرسی پر بلند ہو جاویں گے تو اس کے ساتھ انبیاء اور صدیقین بھی اونچے ہو جائیں گے اور بالا خانوں والے اپنے بالا خانوں کی طرف لوٹ جائیں گے اور جنت کے دروازے اور بالا خانے اور سبز زبرجد اور سرخ یا قوت کے بنے ہوئے ہیں اور اس میں جاری نہریں ہیں اور اہل جنت کی بیویاں اور خدام ہیں۔ اور اس کے میوے جھکے ہوئے ہیں۔ وہ سب سے زیادہ جمعے کے دن کے محتاج ہوں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ اپنے رب کا دیدار کریں اور اس کے ہاں ان کی عزت بڑھے۔

دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرے طریق سے بھی یہ روایت نقل کی ہے اس میں اس کا اتنا اضافہ ہے کہ جب ان منبروں کو نور کی کرسیوں سے گھیر لیا جائے گا تو پھر بالا خانوں والوں کو اجازت ملے گی۔ چنانچہ وہ مشک کے ٹیلوں میں گھس کر سواروں میں شامل ہوں گے ان کے پاس

سونے اور چاندی کے کنگن اور ریشم کے کپڑے ہوں گے حتیٰ کہ اس میں پہنچیں گے۔ جب اس میں اطمینان سے بیٹھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایک ہوا بھیجیں گے جس کو ”شورہ“ کہا جاتا ہے وہ مشک کو اڑا کر ان کے کپڑوں اور چروں میں بسا دے گی اور اس وقت وہ لوگ بے ریش ہوں گے اور بدن پر بال نہ ہوں گے سرنگی آنکھوں والے اور تینتیس سال کے نوجوان ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوں گے جس دن اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ رضوان (خازن جنت) کو آواز دیں گے۔ ارشاد فرمائیں گے اے رضوان! میرے اور میرے بندوں اور وزیروں کے درمیان سے پردہ ہٹا دو۔ چنانچہ جب وہ اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان سے پردہ ہٹائیں گے تو یہ لوگ اس کے نور اور تروتازگی کو دیکھ کر سجدہ کرنے کا ارادہ کریں گے۔ اللہ ان کو اپنی آواز سے پکاریں گے۔ اپنے سر اٹھالو۔ عبادت دنیا میں تھی اب تم دارالجزاء میں ہوں جو چاہو مجھ سے مانگو میں تمہارا وہ رب ہوں جس نے تم سے اپنے کئے ہوئے وعدہ کو سچا کر دکھایا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں یہ میری عزت کی جگہ ہے جو چاہو مجھ سے مانگو۔ وہ عرض کریں گے اے رب وہ کونسی بھلائی ہے جو آپ نے نہیں کی۔ کیا آپ نے ہمیں موت کی سختیوں سے نہیں بچایا؟ اور قبروں کے اندھیروں میں وحشت سے ہماری حفاظت نہیں فرمائی؟ اور صور پھونکتے وقت گھبراہٹ سے ہمیں امن میں نہیں رکھا؟ کیا آپ نے ہماری لغزشیں کم نہیں فرمائیں؟ اور ہمارے ناشائستہ افعال پر پردہ نہیں ڈالا؟ اور جہنم کے پل پر ہمارے قدموں کو نہیں جمایا؟ کیا آپ وہ ذات نہیں ہیں کہ ہمیں اپنے پڑوس میں قریب کیا اور اپنے کلام سے ہمیں لطف اندوز نہیں فرمایا؟ اور ہمارے لئے اپنے نور کی تجلی نہیں فرمائی۔ اے پروردگار وہ کونسی بھلائی ہے جو آپ نے ہمارے ساتھ نہیں کی۔ ارشاد ہو گا میں تمہارا وہ رب ہوں جس نے تم سے کئے ہوئے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں۔ پس مجھ سے مانگو۔ عرض کریں گے ہم آپ سے آپ کی رضامندی چاہتے ہیں ارشاد ہو گا۔ اپنی رضامندی ہی کی وجہ سے تو میں نے تمہاری لغزشیں کم کیں اور تمہارے ناشائستہ کاموں پر پردہ ڈالا اور تمہیں قریب کر کے اپنا پڑوسی بنایا اور اپنے کلام کی چاشنی تمہیں چکادی اور اپنے نور کی تجلی تم کو دکھادی یہ میری عزت کی جگہ ہے مجھ سے مانگو چنانچہ وہ اتنا مانگیں گے کہ ان کی رغبت

ختم ہو جائے گی پھر ارشاد ہو گا مجھ سے مانگو چنانچہ وہ پھراتا مانگیں گے کہ ان کی رغبت ختم ہو جائے گی۔ پھر ارشاد ہو گا۔ مجھ سے مانگو۔ یہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار ہم راضی ہوئے اور ہم نے مان لیا پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسے مزید فضل اور عزت سے نوازیں گے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی اور نہ کسی کان نے سنی ہوگی اور نہ کسی بشر کے دل پر اس کا خیال گزرا ہو گا اور یہ اتنی مقدار میں ہو گا جتنی مقدار تم جمعہ پڑھ کر جدا ہوتے ہو انس ﷺ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو ان کے جدا ہونے کی مقدار کیا ہوگی؟ فرمایا ایک جمعہ سے لیکر دوسرے جمعہ تک کی مقدار فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اٹھایا جائے گا اس کے ساتھ انبیاء اور فرشتے بھی ہوں گے۔ پھر بالا خانوں والوں کو اجازت ملے گی وہ اپنے بالا خانوں کی طرف لوٹیں گے۔ وہ دوسرے مرد کے بنے ہوئے بالا خانے ہوں گے۔ اہل جنت یوم جمعہ سے بڑھ کر کسی چیز کے مشتاق نہیں ہوں گے تاکہ اپنے رب کا دیدار کرے اور مزید اس کے فضل اور اکرام کا مستحق بنیں۔ انس ﷺ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے آپ ﷺ سے اس حال میں سنی کہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی حائل نہیں تھا۔ عبد اللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہما اپنے والد سے نقل کرتے ہیں فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا نہیں جو قیامت کے دن خلوت میں اللہ تعالیٰ سے نہ ملے اس کے اور اللہ کے درمیان نہ کوئی پردہ ہو گا اور نہ کوئی ترجمان۔

زرین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن ہم سے میں ہر ایک اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا جی ہاں میں نے عرض کیا کہ اس کی مخلوق میں اس کی کوئی علامت ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا تو پھر اللہ تو اس سے بہت بڑے اور عظیم ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن لوگوں سے اوپر ہوں گے۔ امتوں کو اپنے بتوں اور جس کی وہ عبادت کرتے تھے کے ساتھ ایک ایک کر کے بلایا جائے گا پھر اللہ ہمارے پاس آکر پوچھیں گے کہ تمہیں کس کا انتظار ہے؟ ہم کہیں گے ہم اپنے رب کے منتظر ہیں۔ ارشاد ہو گا میں تمہارا رب ہوں۔ عرض کریں گے حتیٰ کہ ہم آپ کو دیکھ لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہنس کر ان کی طرف تجلی فرمادیں گے اس کے بعد اس کے پیچھے ہو جاویں گے ہر آدمی کو

چاہے مومن ہو یا منافق ایک نور دیا جائے گا۔ پھر یہ اس کے پیچھے جہنم کے پل پر گزریں گے جس میں مڑے ہوئے کانٹے ہوں گے جس کو اللہ چاہیں گے وہ کانٹے اس کو اٹھالیں گے پھر منافقوں کا نور ختم ہو جائے گا اور مومنوں کو نجات مل جائے گی سب سے پہلے نجات پانے والی جماعت کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی مانند چمکدار ہوں گے۔ اور ستر ہزار کے ساتھ کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد والی جماعت کے چہرے آسمان میں سب سے زیادہ چمکدار ستارے کی طرح ہوں گے پھر اس طرح صحن شفاعت شروع ہو جائے گی یہاں تک جہنم سے ہر اس شخص کو نکالا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں جو کے برابر بھلائی ہو۔ پھر ان کو جنت کے صحن میں ڈال دیا جائے گا اہل جنت ان پر پانی چھڑکانا شروع کر دیں گے یہاں تک یہ سبزے کی طرح اگنا شروع ہو جائیں گے اور انکی جلن ختم ہو جائے گی پھر سوال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا اور اس کے ساتھ اس جیسے دس گنا اور دیں گے۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت کے لئے تجلی فرمائیں گے تو یہ لوگ اس کو دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے ارشاد ہو گا اپنے سراٹھالو۔ یہ عبادت کا دن نہیں ہے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے کہ ایک نور بلند ہو گا وہ سراٹھالیں گے تو وہ اللہ عزوجل ان پر اوپر سے جھانک رہے ہوں گے ارشاد ہو گا اے جنتیو السلام علیکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد

سلام قولنا من رب الرحیم (یس ۵۸) ”سلام بولنا ہے رب مہربان سے“ کا مصداق یہی

ہے۔

چنانچہ اہل جنت تمام نعمتوں کو چھوڑ کر اس کا دیدار کریں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے اور ان میں اس کی برکت اور نور رہ جائے گا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت اپنی مجلس میں مشغول ہوں گے جنت کے دروازے پر ان کے لئے ایک نور ہو گا یہ سراٹھا کر دیکھیں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ چنانچہ ارشاد ہو گا اے جنتیو مجھ سے مانگو عرض کریں گے کہ ہم آپ سے

یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ارشاد ہو گا کہ میری رضامندی نے ہی تو تمہیں میری جنت میں داخل کیا اور جنت میری عزت کی جگہ ہے یہی وقت ہے مجھ سے مانگو۔ عرض کریں گے ہم آپ سے زیادتی مانگتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے پاس سرخ یا قوت کے اونٹ لائے جائیں گے جن کی لگائی میں سبز زرد اور سرخ یا قوت کے بنے ہوں گے۔ چنانچہ یہ لوگ اس پر سوار ہو کر آئیں گے ان کی رفتار کا یہ عالم ہو گا کہ جہاں ان کی نگاہ جاتی ہے وہاں ان کا قدم پڑے گا اللہ تعالیٰ پھلدار درختوں کو حکم دے گا وہ حور عین میں سے لڑکیاں ان کے پاس پیش کریں وہ کہتی ہوں گی۔ نعن الناعمات فلا نباس۔ نعن الخالدات فلما نموت۔ ازواج قوم سومنہن کرام۔ (ترجمہ پہلے گزر چکا ہے) پھر اللہ تعالیٰ خالص سفید مشک کے ٹیلوں کو حکم دیں گے وہاں سے ان پر ایک ہوا چلے گی جس کو مہودہ (خوشبو بسانے والی) کہا جاتا ہے حتیٰ کہ یہ لوگ جنت عدن میں پہنچ کر تب وہ ختم ہو جائے گی فرشتے عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار لوگ آگئے ہیں ارشاد ہو گا تا بعد اری کرنے والوں اور صادقین کو خوش آمدید ہو۔ فرمایا کہ پھر پردہ ہٹا دیا جائے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور رحمن کے نور سے لطف اندوز ہوں گے یہاں تک کہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے پھر ارشاد ہو گا کہ تحفوں کے ساتھ محلات میں لوٹ جاؤ چنانچہ جب وہ لوٹیں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ارشاد

نزلا من غفور رحیم (سورۃ فصلت ۳۲) مسمانی ہے اس بخشنے والے مہربان کی طرف

سے

کا مصداق یہی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے عام تجلی فرمائیں گے اور ابوبکر کے لئے خاص تجلی فرمائیں گے ابو امامتہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ ﷺ نے ہمیں خطبہ دیا آپ نے خطبے میں اکثر دجال کا تذکرہ فرمایا کہ ہمیں اس سے ڈرایا اور اسکے متعلق کچھ بیان فرمایا حتیٰ کہ آپ ﷺ اپنے خطبے سے فارغ ہوئے۔ اس کے متعلق اس دن ہم سے ارشاد فرمایا کہ بیشک اللہ عزوجل نے کوئی ایسا پیغمبر مبعوث نہیں کیا جس نے اپنی امت کو اس سے نہ ڈرایا ہو۔ میں آخر الانبیاء ہوں اور تم لوگ

آخر الامم ہو۔ لامحالہ دجال کا خروج تم میں ہو گا اگر وہ اس وقت نکلا جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو تب تو میں ہی ہر مسلمان کی طرف سے اس کا مقابل ہوں گا۔ لیکن اگر وہ میرے بعد تم میں نکلا تو ہر شخص بذات خود اس کا مقابل ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہو گا دجال عراق اور شام کے درمیان والے شگاف سے نکلے گا۔

اے اللہ کے بندوں ثابت قدم رہو وہ نکل کر یہ کہنا شروع کر دے گا کہ میں نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں پھر اپنی تعریف کرے گا اور کہے گا میں تمہارا رب ہوں آپ ﷺ نے فرمایا حالانکہ تم اپنے رب کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو جب تک کہ تم مرنے جاؤ۔ (یعنی اس دنیا میں اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا) اور دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ ”کافر“ لکھا ہو گا ہر مومن اس کو پڑھ سکے گا تم میں سے جو اس سے ملے تو اسکے چہرے پر تھوک دے اور سورۃ کھف کی ابتدائی آیتیں پڑھ لیں۔ اس کو اولاد آدم میں سے ایک شخص پر قابو دیا جائے گا چنانچہ یہ اس کو قتل کرے گا اور پھر زندہ کر دے گا اس سے تجاوز نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے علاوہ کسی اور جان پر قابو پائے گا اس کے فتنے میں یہ بھی ہو گا کہ اس کے پاس جنت اور آگ ہوگی۔ اس کی آگ جنت اور اسکی جنت آگ ہیں۔ پس جس شخص کو اس کی آگ میں آزمایا گیا تو اس کو چاہئے کہ اپنی آنکھیں بند کر کہ (اس میں کود پڑے) اور اللہ سے امداد مانگے تو وہ آگ ایسی ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی تھی۔ اس کا زمانہ چالیس دن کا ہو گا پہلا دن سال کے برابر ہو گا۔ دوسرا مہینے کے برابر۔ تیسرا جمعہ کے برابر اور چوتھا عام دنوں جیسا اور آخری دن بالکل دھوکہ ہی ہو گا فرمایا کہ باب مدینہ کے پاس ایک آدمی پر صبح ہو جائے گی تو اسکے دوسرے دروازے تک پہنچنے سے پہلے شام ہو جائے گی صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ان دنوں میں ہم نمازیں کیسے پڑھیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا تم کو ایسی ہی نماز پڑھنے کی قدرت ہوگی جیسے کہ ان لمبے دنوں میں تمہیں قدرت حاصل تھی۔

زید بن ثابت رضی اللہ عنہما کو رسول اللہ ﷺ نے یہ دعا سکھائی اور اس کو اس بات کا حکم فرمایا کہ اپنے گھر والوں سے ہر دن اس کی پابندی کراؤ۔ فرمایا صبح کے وقت یہ دعا پڑھا کرو۔

لَبَّيْكَ ، اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَمَنْكَ وَالِيكَ اَللّٰهُمَّ وَمَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ اَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ اَوْ حَلَفْتُ مِنْ حَنْفٍ فَمَشَيْتُكَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، مَا شِئْتُ كَانَ وَمَا لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ اِنَّكَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، اَللّٰهُمَّ وَمَا صَلَّيْتُ مِنْ صَلَاةٍ فَعَلَى مِنْ صَلَّيْتُ وَمَا لَعَنْتُ مِنْ لَعْنَةٍ فَعَلَى مِنْ لَعَنْتُ ، اَنْتَ وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تُوَفِّنِيْ مُسْلِمًا وَالْحَقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ ، اَسْئَلُكَ اَللّٰهُمَّ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَبِرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَلِذَلِكَ النَّظْرَ اِلَى وَجْهِكَ وَالشُّوْقَ اِلَى لِقَائِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَاءٍ مُضْرَةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضْلَةٍ ، اِغْوِذْكَ اَللّٰهُمَّ اِنْ اَظْلَمَ اَوْ اَظْلَمَ اَوْ اَعْتَدَى اَوْ يَعْتَدِيْ عَلَيَّ اَوْ اَكْسَبَ خَطِيْئَةً عَجْبَةً اَوْ ذَنْبًا لَا تَغْفِرُهُ ، اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ - فَاِنِّيْ اَعْهَدُ اِلَيْكَ فِيْ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاَشْهَدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيدًا اِنِّيْ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ ، لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَاَنْتَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ اِنْ وَعَدَكَ حَقٌّ وَاَنْ لِقَائِكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ اْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيْهَا وَاَنْتَ تَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ اِنْ تَكَلَّمْتَنِيْ اِلَى نَفْسٍ تَكَلَّمْتَنِيْ اِلَى ضِيْعَةٍ وَعَوْرَةٍ وَذَنْبٍ وَخَطِيْئَةٍ وَاِنِّيْ لَا اَتَّقِيْ اِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ وَتَبَّ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيْمُ (رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ فِيْ سُنَنِهِ)

اے اللہ میں حاضر ہوں اور پھر حاضر ہوں اور مستعد ہوں تیری حکم برداری کے لئے اور بھلائی جو بھی ہے وہ سب تیرے ہی دست قدرت میں ہے تیری ہی جانب سے ہے اور تیری ہی طرف ہے اے اللہ جو کوئی بات میں نے منہ سے نکالی یا کوئی قسم کھالی یا کوئی منت مانی تو ان سب پر تیرا ارادہ مقدم ہے جو تو نے چاہا وہ ہو گیا اور جو نہ چاہا وہ نہ ہو گا۔ ہم میں گناہوں سے بچنے کی نہ طاقت ہے اور نہ عبادت کی قوت مگر تیری ہی توفیق سے بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ جو دعائیں میں نے کی ہوں تو یہ دعا اس کو لگے جس کو تو نے دعا کا مستحق سمجھا ہو اور جو کسی پر لعنت کی ہو تو یہ لعنت اسی پر پڑے جس کو تو نے لعنت کے لائق سمجھا ہو تو ہی دنیا اور آخرت میں

میرا کارساز ہے مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرمالینا۔ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے حکم پر خوشنودی اور موت کے بعد آرام کی زندگی اور تیرے روئے انور کے دیدار کی لذت اور تیری ملاقات کا شوق نہ اس تکلیف کی حالت میں جو تکلیف وہ ہو اور نہ کسی ایسے فتنہ میں جو گمراہ کرنے والا ہو اور تیری پناہ لیتا ہوں کہ خود کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے خود یا کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے یا کسی پر خود زیادتی کروں یا کوئی میرے اوپر زیادتی کرے یا قصد کسی غلطی میں مبتلا ہوں یا کسی ایسے گناہ میں جس کو تو نہ بخشے (یعنی شرک) یا اللہ تو ہمیں ایمان کی زینت سے آراستہ کر دے اور راہ بتانے والا اور خود راہ یافتہ بنا دے اے اللہ آسمانوں اور زمین کے بنانے والے چھپے اور کھلے کے جاننے والے بزرگی اور بخشش والے میں اس دنیا کی زندگی میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اور تجھے گواہ کرتا ہوں اور تیری گواہی کافی ہے اس بات پر کہ میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ معبود سوا تیرے کوئی نہیں ہے بس تو ہی ایک معبود ہے تیرا شریک کوئی نہیں بادشاہی صرف تیری ہے تمام تعریفیں صرف تیری ہیں اور تو ہر بات پر قادر ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد (ﷺ) تیرے بندہ ہیں اور تیرے رسول ہیں اور اس کی کہ تیرا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ تیری ملاقات ہوتی ہے اور قیامت ضرور آکر رہے گی اس میں ذرا شبہ نہیں اور بیشک تو قبروں سے مردوں کو اٹھائے گا اور اگر مجھ کو تو نے کہیں خود میری جان سپرد کر دیا تو یقیناً سپرد کرے گا کمزوری، عیب گناہ اور غلطیوں کے (کہ یہ سب کچھ ہو کر رہیں گے) بیشک مجھ کو بجز تیری رحمت کے کسی پر کوئی بھروسہ نہیں تو اب میرے سب گناہ بخش دے کیونکہ کوئی نہیں بخشتا مگر تو اور میری توبہ قبول فرما کیونکہ تو ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔

عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے متعلق ابو مجاز رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک مرتبہ بہت مختصر سی نماز پڑھائی۔ لوگوں نے اس پر نکیر کی۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کیا رکوع اور سجدہ پورا پورا ادا نہیں ہوا۔ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں فرمایا کہ میں نے اس نماز میں وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني اذا علمت
الوفاة خيرا لي وأسئلك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضاء والقصد
في الفقر والغنى ولذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة
اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين (رواه ابن حبان والحاكم)

الہی اپنے علم غیب کی برکت سے اور مخلوق پر اپنی قدرت کے وسیلے سے مجھ کو زندہ رکھنا اس وقت تک جب تک تو میری زندگی میرے لئے بہتر جانے اور مجھ کو اٹھالینا اس وقت جب تو میرے لئے مرنا بہتر جانے۔ الہی میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرا ڈر غائب اور حاضر ہر حالت میں اور اخلاص کی بات خوشی میں بھی اور غصہ میں بھی اور تجھ سے میانہ روی کا طالب ہوں تنگدستی میں بھی اور دولت مندی میں بھی اور تیرے روئے (انور) کے دیدار کی لذت اور تیری ملاقات کے شوق کا طلب گار ہوں۔ بغیر کسی نقصان کے اور ایسے فتنے سے جو گمراہ کر دے اے اللہ ہم کو زینت بخش ایمان کی زینت سے اور ہم کو بنا دے ہدایت کرنے والا جو خود بھی ہدایت یافتہ ہو۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے جابر کیا میں آپ کو خوشخبری نہ دوں عرض کیا کیوں نہیں اللہ آپ کو خیر کی خوشخبری دیدیں۔ چنانچہ فرمایا کہ میں نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کو زندہ فرما کر اپنے سامنے اس کو بٹھایا اور اسے فرمایا اے میرے بندے جو کچھ آپ چاہیں مجھ سے مانگ لیں میں عطا کروں گا۔ تیرے والد نے عرض کیا اے میرے پروردگار میں نے اس طرح تیری بندگی نہیں کی جیسا کہ کرنے کا حق تھا میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دیں تاکہ میں آپ کے نبی کی سعیت میں لڑتا رہوں اور تیری رضا کے لئے دوبارہ قتل کیا جاؤں۔ ارشاد ہو گا اس کا توفیصلہ ہو چکا کہ آپ دنیا میں واپس نہیں لوٹیں گے۔

ترمذی شریف میں بروایت جابر رضی اللہ عنہ اس طرح مذکور ہے کہ جب احد میں عبد اللہ بن عمرو بن حزام کو شہید کیا گیا تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اے جابر کیا میں آپ کو اس کی خبر دوں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تیرے والد سے کہا۔ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں فرمایا کہ اللہ

تعالیٰ نے ہر آدمی کے ساتھ پردے کے پیچھے سے کلام فرمایا اور تیرے والد کے ساتھ آمنے سامنے کلام فرمایا اور ارشاد فرمایا اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ تیرے والد نے عرض کیا اے میرے پروردگار مجھے زندہ فرماتا کہ میں دوبارہ تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں۔ ارشاد ہوا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے وہاں واپسی نہیں ہوگی۔ اس نے عرض کیا اے میرے پروردگار میں بعد والوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی۔

والا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا۔ اور تو نہ سمجھ ان لوگوں کو جو مارے گئے اللہ
(سورۃ ال عمران ۱۶۹) کی راہ میں مردے

ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا سب سے کم درجے والا جنتی وہ شخص ہو گا جو دو ہزار سال اپنی ملک میں نظر دوڑائے گا اس کے دور کو ایسے ہی دیکھے گا جیسا کہ قریب کو دیکھے گا چنانچہ وہ اپنی بیویوں اور مسریوں اور خدام کو دیکھے گا اور ان میں سب سے افضل درجے والا وہ شخص ہو گا جو ہر دن دو مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کا دن سب سے پہلا دن ہو گا جس میں آنکھیں اللہ تعالیٰ کے روئے انور کا دیدار کریں گی۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا فرمایا کیا میں تم کو سب سے نیچے درجے کا جنتی نہ بتاؤں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں (ضرور بتائیں) عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے پوری حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

جب اہل جنت کی نعمتیں اپنی انتہا کو پہنچیں گی تو وہ گمان کریں گے کہ اب اس سے بڑھ کر کوئی انعامات نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان پر تجلی فرمائیں گے اور یہ اسکے روئے (انور) کا دیدار کریں گے ارشاد ہو گا اے جنتیوں میری ایسی تسبیح و تہلیل اور بڑائی بیان کرو جیسا کہ تم دنیا میں کرتے تھے۔ چنانچہ اہل جنت رخصن کا تہلیل سے جواب دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمائیں گے اے داؤد اٹھ اور میری بزرگی بیان کر چنانچہ داؤد علیہ السلام انھیں

گے اور اپنے رب عزوجل کی بزرگی بیان کریں گے۔

سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت دن لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے اللہ کے نبی بیشک اللہ نے آپ کے ذریعہ افتتاح فرمائی اور آپ پر نبوت ختم فرمائی اور آپ کی بخشش فرمائی ہے آپ انھیں اور اپنے رب کے ہاں ہماری شفاعت فرمائیں۔ آپ جواب دیں گے جی ہاں میں تمہارا ساتھی ہوں۔ چنانچہ آپ لوگوں کو لیکر جنت کے دروازے پر پہنچیں گے اور دروازے کا کواڑ پکڑ کر کھٹکھٹائیں گے۔ پوچھا جائے گا کون؟ کہا جائے گا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) چنانچہ آپ کے لئے دروازہ کھول دیا جائے گا اور آپ کو لا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا آپ سجدے کی اجازت چاہیں گے تو آپ کو اجازت دی جائے گی۔

عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دجال کے متعلق خبر نہیں دی ہے یہاں تک کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں اس کے متعلق سمجھ نہ آئے مسیح دجال ٹھکنے قد کا پھڈا مڑے ہوئے بالوں والا اور کانا ہے اس کی آنکھ مٹی ہوئی ہے نہ ابھری ہوئی اور نہ اندر کو دھنسی ہوئی ہے اگر پھر تم کو شک پڑ جائے تو یاد رکھو تمہارا رب کانا نہیں ہے۔

عباد بن منصور فرماتے ہیں کہ میں نے عدی بن ارطاة کو مدائن میں خطبہ دیتے سنا چنانچہ وعظ فرماتے فرماتے خود رونے لگے اور ہمیں بھی رلایا پھر فرمایا کہ ایسے شخص کی طرح بنو جو اپنے بیٹے کو اس پیارے انداز میں نصیحت کر رہا ہو۔ اے پیارے بیٹے میں آپ کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ آپ موت تک ہر نماز کو، آخری نماز سمجھ کر پڑھیں اور اے بیٹے ہمیں اس طرح عمل کرنا چاہئے جیسا کہ دو آدمیوں کو جہنم کے اوپر کھڑا کر کے پھران سے نماز پڑھنے کے لئے رومال مانگا جائے اور فرمایا میں نے فلاں سے سنا (عباد اس کا نام بھول گئے ہیں) فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حال میں یہ ارشاد سنا کہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی حائل نہیں تھا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے فرشتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے ان کے کندھوں کے درمیان کا گوشت پھڑپھڑانے لگتا ہے ان میں سے جس فرشتے کا بھی آنسو گرتا ہے تو وہ تسبیح

پڑھتا ہوا فرشتہ بن جاتا ہے اور بعض فرشتے ایسے ہیں کہ زمین اور آسمان کی پیدائش سے لیکر اب تک سجدے میں ہیں اور قیامت تک سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے اور ایسی صفوں میں کھڑے ہیں کہ قیامت تک اس سے نہیں پھریں گے۔ جب قیامت کا دن ہو گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجلی فرمادیں گے تو یہ فرشتے اس کی طرف دیکھ کر کہیں گے تیری ذات پاک ہے ہم نے تیری ایسی عبادت نہیں کی جس طرح کرنا مناسب تھا۔

رویت باری تعالیٰ کے بارے میں صحابہ کرام تابعین اور ائمہ

اسلام رضی اللہ عنہم کے اقوال

(۱) ناصر بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی۔ للذین احسنوا الحسنی و زیادة "لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ زیادہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے روئے (انور) کا دیدار۔

(۲) عمارہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ فرمایا کہ جنت کی نعمتیں جنت میں داخل ہونے اور اس کی جنت میں اس کے روئے انور کا دیدار سے پوری ہوں گی۔

(۳) حذیفۃ الیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں "زیادہ" سے مراد اللہ تعالیٰ کے روئے انور کا دیدار ہے۔

(۴) عبداللہ ابن حکیم فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ کی اس مسجد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا فرمایا خدا کی قسم تم میں سے کوئی ایسا انسان نہیں مگر یہ کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے روئے انور کا اس طرح دیدار کریگا جس طرح کہ چودہویں رات کا چاند دیکھتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت تین مرتبہ ارشاد فرمائیں گے اے آدم کے بیٹے تجھ کو میرے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور تین مرتبہ ارشاد فرمائیں گے کہ تو نے پیغمبروں کی کیسی بات مانی تھی اور جو کچھ آپ جانتے تھے اس پر کتنا عمل

کیا۔

(۵) عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ جو شخص 'بھی جنت میں داخل ہو گا وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا؟

فرمایا جی ہاں

(۶) ابو حمزہ فرماتے ہیں کہ میں ابو وائل کے پاس بیٹھا تھا ایک شخص داخل ہوا جس کو ابو عقیف کہا جاتا تھا شفیق بن سلمہ نے اسے کہا اے ابو عقیف کیا آپ معاذ بن جبل کی کوئی حدیث ہمیں نہیں سنائیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں میں نے ان کو فرماتے سنا کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا۔ پھر آواز دی جائے گی کہاں ہیں متقی لوگ چنانچہ متقی لوگ ایک کونے میں کھڑے ہو جائیں گے رحمان کے قریب وہ ان سے پردے میں نہیں ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ متقی لوگوں سے کون مراد ہیں فرمایا وہ لوگ جو شرک اور بت پرستی سے بچے اور خالص اللہ کی بندگی کی چنانچہ جنت کی طرف چلے جائیں گے۔

(۷) ابو نصر فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تم ہرگز اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ یہاں تک کہ موت کو چکھ لو۔

(۸) عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سب سے ادنیٰ درجے کا جنتی وہ شخص ہو گا جو دو ہزار سال اپنے ملک میں نظر دوڑائے گا اور اس کے قریب کو ایسا ہی دیکھے گا جیسا کہ دور کو دیکھتا ہے اور ان میں سب سے افضل درجے والا جنتی وہ ہو گا جو ہر دن دو مرتبہ اللہ تعالیٰ کے روئے انور کا دیدار کریگا۔

(۹) فضالہ بن عبید یوں دعا مانگا کرتے تھے (اللہم انی اسئلك الرضا بعد القضاء وبرد العیش بعد الموت کذات النظر الی وجہک) ترجمہ پہلے گزر چکا ہے۔

(۱۰) ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ لوگوں سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ لوگوں کی آنکھیں پھر گئیں فرمایا کس چیز نے تمہاری آنکھوں کو مجھ سے پھیر لیا؟ لوگوں نے عرض کیا چاند نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے روئے انور کا

دیدار کرو گے۔

(۱۱) انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد (ولدینا مزید) سورۃ ق آیت نمبر ۳۵ (اور ہمارے پاس ہیں کچھ زیادہ بھی) کی تفسیر میں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ظاہر ہوں گے۔

(۱۲) جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کے پاس یا قوت کے گھوڑے لائے جائیں گے جو نہ پیشاب کریں گے نہ لید کریں گے ان کے پر لگے ہوں گے یہ ان پر بیٹھ کر جب رب جل جلالہ کے پاس آئیں گے جب ان کے سامنے تجلی فرمائیں گے تو یہ سجدے میں گر پڑیں گے ارشاد ہو گا اے جنتیو! اپنے سراٹھالو میں تم سے راضی ہو چکا ہوں اس کے بعد کوئی ناراضگی نہیں ہوگی!

طبرانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روایت کے باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیس صحابہ کرام نے حدیثیں نقل کی ہیں اور ان میں سے بعض کی فہرست پیچھے گزر چکی ہے۔

بیہقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روایت کے اثبات میں ہم نے ابو بکر صدیق حذیفہ یمان عبد اللہ بن مسعود عبد اللہ ابن عباس ابو موسیٰ رضی اللہ عنہم کی احادیث نقل کی ہیں ان میں سے کسی ایک سے بھی نفی مروی نہیں اگرچہ وہ اس میں مختلف ہیں جیسا کہ ہم تک نقل کرنے میں اختلاف موجود ہے جیسا کہ انہوں نے آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں دیکھنے میں اختلاف کیا تو ان کا اختلاف ہم تک نقل کیا گیا ہے۔

لیکن جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ان سے منقول ہے اور اس کے بارے میں ان میں سے کسی کا کوئی اختلاف منقول نہیں تو ہم نے جان لیا کہ وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار پر سب کے سب متفق اور مجتمع تھے۔

اس بارے میں تابعین ائمہ فقہ تفسیر حدیث کے اتنے اقوال موجود ہیں جن کا احاطہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔

سعید بن مسعود حسن ابو حاتم عبدالرحمن ابن ابی لیلیٰ وغیرہ سب حضرات فرماتے ہیں

(وللذین احسنوا الحسنی و زیادة) میں زیادت مراد اللہ تعالیٰ کے روئے انور کا دیدار ہے۔
 عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے بعض گورنروں کو لکھ کر بھیجا (ما بعد) میں تم کو اللہ
 تعالیٰ سے ڈرنے اور اس کی اطاعت کی وصیت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے اس دینی معاہدے کے
 پورا کرنے کی وصیت کرتا ہوں جس کا بوجھ اللہ تعالیٰ نے تم پر ڈالا ہے اور اپنی کتاب کی حفاظت
 تمہارے سپرد کی ہے۔ اس لئے کہ اس کے تقویٰ ہی کے ذریعہ اس کے دوست اس کی ناراضگی
 سے نجات پاتے ہیں اور اس کے تقویٰ کے ذریعے ان کو انبیاء رضی اللہ عنہم کی رفاقت نصیب ہوئی اور
 ان کے چہرے تروتازہ ہوئے اور اپنے خالق کا دیدار کیا اور تقویٰ دنیا میں فتنوں سے بچاؤ اور
 قیامت کے دن عزت کا سبب ہے۔

حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عابدوں کو دنیا میں اس بات کا پتہ چل جائے کہ وہ آخرت
 میں اپنے رب کا دیدار نہیں کریں گے تو دنیا میں انکی جانیں پگھل جائیں۔

اعمش اور سعید بن جبہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سب سے زیادہ خوش نصیب جنتی وہ ہو گا
 جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے روئے انور کا دیدار کریگا کعب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب
 بھی جنت کی طرف دیکھا تو اسے کہا اپنے اہل کے لئے عمدہ بن جا چنانچہ جنت پہلی حالت سے دگنا
 عمدہ بن جاتی ہے اور اس طرح ہوتی رہے گی یہاں تک کہ جنتی اس میں داخل ہو جائیں اور دنیا
 میں جس دن ان کی عید ہوا کرتی تھی۔ اس کی مقدار میں جنت کے باغیچوں میں نکلیں گے اللہ
 تعالیٰ ان کے سامنے ظاہر ہوں گے اور یہ اس کا دیدار کریں گے پھر ان پر مشک کی ہوا چلے گی اور یہ
 لوٹنے تک جو چیز بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے اور پہلے کی نسبت ستر گنا
 ان کا حسن و جمال بڑھ جائے گا پھر یہ اپنی بیویوں کی طرف لوٹیں گے تو ان کا حسن بھی ان کی
 طرح بڑھ چکا ہو گا ہشام بن حسان فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل جنت کے سامنے تجلی فرمائیں
 گے تو جب اہل جنت اس کو دیکھیں گے تو جنت کی تمام نعمتیں بھول جائیں گے۔

طاؤس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس بارے میں جھگڑوں اور قیاس والوں سے ہمیشہ جھگڑا اور
 قیاس بازی رہی۔ حتیٰ کہ انہوں نے رویت باری تعالیٰ کا انکار کر کے اہل سنت کی مخالفت کی۔

اسحاق اور رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ زیادت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے روئے انور

کا دیدار ہے۔

عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ ابو یلیٰ نے یہ آیت تلاوت کی (اللذین احسنوا الحسنیٰ و زیادہ) اور فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے جو کچھ چاہیں گے وہ مانگیں گے وہ دیا جائے گا پھر اللہ عزوجل ان سے ارشاد فرمائیں گے کہ تمہارے حق میں سے ایک چیز باقی ہے جو تمہیں نہیں ملی اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لئے تجلی فرمائیں گے اس وقت ان کے ہاں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی جو ان کو دی گئیں تھیں اور فرمایا کہ (الحسنى) سے مراد جنت اور زیادت سے اللہ کا دیدار ہے۔

ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلتہ۔ (سورہ یونس اور نہ چڑھے گی ان کے منہ پر سیاہی اور نہ
آیت ۲۶) رسوائی

یعنی اس کے دیدار کے بعد

علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے متعلق پوچھا۔

فن کان یرجوا لقاء ربہ فلیعمل عملاً صالحاً۔ سو پھر جس کو امید ہو ملنے کی اپنے رب سے
سورہ کھف ۱۱۰ سو وہ کرے کچھ کام نیک۔

عبداللہ بن مبارک نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے خالق کا دیدار کرنا چاہے اس کو چاہئے کہ نیک عمل کرے۔

نعیم بن حماد فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار سے محروم رکھا اس کو عذاب دیا گیا اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی۔

(کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ کوئی نہیں وہ اپنے رب سے اس دن روک
ثم انہم لصالوا الححیم ثم یقال ہذا ویئے جائیں گے پھر مقرر وہ کرنے والے ہیں
الذی کنتم بہ تکذبون۔ (سورہ دوزخ میں پھر کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کو
طففین ۱۷) تم جھوٹ جانتے تھے۔

یعنی اس کے دیدار کو

عباد بن العوام فرماتے ہیں کہ شریک بن عبداللہ رضی اللہ عنہ پچاس سال سے ہمارے ہاں تشریف لاتے تھے ایک مرتبہ میں نے اس سے عرض کیا اے ابو عبداللہ ہمارے ہاں یہ معتزلہ قوم اس قسم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں "ان اللہ منزل الی السماء الدنیا" (بیشک اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں) "ان اهل الجنة یرون ربہم" (بیشک اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں گے) چنانچہ انہوں نے یہ سن کر اس بارے میں مجھے دس حدیثیں سنا دیں اور پھر فرمایا کہ ہم نے تو اپنے اس دین کو تابعین سے سیکھا اور انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ان معتزلہ نے اپنا دین کس سے لیا ہے؟

عقبہ بن قبیصہ فرماتے ہیں ایک دن ہم ابو نعیم کے پاس آئے تو وہ اپنے گھر کی بالائی منزل سے ہمارے لئے نیچے اتر کر مجلس کے درمیان میں بیٹھ گئے اور غضب ناک معلوم ہو رہے تھے۔ فرمانے لگے کہ ہم سے سفیان بن سعید اور منذر ثوری اور زہیر بن معاویہ نے بیان کیا اور اس طرح ہم سے حسن بن صالح بن حی نے بیان کیا اور ہم سے شریک بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور مہاجرین کی ان سب اولاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو گا۔ یہاں تک کہ یہودیوں کے بیٹے صباغ نے آکر دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو گا۔ پھر امام دارالہجرتہ مالک بن انس کا قول ذکر کیا انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اشمہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ اس ارشاد کے بارے میں پوچھا گیا۔

وجہ یومئذ ناظرۃ الی رہا ناظرۃ (سورۃ) کتنے منہ اس دن تازہ ہیں اپنے رب کی طرف
القیامتہ ۲۳) دیکھنے والے۔

کہ کیا ہم اس کو دیکھ سکیں گے؟ فرمایا ہاں میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بجائے اس کے پاس جو کچھ ہے اس کا دیدار ہو گا۔ فرمایا نہیں بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کا دیدار کریں گے اور یقیناً حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

رب ارنی انظر الیک (سورة الاعراف ۱۴۳) اے میرے رب تو مجھ کو دکھا کہ میں تجھ کو
دیکھوں

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

کلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. (سورة) کوئی نہیں وہ اپنے رب سے اس دن روک
دئے جائیں گے۔ (سورة ۱۵)

طبری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات نے ذکر کیا ہے کہ امام مالک سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ
کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو گا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تلوار تلوار (یعنی تلواران کا
علاج ہے) اور پھر ابن ماجہ بشوں کا قول ذکر کیا۔ لیٹ کے کاتب ابو صالح فرماتے ہیں کہ انہوں
نے مجھ سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ ماجہ بشوں کی طرف لکھوا کر پوچھا کہ جمہور نے کس کا
انکار کیا؟ انہوں نے فرمایا شیطان ہمیشہ ان کو اور غلاتا رہا حتیٰ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد
کا انکار کیا۔ (وجوه يومئذ ناظرة الی ربہا ناظرة) اور دعویٰ کیا کہ قیامت کے دن کوئی شخص اس
کا دیدار نہیں کر سکے گا۔ حالانکہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے لئے اپنے دیدار سے
بڑھ کر کوئی چیز افضل نہیں بنائی اور فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم مخلصین
قیامت کے دن ضرور اس کا دیدار کریں گے مجرمین کے علاوہ اور اس کے ذریعہ ضرور منکرین
پر حجت قائم فرمائیں گے۔ اور منکرین اس دن اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم کئے جائیں گے۔
ان کے عقیدے کے مطابق نہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات
کریں گے اور نہ نظر کرم فرمائیں گے اور ان کے لئے دردناک عذاب مقرر ہے اور بروایت
ابن ابی حاتم اوزاعی کا قول ذکر کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جمہور بن
صفوان اور ان کے پیروکاروں کو اپنے دیدار سے محروم رکھیں گے جو اللہ کی طرف سے بہترین
بدلہ ہے جس کا اس نے اپنے دوستوں سے وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا (وجوه يومئذ ناظرة الی
ربہا ناظرة)

ولید بن مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے امام اوزاعی سفیان ثوری اور مالک بن انس سے
ان احادیث کے متعلق سوال کیا جن میں رویت کا ذکر ہے۔

سب نے فرمایا کہ بلا کیفیت کے اس پر گزرو۔ (یعنی مان لو) طبری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ذکر کیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے کلام (یعنی قرآن) اور جنت میں اس کے دیدار کو نہ مانے وہ جہمی ہے۔ ابو حاتم نے جریر بن عبد الحمید کے بارے میں نقل کیا کہ انہوں نے ”زیادۃ“ کی تفسیر میں ابن سابط رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث بیان کی، جس میں روایت کا ذکر ہے یہ سن کر ایک آدمی نے چیخ کر اس پر سخت نکیر کی اور اس کو مجلس سے نکال دیا۔

عبدالرحمن ابن ابو حاتم فرماتے ہیں ایک جہمی نے عبداللہ بن مبارک سے کہا اے ابو عبدالرحمن ”خدارا بان جہان چون بہہند“ اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن کس چیز سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گا؟ فرمایا آنکھوں سے۔

و کہ ع بن جراح فرماتے ہیں کہ جنت میں مومنین اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور فرمایا کہ صرف مومن ہی اس کا دیدار کریں گے۔ قتیبہ بن سعید فرماتے ہیں کہ روایت کی احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں کی تصدیق اور روایت پر ایمان کے متعلق اسلام میں ائمہ کرام کا قول معتبر ہے اور اس کو قبول کیا گیا ہے۔

ابو عبید قاسم بن سلام کے سامنے روایت کی احادیث ذکر کی گئی تو فرمایا ہمارے ہاں یہ حق ہیں ثقات نے اس کو روایت کیا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی شخص ہم سے اس کی تفسیر بیان کرنے کو کہے تو ہم جواب دیں گے کہ ہم ان میں سے کسی کی بھی تفسیر نہیں کرتے بلکہ یہ جس طرح منقول ہیں ہم اس کو اسی طرح مانتے ہیں۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اسکور بن سالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں احادیث روایت پر طلاق اور ہمیشہ پیادہ چلنے کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ حق ہیں اور اس بارے میں بروایت ربیع امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول گزر چکا ہے کہ انہوں (کلائم عن ربہم یومئذ لمحجوبون) کے متعلق فرمایا کہ جب ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے پردے میں رہیں گے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دوست اس کی رضامندی کی وجہ سے اس کا دیدار کریں گے۔ ربیع فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے ابو عبداللہ آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ فرمایا ہاں اگر محمد بن ادریس کو اس کے دیدار کا یقین نہ ہوتا تو وہ اللہ کی عبادت نہ کرتے۔

اسحاق بن منصور فرماتے ہیں کہ میں نے امام السننہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہما سے پوچھا کیا اہل جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کریں گے؟ کیا اس کے متعلق احادیث کو آپ نہیں مانتے؟ امام احمد رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ احادیث صحیح ہیں ابن منصور فرماتے ہیں کہ اسحاق بن راہویہ نے فرمایا روایت کی احادیث صحیح ہیں صرف بدعتی اور ضعیف الرائے آدمی ہی ان کو چھوڑ سکتا ہے۔ فضل بن زیاد فرماتے ہیں کہ ابو عبد اللہ سے پوچھا گیا آپ روایت کو مانتے ہیں؟ فرمایا جو روایت کو نہ مانے وہ جہمی ہے۔ فرمایا کہ ابو عبد اللہ کو کسی شخص کے متعلق بتایا گیا کہ وہ کہتا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا۔ چنانچہ سخت غصے ہوئے اور پھر فرمایا جو شخص یہ کہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا وہ یقیناً کافر ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار اور لعنت ہو کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔

وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة (سورة) کتنے منہ اس دن تازہ ہیں اپنے رب کی طرف
القیامتہ ۲۳) دیکھنے والے۔

اور یہ نہیں فرمایا (کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون) ابو داؤد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رضی اللہ عنہ کے سامنے روایت کے متعلق کسی شخص کا تذکرہ کیا گیا سخت غصہ ہو کر فرمایا جو روایت کو نہ مانے وہ کافر ہے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو رسوا کرے۔

ابو بکر مروزی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبد اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یزید بن ہارون نے ابی العطوف سے اور انہوں نے ابو الزبیر سے اور اس نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو جواب میں فرمایا اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو آپ مجھے دیکھ لیں گے اور اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر نہ سکا تو آپ نہ مجھے دنیا میں دیکھ سکتے ہیں اور نہ آخرت میں۔ یہ سن کر حضرت عبد اللہ اتنے غصے ہوئے کہ چہرہ بدل گیا وہ بیٹھے تھے اور لوگ اس کے گردا گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس نے اپنا جوتا لیکر پہنا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس (قول کے قائل) کو رسوا کرے۔ اور اس بات کا لکھنا مناسب نہیں ہے۔ اور اس بات کو روکا کہ یزید بن ہارون نے اس طرح کوئی حدیث بیان کی ہو اور یا کوئی روایت نقل کی ہو اور فرمایا یہ کافر اور جہمی ہے اللہ عزوجل کا فرمان ہے (وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة) (کلا انہم عن

ربہم یوسئذ لمحجوبون) اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس خبیث کو رسوا کرے۔ ابو عبد اللہ نے کہا کہ جس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ آخرت میں اللہ کا دیدار نہیں ہو گا تو وہ یقیناً کافر ہے۔ فرمایا کہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے۔

هل ينظرون الا ان ياتهم الله في ظلال
من الغمام والملائكته (سورة البقرة ۲۰۱)

کیا وہ اس کی راہ دیکھتے ہیں کہ آوے ان پر
اللہ ابر کے سائبانوں میں اور فرشتے

وجاء ربك والملك صفا صفا سورة الفجر ۲۲) اور آوے تیرا رب اور فرشتے آئیں قطار
قطار

فرمایا کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو گا تو وہ کافر ہے جہمی ہے اور جہمی کافر ہے اور جس شخص نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل نہیں بنایا تو وہ کافر ہوا اور اس نے اللہ کے قول کو مسترد کیا اور فرمایا ان احادیث پر ہمارا ایمان ہے اور ہم ان کو ایسا ہی برقرار رکھتے ہیں جیسے وارد ہوئیں ہیں۔

امام احمد بن حنبل علیہ السلام نے فرمایا جس نے روایت کی تکذیب کی وہ زندیق ہے ابو عبد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لوگوں کو اسی پر پایا ہے کہ انہوں نے ان احادیث میں کسی کا انکار نہیں کیا اور نہ اس میں شک کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من
وراء حجاب او يرسل رسولا. (سورة الشورى)

اور کسی آدمی کی طاقت نہیں کہ اس سے
باتیں کرے اللہ مگر اشارہ سے یا پردہ کے پیچھے
سے یا بھیجے کوئی پیغام لانے والا

موسیٰ علیہ السلام پر دے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو دعا کی

رب أرني انظر اليك قال لن تراني
ولكن انظر الي الجبل فان استقر مكانه
فسوف تراني. (سورة الاعراف)

اے میرے رب تو مجھ کو دکھا کہ میں تجھ کو
دیکھوں فرمایا تو مجھ کو ہرگز نہ دیکھے گا لیکن تو
دیکھتا رہ پہاڑ کی طرف اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا
تو مجھ کو دیکھ لے گا۔

اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آخرت میں اس کا دیدار کریں گے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے (کلائم عن ربہم یومئذ لمحجوبون) میں بتلا دیا کہ یہ حجاب دیکھنے سے ہو گا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے دیدار کرائیں گے اور کفار اس کے دیدار سے محروم ہوں گے اور فرمایا کہ جس شخص نے رویت کی تکذیب کی وہ یقیناً کافر بنا اور قرآن کی تکذیب کی اور اللہ کے حکم کو مسترد کیا چنانچہ اس سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا اگر توبہ کرے تو ٹھیک ہے ورنہ قتل کیا جائے گا۔

خراسان کے امیر عبداللہ بن طاہر نے اسحاق بن راہویہ سے پوچھا اے ابو یعقوب رویت باری تعالیٰ اور نزول کے متعلق جو احادیث ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا کہ ان احادیث کو ان ہی لوگوں نے روایت کیا جنہوں نے آپ ﷺ سے وضو غسل اور نماز اور دیگر احکام کی احادیث نقل کیں اور مزید چیزوں کو ذکر کر کے فرمایا اگر صحابہ کرام ان چیزوں کے نقل کرنے میں عادل ہیں تو رویت اور نزول کے متعلق احادیث میں بھی وہ عادل ہی ہوں گے ورنہ پھر سارے احکام اٹھ جائیں گے اور شریعت باطل ہو جائے گی یہ سن کر امیر نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی شفا دے جیسے تو نے مجھے شفا دے دی۔

ابوالعباس احمد بن یحییٰ ثعلبی اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے متعلق فرماتے ہیں۔
 دکان بالمومنین رحیماً تحیتہم یوم اور ہے ایمان والوں پر مہربان دعاء ان کی یلقونہ سلام (سورۃ الاحزاب ۴۴-۴۳) جس دن اس سے ملیں گے سلام ہے۔
 کہ تمام اہل لغت کا اس پر اتفاق ہے لقاء سے مراد یہاں آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ لقاء نص قرآن سے ثابت ہے جیسا کہ گزر چکا اور اس بارے میں سب احادیث صحیح ہیں جیسا کہ قصہ بمرسعونہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔

انا قد لقمنا ربنا فرضی عنا وارضانا ہم اپنے رب سے ملیں وہ ہم سے راضی ہوئے اور اس نے ہمیں راضی کیا

حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما

جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات پسند کرتے ہیں۔

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ
اللَّهُ لِقَاءَهُ

حدیث انس رضی اللہ عنہ

(بیشک میرے بعد تم کو اس کا اثر پہنچے گا صبر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول سے ملو۔

انکم متلاقون بعدی اثرہ فاصبروا حتی تلاقوا اللہ
ورسولہ

حدیث ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

بندے اگر تو مجھ سے اس حال میں ملے کہ تیری خطائیں زمین کے برابر ہوں لیکن تو اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو میں تجھ سے ملوں گا زمین کے برابر بخشش کے ساتھ

لو لقیتمنی بقرب الارض خطایا ثم لقیتمنی لا
تشرک لی شیاء لقیتم تک بقرا بما مغفرة.

حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ

جو اللہ کے ساتھ اس حال میں ملے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔

من لقی اللہ لا یشرک بہ شیاء دخل الجنة

اس کے علاوہ اور بھی تعاء کی احادیث ہیں جو ایک ہی لفظ سے مروی ہیں۔

فصل

دیدار کے منکر کے لئے وعید میں

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

كلام انهم عن ربهم يومئذ يؤمنون
کوئی نہیں وہ اپنے رب سے اس دن روک
دیئے جائیں گے۔

عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار سے محروم رکھا تو
اس کو عذاب دیا اور پھر یہ تلاوت فرمائی۔

تم انہم لہصالوا الجحیم ثم یقال ہذا پھر مقرر وہ کرنے والے ہیں دوزخ میں پھر
الذی کنتم بہ تکذبون۔ (سورہ کما جائے گا یہ وہی ہے جس کو تم جھوٹ
المطفین ۱۶-۱۷) جانتے تھے۔

مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم قیامت کے دن اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ فرمایا کیا تم
بوقت دوپہر سورج کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو جبکہ آسمان میں بادل نہ ہو۔
عرض کیا نہیں فرمایا کیا تم چودھویں کا چاند دیکھنے میں تکلیف محسوس کرتے ہو جبکہ آسمان پر
بادل نہ ہو۔ عرض کیا نہیں فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان
ہے تم کو اپنے رب کے دیدار میں اتنی بھی مشقت اٹھانی نہیں پڑے گی جتنی کہ سورج اور چاند
کے دیکھنے میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے ملاقات کریں گے اور ارشاد فرمائیں گے۔ اے
(بندے) تجھے عورت نہ دی تھی۔ اونٹ اور گھوڑے نہیں دیئے تھے؟ اور کیا تجھے آزادی
نہیں دی تھی؟ بندہ عرض کرے گا اے رب کیوں نہیں۔ ارشاد ہو گا کیا تجھے میری ملاقات کا
یقین تھا۔ عرض کرے گا نہیں۔ ارشاد ہو گا میں تجھے ایسا بھلا دوں گا جیسا کہ تو نے مجھے بھلا دیا

تھا پھر اللہ تعالیٰ دوسرے بندے سے ملاقات فرما کر یہی سوالات اس سے فرمائیں گے۔ تو وہ بھی ان چیزوں کا اقرار کریگا۔ پھر اللہ ان سے سوال فرمائیں گے کہ کیا تجھے میری ملاقات کا یقین تھا وہ عرض کریگا نہیں۔ ارشاد ہو گا میں تجھے ایسا بھلا دوں گا جیسا کہ تو مجھے بھولا تھا فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت تیسرے شخص سے ملاقات فرما کر یہی سوالات اس سے فرمائیں گے، وہ عرض کریگا۔ اے رب میں آپ کی کتابوں اور رسولوں پر ایمان لایا پڑھتا رہا اور روزہ رکھتا رہا اور صدقہ کرتا رہا اور اپنی طاقت و قوت کے مطابق آپ کی تعریف کرتا رہا۔ ارشاد ہو گا کہ اب یہاں بھی (جھوٹ بولتا ہے) پھر اسے کہا جائے گا کہ اب ہم تیرے خلاف گواہ پیش کرتے ہیں چنانچہ وہ دل میں سوچے گا کہ ایسا کون شخص ہے جو میرے خلاف گواہی دے گا سو اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ہڈیاں اس کے اعمال بتانے لگیں گیں اور یہ اپنی جانب سے عذر پیش کرتا رہے گا۔ فرمایا کہ یہ شخص وہ منافق اور وہ شخص ہو گا جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ نبی ﷺ کے ارشاد (فانکم سترون ربکم) اور اس شخص کے لئے جسے ملاقات کا یقین نہیں تھا اللہ کا یہ فرمانا کہ (میں تجھے بھلا دوں گا جیسے کہ تو نے مجھے بھلا دیا تھا) کو ملا لیں (تو اللہ کا دیدار ثابت ہوتا ہے)

اہل لغت کا اس بات پر اجماع سے کہ لقاء کا معنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ لہذا آپ کو معلوم ہو گا کہ رویت کا منکر اس وعید کا سب سے زیادہ حقدار ہے اور احادیث پر محدثین کے اس قسم کے تراجم (باب فی الوعید لمنکر الرویت) باندھنے سے جیسا کہ شیخ الاسلام نے کیا ہے، یہی بات معلوم ہوتی ہے فصل قرآن اور سنت متواتر صحابہ اور ائمہ اسلام کا اجماع اس پر دلالت کرتا ہے کہ قیامت کے دن آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا ایسا صاف دیدار ہو گا جیسا کہ چودھویں رات کا چاند دکھائی دیتا ہے جس وقت آسمان صاف ہو اور جیسا کہ دوپہر کے وقت سورج نظر آتا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے اس کی حقیقت بتادی تو اب ضروری ہے کہ یہ لوگ اوپر کی جانب سے اس کا دیدار کریں گے اس لئے کہ یہ محال ہے یہ لوگ اوپر نیچے یا دائیں اور بائیں جانب سے اس کا دیدار کر سکیں اور اس حقیقت سے صائبہ اور فلاسفہ مجوسیوں اور فرعونوں کے چوزوں نے انکار کر کے شریعت اور قرآن کو بدل ڈالا حالانکہ ہم تک ان احادیث کے پہنچانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن و شریعت اور دین کو ہم تک پہنچایا

ہے۔ چنانچہ یہ جائز نہیں کہ اس کے رسول کے کلام کو بوٹی بوٹی بنا کر بعض کو مانا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے لہذا کسی بندے کے دل میں ان احادیث اور ان کے معانی سے انکار اور محمد ﷺ کی ابدی رسالت کی گواہی جمع نہیں ہو سکتیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے حق کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی اگر اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی نہ فرماتے تو ہم حق تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ہمارے رب کے رسولوں نے ہم تک سچی بات پہنچا دی ہے۔

- (۱) منکرین کی پہلی قسم وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھائی دے سکتا ہے۔
 (۲) دوسری قسم وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بالکل دکھائی نہیں دے سکتے اور نہ اپنے بندوں سے ہم کلام ہوں گے جس کی خبر اس نے خود اور اسکے پیغمبر نے دی ہے۔ ان دونوں فرقوں کے جھوٹے ہونے پر صحابہ کرام کا جماع ہے۔



چھیا سٹھواں باب

اللہ تعالیٰ کا اہل جنت سے روبرو ہم کلامی اور اللہ کی طرف سے ان کو سلام کرنے کا بیان

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

ان الذین یشترؤن بعہد اللہ وایمانہم مننا
قلیلاً اولئک لا ینظر الیہم فی الآخرة ولا
یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ
ولا یزکیہم۔ (سورۃ آل عمران ۷۷)

جو لوگ مول لیتے ہیں اللہ کے قرار پر اور اپنی
قسموں پر تھوڑا سا مول ان کا کچھ حصہ نہیں
آخرت میں اور نہ بات کریگا ان سے اللہ اور
نہ نگاہ کریگا ان کی طرف قیامت کے دن اور
نہ پاک کریگا ان کو۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نازل ہونے والے واضح دلائل اور ہدایت کے چھپانے
والوں کے حق میں ارشاد فرمایا (کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کریں گے) اگر
اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے بھی بات نہ کرے پھر تو اس میں مومن اور اللہ کے دشمن برابر
ہو جائیں گے اور پھر اس میں دشمنوں کی کوئی تخصیص نہ رہے گی۔ ☆ اور نہ ان سے بات نہ
کرنے کا کوئی فائدہ سامنے آئے گا اس لئے کہ فرقہ فرعونیہ اور معطلہ کے ہاں اللہ تعالیٰ کا اپنے
بندوں سے بات کرنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا اور پلاتا ہے وغیرہ وہ باتیں جس سے اللہ
تعالیٰ بری ہیں اور اس بات کی بھی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ اہل جنت کو سلام کریں گے
اور یہ سلام حقیقتاً ہوگا ”سلام قولاً من رب الرحیم“ باب رویت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی
حدیث میں اس آیت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر گزر چکی ہے۔ یعنی وہ ان کے اوپر سے سر
اٹھا کر کہیں گے۔ ”سلام علیکم یا اهل الجنة“ اور جنتی اپنی آنکھوں سے اس کا دیدار کریں گے

چنانچہ اس میں اللہ تعالیٰ کے کلام فرمانے اور دیدار اور اس کی بلندی کا ثبات ہے۔ معطلان میں تین چیزوں کا انکار کر کے ان کے قائل کی تکفیر کرتے ہیں۔ حالانکہ جنت کے بازار کے بیان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گزر چکا ہے کہ اس مجلس میں کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہے گا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ رو برو بات نہ کرے چنانچہ کہے گا اے فلاں آپ کو وہ دن یاد ہے جس دن آپ نے فلاں فلاں کام کیا تھا۔ الخ

اور عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی گذر چکی ہے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات کریں گے اور باب رویت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کہیں گے کیا میں نے آپ کو عزت نہیں دی اور تجھے سردار نہیں بنایا تھا؟ اور حضرت بریدہ کی حدیث گزر چکی ہے جس میں ہے تم میں سے ہر آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ خلوت میں بات کریں گے ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان ہو گا اور نہ کوئی حجاب۔ اور یوم المزید کے متعلق حضرت انس کی حدیث اور اہل جنت سے کئی بار اللہ تعالیٰ کا خطاب اور اس طرح رویت کی تمام احادیث میں آپ غور فرمائیں گے تو ان سے اکثر میں آپ کو کلام کا ذکر ملے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں اس طرح باب باندھا ہے (باب کلام الرب تبارک و تعالیٰ مع اهل الجنة) اور پھر اس کے تحت چند احادیث ذکر کیں جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس سے ہمکلامی ہوگی لہذا اس سے انکار جنت کی خوشی اور اس کی سب سے بڑی نعمت کا انکار کرنا ہے۔



شریٹھواں باب

جنت ہمیشہ رہے گی کبھی ختم نہ ہوگی

اس بارے میں تو رسول اللہ ﷺ کئی احادیث میں خبر دے چکے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے

ہیں

و اما الذین سعدوا فی الجنة خالدین فیہا مادامت السموة و الارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجدوذ۔
اور جو لوگ نیک بخت ہیں سو جنت میں ہیں ہمیشہ رہیں اس میں جب تک رہے آسمان اور زمین مگر جو چاہے تیرا رب بخشش ہے بے انتہاء۔
(سورۃ ہود ۱۰۸)

یعنی یقینی طور پر یہ بات اس کے ارشاد "۴ لا ماشاء ربک" کے منافی ہیں۔ اس استثناء کے متعلق سلف رحمہم اللہ کا اختلاف ہے۔ چنانچہ معترضین سے نقل کرتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے جتنا کہ رہے آسمان اور زمین مگر وہ مدت جو انہوں نے جہنم میں گزاری۔ اس میں دو باتوں کا احتمال ہے۔

- (۱) ایک تو یہ کہ مخصوص نیک بخت لوگوں کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ یہ ہیں۔
- (۲) دوسرا احتمال یہ اس سے تمام سعداء مراد ہو اور مذکورہ لوگوں کی تخصیص پر استثناء دلالت کرتا ہے اور ان دونوں سے بہتر یہ ہے کہ آپ مشیت کو سب کی طرف پھیر دیں اس توجیہ پر آیت میں کوئی تخصیص باقی نہیں رہے گی۔

ایک جماعت کا کہنا ہے کہ استثنیٰ اللہ نے کیا ہے وہ اس طرح نہیں کرتے جیسا کہ آپ کہتے ہیں "خدا کی قسم میں تجھ کو ضرور ماروں گا مگر یہ میں اسکے علاوہ کو مناسب سمجھوں" حالانکہ آپ غیر کو مناسب نہیں سمجھتے اور اس کے مارنے کا یقینی ارادہ کر لیتے ہیں۔

دو سری جماعت کا کنا ہے کہ جب عرب کسی چیز کا کثرت سے استثناء کرتے ہیں تو اس وقت اس میں "لا" اور "واو" کے معنی "سواء" (یعنی علاوہ کے) آتے ہیں۔ اس توجیہ کے مطابق معنی یہ ہو گا کہ زمین اور آسمان کے دوام کے علاوہ جو زیادتی اللہ چاہیں یہ فراء اور سبب یہ کا قول ہے کہ انہوں نے "لا" کو "سیوئی" کے معنی میں کیا۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس کی نظیر یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کہیں۔ "لی علیک الف الالفین قبلہا" (یعنی مجھ پر آپ کے ایک ہزار روپے ہیں سواء اس سے پہلے والے دو ہزار کے) ابن جریر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور یہ مجھے بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کی مخالفت نہیں فرمائی اور اپنے قول "عطاء غیر مجزوز" سے استثناء کو متصل بنایا۔ فرمایا کہ اس کی نظیر یہ ہے جیسا کہ آپ کہیں "ما مکتک داری حول الا ماشاءت" (یعنی میں نے آپ کو ایک سال کے لئے اپنے گھر میں ٹھہرایا سواء اس زیادتی کے جو اس پر آپ چاہیں) تیسری جماعت کہتی ہے اس استثناء سے موت اور دوبارہ زندہ ہونے تک کی برزخی مدت سے لیکر جنت میں پہنچتے تک کا احتساب مراد ہے۔ یعنی اس کے بعد وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے سواء اس مقدار کے جو عالم بزرخ میں گزری۔

چوتھی جماعت کہتی ہے کہ اللہ کی طرف سے تو ان کے لئے دوام اور خلود کا فیصلہ ہو چکا ہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ اس کے خلاف چاہے گویا کہ ان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ لوگ ہمیشگی کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا ہے۔

ولئن مشئنا لنذهبنا بالذی اوحینا
الہک۔ (سورۃ الاسرار ۸۶)
اور اگر ہم چاہیں تو لیجائیں اس چیز کو جو ہم
نے تجھ کو وحی بھیجی۔

فان یشاء اللہ یختم علی قلبک (سورۃ
الثوریٰ ۲۴)

فرمایا

قل لو شاء اللہ ما لویۃ علیکم (سورۃ یونس ۱۶)
کہہ دے اگر اللہ چاہتا تو میں نہ پڑھتا اس کو
تمہارے سامنے

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بتا دیا کہ سارے کام اس کے ارادے اور مشیت سے ہوتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں ہو جاتا ہے اور جس کام کو وہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ پانچویں جماعت کہتی ہے کہ آسمان اور زمین کے دوام سے اس عالم کی مدت دوام کے بقدر رہیں گے ہاں وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر زیادتی فرمائیں۔ شاید یہ ان لوگوں کا قول ہو جنہوں نے "لا" کو "سیوٹی" کے معنی میں لیا۔ لیکن یہاں عبارت مختلف ہو فقہیہ علیہ السلام نے اس کو پسند کر کے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں اس عالم کی مدت کی مقدار میں رہیں گے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس عالم کی مدت پر خلود میں اضافہ فرمائے۔

چھٹی جماعت کہتی ہے کہ آیت میں "ماء" بمعنی "من" ہے جیسا کہ اس کے اس ارشاد میں ہے۔

فانكحوا ما طاب لكم من النساء (سورة) تو نکاح کر لو جو عورتیں تم کو خوش آویں
(النساء ۳)

معنی یہ ہو گا کہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے مگر وہ نیک لوگ جن کو اللہ تعالیٰ گناہوں کے سبب جہنم میں داخل کریں اس قول میں اور پہلے والے اقوال میں فرق یہ ہے کہ وہاں استثناء مدت سے تھا اور یہاں استثناء اعیان سے ہے۔

ساتویں جماعت کہتی ہے کہ یہاں آسمان اور زمین سے جنت کے آسمان اور زمین مراد ہے۔ اور وہ زمین اور آسمان ہمیشہ باقی رہیں گے۔ "لا ماشاء ربک" میں اگر "ماء" بمعنی "من" ہو تو اس سے وہ لوگ مراد ہوں گے جو جہنم میں داخل ہو کر پھر اس سے نکلیں گے۔ اور اگر بمعنی وقت کے ہو تو اس سے مراد برزخ اور میدان محشر میں ان کا احتباس ہو گا جعفری فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن وہیب سے اس استثناء کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے متعلق میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میدان محشر میں ان کے لئے ان لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک وقوف مقرر فرمائی ہے آٹھویں جماعت کا کہنا ہے کہ یہ استثناء ان کے دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کی طرف راجع ہے اور یہ سب اقوال متقارب ہیں اور ان کے درمیان تطبیق بھی ممکن ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق جنت میں ہمیشہ رہنے کے فیصلے

کی خبر دی ہے کہ یہ لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے مگر وہ وقت جس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت ان کے جنت میں نہ ہونے کی تھی جو کہ ان کے دنیا میں رہنے اور عالم بزرخ اور میدان محشر اور پل صراط پر گزرنے کا وقت ہے اور بعض کا جہنم میں رہنا ہے بہر تقدیر یہ آیت مشابہات میں سے ہے اور ”عطاء غیر مجذوز“ ”ان هذا الرزق مالہ من نفاذ“ اور ”کلھادائم وظلھما“ ”وما ہم منھا بہمخر جین“ وغیرہ آیتیں محکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اہل جنت کی ہمیشگی کو تاکید کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اور وہاں دوبارہ موت نہیں چکھیں گے مگر جو پہلے آچکی ہے بس یہ استثناء منقطع ہے اور جب آپ اس کو ”لاما شاء ربک“ کے استثناء کے ساتھ ملائیں گے تو دونوں آیتوں کی مراد آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ اور مدت خلود سے اس وقت کا استثناء جس میں یہ جنت میں موجود نہیں تھے ایسا ہے جیسا کہ جملہ موت سے پہلے موت کی استثناء ہے اس سے پہلے والی موت نے تو ان کو ابدی حیات دیدی اور اس جنت سے جدا رہنے نے تو ان کو اس میں ہمیشگی کی نعمت سے نوازا۔ نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد گزر چکا ہے کہ جو جنت میں داخل ہو گا تو ناز و نعمت میں رہے گا کبھی خستہ حال نہ ہو گا اور ہمیشہ رہے گا کبھی مرے گا نہیں اور اسی طرح آپ کا ارشاد ہے۔ ایک اعلان کرنے والا جنت میں اعلان کرے گا کہ تمہارے لئے یہ طے ہو چکا ہے کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے کبھی بیماری تم پر نہ آئے گی اور ہمیشہ نوجوان رہو گے کبھی بڑھا پا تم پر نہیں آئے گا اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی موت تم پر نہیں آوے گی۔

صحیحہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن موت کو سفید مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور پھر اس کو جنت اور دوزخ کے بیچ میں کھڑا کر دیا جائے گا پھر اعلان کیا جائے گا کہ اے جنتیوں یہ سن کر اہل جنت ڈر کے مارے جھانکنے لگیں گے پھر اعلان ہو گا اے جہنمیوں تو اہل جہنم خوش ہو کر اپنا سراٹھائیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہا جائے گا کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ کہیں گے ہاں ہم اس کو پہچانتے ہیں یہ موت ہے چنانچہ اس کو جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کیا جائے گا پھر اعلان ہو گا اے جنت والوں تم کو ہمیشہ رہنا ہے کبھی موت نہیں ہے اور اے دوزخ والوں تم کو ہمیشہ رہنا ہے کبھی موت نہیں ہے۔

اس مقام پر متاخرین نے اختلاف کر کے تین اقوال بیان کئے ہیں۔

(۱) جنت اور جہنم فانی ہیں ابدی نہیں بلکہ دونوں جیسے حادث ہیں ویسے ہی فانی بھی ہیں۔

(۲) دونوں ہمیشہ باقی رہیں گے کبھی فنا نہ ہوں گے۔

(۳) جنت ہمیشہ باقی رہے گی اور جہنم فنا ہوگی یہاں ہم ان تینوں اقوال اور ان کے مقابل

والوں کے اقوال اور ہر قول کے متدلالت ذکر کریں گے اور جو قول کتاب اللہ اور سنت رسول

کے خلاف ہو اس کی تردید کریں گے۔

چنانچہ جنت اور جہنم کے فناء کا قائل فرقہ معطلہ جمعہ کا امام صفوان بن جہم ہے

حالانکہ اس بارے میں اس کے پاس نہ کسی صحابی کا قول ہے اور نہ تابعین اور نہ ائمہ اسلام میں

سے کسی ایک کا اور نہ اہل سنت میں سے کوئی ایک اس کا قائل ہے ان کے اس قول کے وجہ

سے ائمہ اسلام نے جمعہ بن صفوان اور اس کے پیروں کار پر نکیر فرمائی اور ان کی تکفیر کی اور

زمین کے اطراف میں ان کے خلاف یہ آواز اٹھائی جیسا کہ امام احمد کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے

کتاب السننہ میں خارجہ بن مصعب سے نقل کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی کتاب کی تین

آیتوں سے جمعہ کی تکفیر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

اکلھاوا تم وظلمھا (سورۃ الرعد ۳۵) میوہ اس کا ہمیشہ ہے اور سایہ بھی

یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ نہیں ہوں گے ارشاد ہے۔

ان هذا الرزقنا له من نفاق (سورۃ ص ۵۴) یہ ہے روزی ہماری دی ہوئی اس کو نہیں

نہڑنا۔

یہ کہتے ہیں کہ وہ ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق (سورۃ النحل) جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا اور جو

اللہ کے پاس ہے کبھی ختم نہ ہوگا۔ (۹۶)

شیخ الاسلام (ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں کہ جمعہ بن صفوان کے اس قول کی وجہ

اس کا وہ اصول ہے جس کا اس نے عقیدہ رکھا جو کہ غیر متناہی حوادث کے وجود کا امتناع ہے

اور یہ اہل کلام کی وہ بنیاد ہے جس سے انہوں نے حوادث اجسام پر استدلال کیا ہے اور حدوٹ

عالم میں بھی انہوں نے اس کو دلیل بنایا۔ چنانچہ جہم نے یہ سمجھا کہ ممتنع حوادث کا ماضی میں رول نہ ہو تو وہ مستقبل میں ممتنع ہوں گے۔ چنانچہ اس کے ہاں فعل کا دوام مستقبل میں اللہ تعالیٰ پر مہبت مع ہے جیسا کہ اس کے ہاں ماضی میں اللہ تعالیٰ پر ممتنع تھا، معنزلہ کے شیخ ابو الہذیل علاف نے اس کے ساتھ اس دلیل میں موافقت کی۔ الخ

مقصد یہ ہے کہ جنت اور جہنم کی فنایت کا قول ایک ایسا گھڑا ہوا قول ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین اور ائمہ اسلام میں سے کوئی اس کا قائل نہیں اور جنہوں نے یہ قول کیا ہے تو انہوں نے یہاں اپنے قیاس فاسد کو استعمال کیا ہے جیسا کہ بہت سارے لوگوں پر ان کا یہ اصل مشتبہ رہا اور انہوں نے اس کو حق سمجھا اور اس پر قرآن کو مخلوق کہنے اور صفات کی نفی کرنے کی بنیاد رکھی۔ حالانکہ قرآن اور سنت اور عقل صریح اس پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات اور اس کے افعال غیر متناہی ہیں نہ دوسرے سے منقطع ہوتے ہیں اور پہلے میں محدود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. (سورة الكهف ۱۰۹)

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز الحكيم. (سورة لقمان ۲۷)

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور حکمت کے کلمات ختم نہ ہونے کی خبر دی ہے یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ذاتی اوصاف ہیں۔

ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں سلیمان بن عامر سے نقل کیا ہے کہ میں نے ربیع بن انس

ﷺ سے سنا فرمایا کہ تمام لوگوں کے علم کی مثال اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایسی ہے جیسا کہ تمام سمندروں میں سے پانی کا ایک قطرہ لیا جائے۔ فرمایا کہ مذکورہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں نازل فرمائی ہے اور دنیا کی تمام نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ایسی ہیں جیسا کہ تمام زمین کے درمیان رائی کا ایک دانہ پڑا ہو۔

جنم کے دائمی اور ابدی ہونے کے بارے میں شیخ الاسلام (ابن تہمیمہ) نے فرمایا کہ اس میں سلف اور خلف کے دو قول مشہور ہیں اور اس بارے میں تابعین کا نزاع بھی مشہور ہے میں کہتا ہوں اس میں سات اقوال ہیں

(۱) ایک یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے وہ ہمیشہ کے لئے کبھی اس سے نہیں نکلے گا بلکہ اس میں داخل ہونے والا ابد الابد تک اللہ کے حکم سے اس میں رہے گا۔ یہ قول معتزلہ اور خوارج کا ہے۔

(۲) دوسرا قول یہ ہے کہ جہنمیوں کو کچھ مدت تک اس میں عذاب دیا جائے گا۔ پھر جنم ان پر تبدیل ہو جائے گی اور ان لوگوں کی طبیعت ناری ہو جائے گی جس کی وجہ سے یہ اس سے لذت محسوس کریں گے یہ قول فرقہ اتحادیہ کے امام ابن عربی الطائی کا ہے اس نے اپنے عقائد میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کو سچا کر دکھانا قابل تعریف ہے نہ کہ وعید اللہ کی ذات بالذات تعریف کا تقاضا کرتی ہے چنانچہ صدق وعدہ کی تعریف کی جائے گی نہ کہ وعید پورا کرنے کی بلکہ وعید کا معاف کرنا قابل تعریف ہے۔

فلا تحسبن الله معذبا وعدة رسله (سورة) سو خیال مت کر کہ اللہ خلاف کرے گا اپنا
ابراہیم ۷۷) وعدہ اپنے رسول سے

وعید کے متعلق اس طرح ارشاد نہیں ہے بلکہ وعید کے متعلق فرمایا

ونتهجوا عن سينا حتم (احقاف ۱۶) اور معاف کرتے ہیں ہم برائیاں

حالانکہ اللہ تعالیٰ وعید کے ذریعہ ڈراتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام

کے صادق الوعدہ ہونے کی تعریف فرمائی ہے (انہ کان صادق الوعدو کان رسولنا نبيا) (سورة مریم)۔

قلم یبق الا صادق الوعد وحده
 ومالو عبدالحق عین تعاین
 اذا دخلوا دارالشقاء فانهم
 علی لذه فیها نعم مباین
 نعیم جنان الخلد والامر واحد
 وهونما عندالتجلی تباین
 یسمی عذابا من عذوبته طعمه
 وذاک له کالقشر والقشر صاین

(۳) تیسرا قول یہ ہے کہ جنسی جہنم میں ایک محدود وقت تک عذاب میں مبتلا ہوں گے پھر سے نکلیں گے اور انکی جگہ دوسری قوم رہے گی یہ قول ایک یہودی نے نبی کریم ﷺ کے سامنے پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت ذیل میں ان کی تکذیب فرمائی۔

وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ اور کہتے ہیں ہمکو ہرگز آگ نہ لگے گی مگر چند
 قل اتخذتم عندالله عهدا فلن یخلف الله روز گئے چنے کہہ دو کیا تم لے چکے ہو اللہ
 عهدہ ام تقولون علی الله مالا تعلمون کے یہاں سے اقرار کہ اب ہرگز خلاف نہ
 بلی من کسب سیئة وأحاطب به کریگا اللہ اپنی اقرار کے یا جوڑے ہو اللہ پر جو
 خطیئة فاؤلئك اصحاب النار هم فیها تم نہیں جانتے کیوں نہیں جس نے کمایا گناہ
 اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے سو وہی
 خالدون۔

(سورة البقرة ۸۰-۸۱)
 دوزخ کے رہنے والے ہیں وہ اسی میں ہمیشہ
 رہیں گے۔

فرمایا

الم ترالی الذین اوتوا نصبا من الكتاب کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو جن کو ملا کچھ
 یہ دعویٰ الی کتاب الله لیحکم بینہم ثم حصہ کتاب کا ان کو بلا تے ہیں اللہ کی کتاب کا
 ان کو بلا تے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ

یتولی فریق منهم وهم معرضون ذالک کتاب ان میں حکم کرے پھر منہ پھیرتے ہیں
بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ابياماً بعض ان میں سے تعافل کر کے یہ اس واسطے
ممدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا کہتے ہیں وہ ہم کو ہرگز نہ لگی آگ دوزخ
یفترون (ال عمران) کی مگر چند دن گنتی کے اور بھکے ہیں اپنے دین

میں اپنی بنائی باتوں پر

یہ اللہ کے دشمنوں یہودیوں کا قول ہے چنانچہ یہود اس طرح کے اقوال کے قائلین
کے شیوخ ہیں حالانکہ اس قول کے فساد پر قرآن و سنت اور صحابہ تابعین اور ائمہ اسلام کا جماع
دال ہے (اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وما ہم منا بغير حین (النحل)

وما ہم بخارجین من النار (البقرة)

کلمہ ارادوا ان یخرجوا منا اعدوہا فیہا (سورۃ الحج ۲۰)

اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے

اور وہ ہرگز نکلنے والے نہیں نار سے

جب چاہیں کہ نکل پڑیں دوزخ سے کٹھن کے مارے پھر ڈال دیئے جائیں گے اس کے اندر

کلمہ ارادنا ان یخرجوا منا اعدوہا فیہا (سورۃ آلہ سجدہ)

جیسا چاہیں کہ نکل پڑیں اس سے میں ڈال دیئے جائیں پھر اسی میں

لایقضای علیہم فیہم تو اولای یحذف عنہم من عذابہا (فاطر ۳۶)

نہ ان پر حکم پہنچے کہ مر جائیں اور نہ ان پر ہلکی ہو وہاں کی کچھ کلفت

ولایدخلون الجنة بلج الجمیل فی سم العظام (اعراف ۴۰)

اور نہ داخل ہوں گے جنت میں یہاں تک کہ گھس جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں

یہ سب آیتیں اس بات کی بلیغ خبر دے رہی ہیں کہ ان کا جنت میں داخل ہونا محال

ہے۔

(۴) چوتھا قول جس کو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ جنہی

جہنم سے نکلیں گے اور آگ اپنی حالت پر رہے گی اس کے بعد اس میں کسی کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ لیکن قرآن و سنت اس قول کی بھی تردید کر رہی ہے جیسا کہ گزر چکا ہے۔

(۵) پانچواں قول یہ ہے کہ جہنم فی نفسہ فنا ہوگی اس لئے کہ یہ حادثہ ہے پہلے نہیں تھی تو جب اس کا حادثہ ثابت ہو گیا تو اس کا باقی ابدی ہونا محال ہوا۔ یہ قول جنم بن صفوان اور اس کے پیروکاروں کا ہے۔ اس مسئلے میں اس کے ہاں جنت اور جہنم کے درمیان کوئی فرق نہیں دونوں برابر ہیں۔

(۶) چھٹا قول یہ ہے کہ جہنموں کی حیات اور حرکات ختم ہو جائیں گے اور وہ جمادات کی طرح بن جائیں گے نہ حرکت کریں گے اور نہ تکلیف محسوس کریں گے یہ قول معتزلہ کے امام ابو اللذیل علاف کا ہے۔ تاکہ غیر متناہی مدت تک اس کا حادثہ ممتنع ہو جائے۔ چنانچہ اس حکم میں اس کے ہاں جنت اور جہنم برابر ہیں۔

(۷) ساتواں قول یہ ہے کہ جہنم کو اس خالق تبارک و تعالیٰ ختم فرمائیں گے کیونکہ اس نے اس کے لئے ایک مدت مقرر فرمائی ہے جس پر پہنچ کر یہ فانی ہوگی اور اس کا عذاب ختم ہوگا۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قول عمر اور عبداللہ بن مسعود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اور عبد بن حمید نے بھی جو کہ حدیث کے بڑے ائمہ میں سے ہیں اپنی مشہور تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر جہنمی لوگ جہنم میں بہت زیادہ ریت کی مقدار بھی ٹھہرے رہیں لیکن ایک دن ان پر ضرور ایسا آئے گا جس میں وہ نکلیں گے یہ بات انہوں نے آیت (لبشین فیہا حقاہا) (رہیں گے اس میں قرونوں) کی تفسیر میں ذکر فرمائی ہے۔

اور لفظ اہل نار اس میں موجدین کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ان کے علاوہ کو بھی شامل ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

(اما اهل النار هم اهلها لا يموتون فیہا ولا یبعثون) یعنی اہل نار سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس میں ہوں گے نہ اس میں مریں گے اور نہ اچھی زندگی گزاریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”خالدین فیہا“ اور ”وما منہا معذو جین“ کے منافی نہیں۔ بلکہ اللہ

تعالیٰ جس بات کی خبر دے چکے وہ حق اور سچ ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب اس کی مدت ختم ہو جائے گی تو وہ فنا ہو جائے گی۔ پھر نہ اس میں آگ رہے گی اور نہ عذاب اس قول کے قائل کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ کے ارشاد (قال النار ما شاء الله ان ربك حكيم عليم) (فرماوے گا آگ ہے گھر تمہارا رہا کرو گے اس میں مگر جب چاہے اللہ البتہ تیرا رب حکمت والا مہربان ہے) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کسی کے لئے یہ جائز نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق کے بارے میں فیصلہ کرے اور نہ کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کو جنت میں ٹھہرائے اور نہ جہنم میں اور فرمایا اس آیت میں یہ وعید صرف اہل قبلہ کے ساتھ خاص نہیں ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

اے جماعت جناب کی تم نے بہت کچھ تابع کر

لئے اپنے آدمیوں میں سے اور کہیں گے ان کے دوستدار آدمیوں میں سے اے رب ہمارے کام نکالا ہم میں ایک نے دوسرے سے اور ہم پہنچے اپنے اس وعدہ کو جو تو نے ہمارے لئے مقرر کیا تھا۔ فرماوے گا آگ ہے گھر تمہارا رہا کرو اس میں مگر جب چاہے اللہ البتہ تیرا رب حکمت والا خبردار ہے اور اس طرح ہم ساتھ ملاویں گے گناہ گاروں کو ایک کو دوسرے سے ان کے اعمال کے سبب۔

و یوم یحشر ہم جمیعاً یا معشر الجن قد استکثرت من الانس وقال اولیاءہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا۔ قال النار متوکم خالدين فیہا الا ماشاء اللہ ان ربک حکیم عليم۔ وکذا لک نولی بعض الظالمین بعضاً بما کانوا یکسبون۔ (انعام ۱۲۸-۱۲۹)

انسانوں میں سے جنوں کے دوستوں میں کفار قطعی طور پر شامل ہیں کیونکہ گناہگار مسلمانوں کی بہ نسبت کفار ان کی دوستی کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
 انا جعلنا الشیطان اولیاء للذین لا یؤمنون۔ ہم نے کر دیا شیطانوں کو رفیق ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے۔

اس کا زور نہیں چلتا ان پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو انہیں پر ہے جو اس کو رفیق سمجھتے ہیں اور جو اس کو شریک مانتے ہیں۔

انه ليس له سلطان على الذين امنوا
وعلى ربهم يتوكلون. انما سلطانه
على الذين يتولونه والذين هم به
مشركون. (سورة نحل ۹۹-۱۰۰)

جس کے دل میں ڈر ہے جہاں پڑ گیا ان پر شیطان کا گذر چونک گئے پھر اس وقت ان کو سوجھ آجاتی ہے اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں وہ ان کو کھینچتے چلے جاتے ہیں گمراہی میں پھر وہ کمی نہیں کرتے۔

ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من
الشیطن تذکروا فاذا هم مبصرون
واخوانهم يمدونهم في الغی ثم
لا یقصرون.
(سورة اعراف ۲۰۱)

سو کیا اب تم ٹھہراتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو رفیق میرے سوائے اور وہ تمہارے دشمن ہیں۔

افتخذونه وذریعتہ اولیاء من دونی
وہم لکم عدو (سورہ کف)

سو لڑو تم شیطان کے حمایتوں سے

فقاتلوا اولیاء الشیطن

وہ لوگ ہیں گروہ شیطان کا بنتا ہے؟ جو گروہ ہے شیطان کا وہی خراب ہوتے ہیں۔

اولئک حزب الشیطن الا ان حزب
الشیطن ہم الخاسرون. (مجادلہ ۱۹)

اور شیطان دل میں ڈالتے ہیں اپنے رفیقوں کے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں اگر تم نے ان کا کہا مانا تو تم بھی مشرک ہوئے۔

وان الشیطن لیوحون الی اولیائہم
لیمنادلوکم وان اطعتموہم انکم
لمشركون. (انعام ۱۲۱)

استثناء تو اس آیت میں واقع ہے جو شیطان کے دوستوں کا جنم میں داخل ہونا بتا رہی ہے اسی وجہ سے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ

کی مخلوق میں کوئی فیصلہ کرے۔ اور کہا کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ”لا“ بمعنی سوا کے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں گے ان کو مختلف قسم کے عذابات زیادہ دیں گے اس قول میں مستثنائی اور مستثنیٰ منہ کے درمیان جو منافرت ہے وہ واضح ہے اس لئے کہ مخاطب نے ”لا“ کے ماقبل سے جو سمجھا ”لا“ کا مابعد (مستثنیٰ) اس کا مخالف ہے اس طرح ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ استثناء ان کے دخول سے قبل زمانہ برزخ اور میدان حشر اور جہنم میں گزرا ہوا باقی ماندہ وقت نکالنے کے لئے ہے۔ یہ بھی صحیح نہیں اس لئے کہ یہ استثناء جملہ خبریہ سے ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ جب یہ لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین اور آسمان ہیں مگر وہ وقت جو اللہ چاہے اور ان کے اسی کہنے میں کہ ”ربنا استمتع بغضا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلمت لنا“ (اے رب ہمارے کام نکالا ہم میں ایک نے دوسرے سے اور ہم پہنچے اپنے اس وعدہ کو جو تو نے ہمارے لئے مقرر کیا تھا) تو ایک قسم کا اقرار اور تسلیم اور افسوس موجود ہے یعنی جنوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا اور ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا تو ہم شرک اور اس کے سبب اور دواعی میں برابر کے شریک رہے اور ہم نے ان سے فائدہ اٹھانے کو تیری اور تیری رسول کی اطاعت پر ترجیح دی اور اس میں ہماری عمریں ختم ہو گئیں ہیں اور ہم نے آپ کی رضا حاصل نہ کی، بس اس مدت میں تو ہمارا بڑا مقصود ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا رہا۔ اب آپ ان کے اس اعتراف میں غور فرمائیں کہ وہ کس حقیقت پر تھے اور آج ان کے سامنے کیسے حقیقت کھل گئی اور یہ جان لیں گے کہ اپنی زندگی میں انہوں نے صرف ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا اپنے حصے میں لیا تھا اور انہوں نے اپنے رب کی عبادت اور اس کی مغفرت اور اسکی توحید و معرفت اور اس کی مرضی کو ترجیح دینے سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ چنانچہ ان کے اقرار کا ایک نمونہ یہ ہے۔

(۱) لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر

اور کہیں گے اگر ہم ہوتے سنتے یا سمجھتے تو نہ ہوتے دوزخ والوں میں

(۲) فاعترفوا بذنبهم

سو قائل ہو گئے اپنے گناہ کے

(۳) فَعَلِمَ وَاِنَّ الْبَاقِيَ

سو جان گئے کہ حق اللہ کے لئے ہے۔

چنانچہ مقصود اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”لَا مَآءَ رُبَّكَ“ سے یہ ہے کہ یہ ان مذکورہ لوگوں کے ساتھ خاص اور گناہ گار موحدین کو بھی شامل ہے۔ صرف گنہگار مسلمان کے ساتھ اس کو خاص قرار دینا دوسروں کو چھوڑ کر کوئی معنی نہیں رکھتا اور جب ایک جماعت نے اس قول کے ضعف کو دیکھا یعنی استثناء مدت برزخ اور میدان حشر کی طرف راجع ہے، تو کہا ہے کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ تم جہنم میں ہمیشہ رہو گے ہاں اگر اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ تم لوگوں کو عذاب دینا چاہے یعنی زمہریر میں داخل کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

ان جہم کما انت سر صا دا اللطاعین ما ہا لہا (سورۃ بئاء ۲۳-۲۱) رہا کریں اس میں قرنوں۔

کہا کہ ابد کا اندازہ احتساب سے نہیں کیا جاسکتا۔ اس آیت کے متعلق ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہنم پر ایک ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ اس میں کوئی بھی نہیں ہو گا اور یہ اس وقت کے بعد ہو گا کہ لوگ اس میں کئی احتساب رہ چکے ہوں گے۔ بغوی رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس طرح نقل کیا ہے اور پھر فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں اس قول کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ بات ثابت ہو تو اس کا مطلب یہ ہو گا ایمان والوں میں سے اس میں کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے۔ حرب نے اس آیت کے متعلق اسحاق بن راہویہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت تمام وعیدات قرآنی کو شامل ہے۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے کہ جہنم پر ایک ایسا دن ضرور آئے گا جس دن اس کے دروازے خالی ہوں گے کوئی بھی اس میں نہیں ہو گا اور یہ اس وقت ہو گا جبکہ لوگ بہت زمانہ تک اس میں رہ چکے ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ نہیں ہوں اور میں یہ نہیں کہتا کہ عنقریب جہنم پر ایسا دن آئے گا کہ اس میں کوئی بھی نہیں ہو گا اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی۔

فانا الذين شقوا ففى النار لهم فيها سو جو لوگ بد بخت ہیں وہ تو آگ میں ہیں ان زبور و شہیق - (سود ۱۰۶) کو وہاں چننا ہے اور دھاڑنا۔

عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب اس سے موحدین مراد لیتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ اور اس کے بعض ساتھی اللہ تعالیٰ کے ارشاد (خالدين فہمہا سادات السموات الخ) کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ پوری وعیدات قرآنی کو شامل ہے۔ ابن جریر رضی اللہ عنہ نے یہ قول اپنی تفسیر میں سلف سے نقل کیا ہے اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد جنمی ہیں اور ہر وہ شخص جو جنم میں داخل ہو جائے عبدالرزاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی شخص سے نقل کرتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی ”خالدين فيہا“ کے الفاظ ہو تو یہ آیت اس کو شامل ہے۔ ابو سعید فرماتے ہیں کہ یہ ان کا بدلہ ہے اگر چاہے تو ان سے اپنا عذاب رفع فرما سکتے ہیں۔ ابن جریر رضی اللہ عنہ آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے استثناء فرمایا اور آگ کو ان کے کھانے کا حکم دیا۔

شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنم بہت جلد تیزی سے بننے والی اور بہت جلد ویران ہونے والی چیز ہے۔ ابن جریر رضی اللہ عنہ نے اس میں ایک دو سرا قول بھی نقل فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ہمیں تو اہل جنت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت معلوم ہوئی اس کے ارشاد ”عطاء غیر مجذوذ“ سے کہ وہ زمین اور آسمان کی مدت بقاء سے بھی زیادہ رہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے متعلق ہمیں اپنی مشیت نہیں بتائی۔ اس لئے کہ ان کے بارے میں اس کی مشیت زیادتی میں بھی ممکن ہے اور نقصان میں بھی۔ ابن زید رضی اللہ عنہ نے بھی آیت مذکورہ ”عطاء غیر مجذوذ“ تک تلاوت فرما کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لئے جو کچھ چاہا اس سے ہمیں آگاہ فرمایا لیکن جو کچھ جہنمیوں کے لئے چاہا اس کی ہمیں اطلاع نہیں دی۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت (فانا الذين شقوا الخ) تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو بعض بد بخت جہنمیوں کو اس سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے یہ استثناء جنم میں داخل ہونے کے بعد اس سے نکلنے کے لئے ہے۔ اور ان لوگوں کے خلاف ہے جو کہتے ہیں کہ یہ قبل الدخول

کے لئے ہے لیکن یہ بعض کے جہنم سے نکلنے پر دلالت کرتا ہے اور بلاشک و شبہ یہ حق ہے اور یہ بات اس کے انقطاع اور عذاب کے فنا ہونے اور اپنے اندر والوں کو کھانے کی نفی نہیں کرتی اور وہ لوگ ہمیشہ اس کے اندر عذاب سہتے رہیں گے جب تک جہنم اس طرح رہے گی اور وہ اس سے نکل نہیں سکیں گے چنانچہ حدیث دو باتوں پر دلالت کرتی ہے۔

(۱) اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو بعض بد بختوں کو جہنم سے نکال لیں گے تو اس صورت میں استثناء بعد الدخول کے لئے ہو گا نہ کہ قبل الدخول کے لئے استثناء کا معنی یہ ہو گا (مگر جو تیرا رب چاہے کہ بعض بد بخت اس میں ہمیشہ رہیں گے) اس صورت میں اشقیاء کی دو قسمیں بنیں گی۔ ایک قسم تو وہ ہوگی جو نکل جائے گی اور دوسری قسم اس میں ہمیشہ رہے گی تو اس صورت میں یہ اول اشقیاء تھے بعد میں سعید بن گئے تو ان کے لئے دو مختلف وقتوں میں شقاوت و سعادت جمع ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

بیشک دوزخ ہے ناگ میں سریروں کا ٹھکانہ
رہا کریں اس میں قرونوں نہ چکھیں وہاں کچھ
مزا ٹھنڈک کا اور نہ پینا ملے کچھ مگر گرم پانی
اور بہتی پیپ بدلا ہے پورا ان کو توقع نہ تھی
حساب کی اور جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو
مکرا کر۔

ان جہنم کانت مرصداً للطاغین مآباً
لا یثین فیہا احقاباً. (سورۃ نباء ۲۱
-۲۳)

یہ آیتیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے والے کفار کی وعید میں صریح ہیں۔ ابد کا اندازہ احقاب سے نہیں کیا جاسکتا جیسا کہ قدیم کا اندازہ احقاب سے نہیں کیا جاسکتا اسی وجہ سے عبداللہ بن عمرو نے فرمایا کہ جہنم پر ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ اس کے دروازے خالی پڑے ہوں گے کوئی بھی اس میں نہیں ہو گا اور یہ اس وقت ہو گا کہ لوگ کئی احقاب اس میں رہ چکے ہوں گے اور جن لوگوں نے جہنم کے دوام کو قطعی قرار دیا ان کے استدلال کے چھ طریقے ہیں (۱) اجماع کا اعتقاد اکثر لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ صحابہ اور تابعین کے درمیان مجمع علیہ رہا ہے کسی کا اس میں اختلاف نہیں تھا اس میں اختلاف بعد کی ایجاد ہے۔ اور بدعتوں کے

اقوال میں سے ہے (۲) قرآن کریم قطعی طور پر اس پر دلالت کرتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جہنم (عذاب مقیم) ہے جس میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور عذاب پر عذاب زیادہ ہوتا رہے گا اور یہ کہ جہنمی اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اس سے کبھی نکل نہیں پائیں گے اور نہ ان کو نکالا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک جنت کافروں پر حرام قرار دیا یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے (اور یہ محال ہے) اور نہ ان کے لئے موت کا فیصلہ ہو گا کہ مرجائیں اور نہ عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور اس کا عذاب ہمیشہ والا ہے ان لوگوں کا کہنا ہے جہنم کے دائمی اور استمراری ہونے میں یہ آیتیں قطعی ہیں (۳) سنت مستفیضہ یہ بات بتا رہی ہیں کہ کفار کو چھوڑ کر جس شخص کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی ہو گا تو اس کو جہنم سے نکالا جائے گا اور شفاعت کی حدیشیں اول سے لیکر آخر تک سب کی سب صراحتاً بتا رہی ہیں کہ گناہ گار موحدین کو جہنم سے نکالا جائے گا اور یہ حکم ان کے ساتھ خاص ہے پس اگر کفار بھی جہنم سے نکلیں وہ بھی گناہ گار موحدوں کی طرح ہو جائیں گے اور پھر یہ حکم اہل ایمان کے ساتھ مختص نہیں ہو گا۔

(۴) پیغمبر ﷺ نے جس طرح ہمیں دوام جنت اور اس کے عدم فنایت کے بارے میں اطلاع دی تو اسی طرح ہمیں اس کی بھی اطلاع دی کہ جہنم فنا نہیں ہوگی۔

(۵) اہل سنت اور سلف کے عقائد اس کے بارے میں صریح اور صاف ہیں کہ جنت اور جہنم اب پیدا کئے گئے ہیں اور یہ کبھی فنا نہیں ہوں گے بلکہ ہمیشہ رہیں گے اور سلف اس کی فنایت کا عقیدہ اہل بدعت کے طرف منسوب کرتے تھے۔

(۶) عقل بھی کفار کا جہنم میں ہمیشہ رہنے کا مقتضی ہے اور یہ ایک قاعدہ پر مبنی ہے وہ یہ کہ معاد اور فرمانبردار نفوس کو ثواب دینا اور نافرمان فاجر نفوس کو عذاب دینا عقل سے معلوم کیا جائے گا یا صرف سماع سے؟ اس میں مسلمانوں کی رائے دو طریقوں پر ہے۔ ان میں سے اکثر اس طرف گئے ہیں کہ یہ چیزیں سمع کے ساتھ عقل سے بھی معلوم کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ قرآن کے کئی مقامات اس پر دال ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید فرمائی ہے جو موت اور زندگی کے معاملے میں فجار اور ابرار کو برابر مانتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی تردید کی ہے جو کہتے

تھے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو عبث پیدا کیا اور وہ واپس نہیں لوٹیں گے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیکار چھوڑا ہے نہ ان کو ثواب دے گا اور نہ عذاب۔ حالانکہ یہ عقیدہ اس کی حکمت اور کمال میں قاذح ہے اور ایسی چیز کو اس کی طرف منسوب کرنا ہے جو اس کے شایان شان نہیں۔ بلکہ بسا اوقات تو نفوس بشریہ کے بقاء کے ساتھ ساتھ ان کے اعتقادات اور صفات بھی ان کے ساتھ لازم اور ہمیشہ رہیں گی اگرچہ وہ عذاب دیکھ کر تھوڑی دیر کے لئے اپنے فاسد عقائد پر نادم ہو جائیں گے لیکن جیسے ہی عذاب سے جدا ہوں گے تو پھر وہی پہلے والے عقائد کی طرف لوٹ آئیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

ولو تری اذوقفوا علی النار فالتارا اور اگر تو دیکھے جس وقت کہ کھڑے کے
بایالیتنا نرد ولا نکذب بایات ربنا جائیں گے وہ دوزخ پر کہیں گے اے کاش ہم
ونکون من المثومنین۔ بل بدالہم ما پھر بھیج دیئے جاویں اور ہم نہ جھٹلائیں اپنے
کانوا یخفون من قبل۔ ولو ردوا رب کی آیتوں کو اور ہو جاویں ہم ایمان
لعادوا المانہوا عنہ وانہم لکاذبون۔ والوں میں۔ کوئی نہیں بلکہ ظاہر ہو گیا جو
(سورۃ الانعام ۲۷-۲۸) چھپاتے تھے پہلے اور اگر پھر بھیجے جاویں تو پھر
بھی وہی کام کریں جس سے منع کئے گئے تھے
اور وہ بیشک جھوٹے ہیں۔

یہ لوگ عذاب چکھ چکے ہوں گے لیکن ان کا کفر اور خبث ان کے ساتھ قائم رہے گا جیسے ہی عذاب سے الگ ہوں گے تو پہلے کی طرح کفار بنیں گے۔ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے دوام عذاب کا سمع کی طرح عقل بھی مقتضی ہے۔ اصحاب فن نے فرمایا اس مسئلے میں یہ طریقہ استدلال حق کو واضح کر رہا ہے۔ پہلے طریق میں جو انہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے تو وہ غیر معلوم ہے اجماع تو اس مسئلے میں ان کا ہو سکتا ہے جو اس میں نزاع سے ناواقف ہو۔ حالانکہ اس میں تو نزاع قدیماً اور حادثاً مشہور چلا آ رہا ہے۔ بلکہ اگر مدعی اجماع کو اس بات کا مکلف بنایا جائے کہ دس صحابہ کرام سے ایک تک کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ کہا ہو کہ جہنم کبھی بھی فناء نہیں ہوگی تو نہیں ثابت کر سکے گا۔ حالانکہ ہم نے تو اس کے خلاف ان سے

صریحاً نقل کیا اور اس کے خلاف ہمنے کسی کا قول نہیں پایا بلکہ تابعین نے ان سے یہی نقل کیا ہے کہا کہ اجماع معتد بہ کی دو قسمیں متفق علیہ ہیں اور تیسری قسم اختلافی ہے لیکن اس مسئلہ میں کوئی بھی نہیں پائی جاتی۔

پہلی قسم: وہ ہے جس کا ضروریات دین میں سے ہونا معلوم ہو۔ جیسے ارکان اسلام کا وجود اور محرّمات ظاہرہ کی تحریم۔

دوسری قسم: وہ ہے کہ اہل اجتہاد سے اس کے حکم پر تصریح منقول ہو۔

تیسری قسم: ان میں سے بعض کوئی بات کہہ دے اور وہ امت میں پھیل بھی جائے اور کسی نے بھی اس پر نکیر نہ کی ہو تو تمہارے پاس اجماع کی ان اقسام میں سے کون سی قسم ہے؟

اگر کوئی شخص ان طرق سے اجماع کا دعویٰ کرے اور یہ دلیل پکڑے کہ یہ صحیح طور پر صحابہ کرام سے منقول ہے اور کسی ایک نے بھی اس کا انکار نہیں کیا تو اس کا اجماع تمہارے اجماع سے بہتر ہو گا۔

طریقہ استدلال نمبر ۲ جو کہ جہنم کی بقاء اور اس کی عدم فنایت پر قرآن کی دلالت تھی تو قرآن کریم میں کوئی ایسی دلیل کہاں ہے جو اس پر دلالت کرتی ہو ہاں قرآن کریم اس پر دلالت کرتا ہے کہ کفار جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور اس سے کبھی نہیں نکلیں گے اور نہ ان سے عذاب منقطع ہو گا اور نہ اس میں مریں گے اور اس میں ہمیشہ ان کو عذاب دیا جائے گا یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں صحابہ اور تابعین اور ائمہ اسلام کے درمیان کوئی نزاع نہیں رہا اور نہ یہ مورد نزاع ہے۔ بلکہ نزاع تو ایک دوسری چیز میں ہے وہ یہ کہ آیا جہنم ابدی ہے یا اس کی فنایت مقرر ہے؟ باقی کفار کا اس سے نہ نکلنا اور ان سے عذاب کا منقطع نہ ہونا اور مرکز ختم نہ ہونا اور اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہونا جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو، وغیرہ میں صحابہ اور تابعین اور اہل سنت کے مابین کوئی اختلاف نہیں رہا، بلکہ اختلاف اس میں رہا جس کے متعلق ہم نے یہود اور اتحادیہ اور بعض اہل بدع کے اقوال نقل کئے۔ یہ اور اس جیسے اور نصوص ان کا داراللعذاب میں ہمیشگی کے مقتضی ہیں۔ جب تک وہ باقی رہے اس سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ جیسے کہ اس کی بقاء کے باوجود توحید والے اس سے نکلیں

گے۔

اور استدلال کا طریق ثالث جو کہ مشرکوں کے علاوہ اہل کبار کے نکلنے پر سنت مستفیضہ کا وارد ہونا ہے یہ حق ہے اس میں کوئی شک نہیں بلکہ یہ تو ہمارے قول کی تائید کرتا ہے کہ موحدین اس سے نکالے جاویں گے اور جہنم خود تو دارالعباب ہے فنا نہیں ہوگی جب تک باقی رہے گی مشرک اس میں رہیں گے نصوص اس پر بھی دلالت کرتے ہیں اور اس پر بھی۔

استدلال کا طریق رابع یعنی اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے جنت اور جہنم اب پیدا شدہ ہیں کبھی فنا نہیں ہوں گے۔ چنانچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان دونوں کی فنایت کے قائل صرف اہل بدع اور جہم اور معتزلہ ہیں۔ یہ قول صحابہ کرام اور تابعین اور ائمہ اسلام میں سے کسی کا بھی نہیں ہے۔ البتہ صرف اکیلے جہنم کی فنایت کی دلیل ہم نے آپ کو بتادی جو صحابہ اس کے قائل ہیں اور اس مسئلے میں جنت اور جہنم میں تفریق کرتے ہیں۔ تو یہ قول اہل بدع کے درمیان ہوئی باوجودیکہ اہل بدع دارین میں تفریق کے قائل نہیں۔ اب تمہارا اس کو اہل بدع کے اقوال میں سے قرار دینا ایسی بات ہے جس کا مقالات بنی آدم اور ان کی آراء اور اختلاف سے کوئی مناسبت نہیں۔ جو قول کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ اور اجماع امت سے (خواہ اجماع صحابہ کا ہو یا ان کے بعد کے لوگوں کا) مخالف ہو تو اس کو اہل بدع کے اقوال میں سے شمار کیا جائے گا۔ اور جو قول کتاب اللہ اور سنت اور اقوال صحابہ کے موافق ہو تو اس کو اہل بدع کے اقوال میں سے نہیں شمار کیا جائے گا۔ اگر وہ اس کے قریب ہو، حق جو بھی کہے اس کا قبول کرنا واجب ہے۔ اور باطل جو بھی کہے اس کی تردید کرنی چاہئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عادل حاکم ہیں۔ شک کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد فتنے ہوں گے اس میں مال بڑھے گا اور قرآن کو کھول دیا جائے گا یہاں تک مومن اور منافق عورت اور بچہ، کالا اور گورا، سب اس کو پڑھیں گے۔ عنقریب ان میں سے ایک کہے گا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے۔ ان کے متعلق میرا یہ گمان نہیں کہ وہ ہماری تابعداری کریں حتیٰ کہ وہ بدعت میں مبتلا ہو جائیں گے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حکیم کے ذبیح سے اپنے آپ کو بچاؤ اس لئے کہ شیطان کبھی ان کی زبان سے گمراہی کی بات کرواتا ہے اور منافق بھی کبھی حق بات کہتا ہے لہذا حق جہاں سے

بھی آئے اس کو قبول کرو حق پر ایک نور ہوتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حکیم کا ٹیڑھا پن کیسے ہو گا؟ فرمایا کہ وہ بات جو تم کو ڈرائے گی اور تم اس کو برا سمجھو گے اور تم کہو گے کہ یہ کیا ہے؟ لہذا اس کی کجروی سے بچو کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے۔
علم اور ایمان قیامت تک اپنی جگہ رہیں گے۔

اہل سنت والجماعت نے جن چیزوں کی خبر اپنے عقائد میں دی ہے جس پر کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع سلف دلیل ہیں، یعنی جنت اور جہنم اب پیدا شدہ ہیں اور جہنمی اب اس سے نہیں نکل پائیں گے اور نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ انقطاع اور جہنمی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اور جہنمیوں نے جہنم کی عدم فنائیت ذکر کی ہے وہ اس لئے کہ بعض بدعتیوں نے اس کی فنائیت کا قول کیا تھا۔ اور گزشتہ آثار ان کو نہیں پہنچے تھے اور جہنمیوں کے جہنم میں ہمیشہ رہنے پر عقل کا فیصلہ ایسا ہے جس پر ان کے پاس کوئی نقلی دلیل نہیں حالانکہ یہ مسئلہ ان میں سے ہے جو خبر صادق ہی سے معلوم کیا جاتا ہے۔

ثواب و عذاب سماع کے ساتھ عقل سے بھی معلوم کئے جاتے ہیں یا صرف سماع سے؟ اس میں ائمہ اربعہ کے متبعین کے دو قول ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ نقل معاد اور ثواب اور عقاب پر اجمالا دلالت کرتا ہے تفصیل اس کی سماع ہی سے معلوم کی جاتی ہے ثواب و عذاب کا دوام ایسی چیز ہے جس پر صرف عقل دلالت نہیں کرتی بلکہ وہ سماع سے جان لئے گئے ہیں اور سماع فرمانبرداروں کے دائمی ثواب پر قطعی دلیل ہے اور گناہ گاروں کے عذاب پر بھی دلیل قطعی ہے اس بات پر کہ وہ عذاب موحدین سے منقطع ہو گا اور کفار کے حق میں عذاب کا دوام اور انقطاع ہی مورد نزاع ہے پس جن کی جانب سے سماع ہو گا وہی حق بجانب ہیں۔

فصل

جنت اور جہنم کے دوام کے مابین شرعی و عقلی فرق کئی وجوہ پر
(۱) اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کی بقاء اور دائمی ہونے اور جہنم نہ ہونے کی خبر دی ہے اور جہنم

کے بارے میں سوائے اس کے کہ اہل جہنم اس میں ہمیشہ رہیں گے نہیں نکلیں گے اور اس طرح کہ اہل جہنم نہ اس میں مریں گے اور نہ جئیں گے اور جہنم ان پر بند کر دی جائے گی اور یہ کہ جب اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو اس میں دوبارہ لوٹائے جائیں گے اور اس کا عذاب ان کے لئے لازم اور دائمی ہو گا کوئی خبر نہیں دی۔ چنانچہ ان دونوں خبروں میں فرق ظاہر ہے (۲) دوزخ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تین آیات میں خبر دی ہے جو اس کے عدم ابدیت پر دلالت کرتی ہیں۔

پہلی آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

قال النار مشواکم خالدین فیہا الا ماشاء اللہ
ان ربک حکیم علیم۔ (الانعام ۱۲۹)

فرمادے گا آگ ہے گھر تمہارا رہا کرو گے اسی
میں مگر جب چاہے اللہ البتہ تیرا رب حکمت
والا خبردار ہے۔

دوسری آیت۔

خالدین فیہا مادامت السموت والارض الا
ماشاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ ہود ۱۰

ہمیشہ رہیں اس میں جب تک رہے آسمان اور
زمین مگر جو چاہے تیرا رب بیشک تیرا رب کر
ڈالتا ہے جو چاہے۔

تیسری آیت۔

لہن فیہا احتبابا۔ نباء۔ ۲۳

رہا کریں اس میں قرونوں

اگر جنت کی ابدیت و دوام پر قطعی دلائل دلالت نہ کرتے تو دونوں جگہوں میں استثناء کا حکم ایک ہوتا اور یہ کیسے ہو سکتا جب کہ سیاق و سباق دونوں استثناءوں میں فرق کرتا ہے اس لئے کہ اہل جہنم کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ان ربک فعال لما یرید (کر ڈالنے والا جو چاہے) تو ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کی خبر ہمیں نہیں دی اور اہل جنت کے بارے میں ارشاد ہے (عطاء غیر مجذوز) (بخشش ہے بے انتہا) تو ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور نعمتیں اہل جنت سے ختم نہیں ہوں گی پس عذاب موقت اور معلق ہے اور نعمتیں موقت اور معلق نہیں

ہیں۔

(۳) جنت کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ اس میں جہنم سے نکلنے والے معذب لوگوں میں سے وہ شخص کبھی داخل نہیں ہو گا جس نے کبھی بھلائی کا کام نہ کیا ہو اور جہنم میں وہ شخص داخل نہیں ہو گا جس نے کبھی بھی برا عمل کیا نہ ہو بلکہ اس میں صرف نافرمان کو ہی عذاب دیا جائے گا۔

(۴) یہ بات یقینی ثابت ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کے لئے نئی مخلوق پیدا فرما کر اس میں ٹھہرا دیں گے لیکن یہ معاملہ جہنم کے ساتھ نہیں ہو گا۔ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے لئے بھی نئی مخلوق پیدا فرمائیں گے تو یہ بعض راویوں سے غلطی واقع ہوئی ہے اور حدیث ان پر اشتہابہ کی وجہ خلط طوط ہو گئی حالانکہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ جنت کے لئے نئی مخلوق پیدا فرمائیں گے ذکر کی تو وہاں صاف طور پر بتا دیا کہ اس حدیث کے الفاظ راویوں پر خلط ہو گئے حاصل یہ کہ ان فرقوں کے باوجود جنت کی ہمیشگی پر جہنم کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

(۵) پانچویں وجہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ کی رضا و رحمت کی جگہ ہے اور جہنم اس کے غضب و قہر کی جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اس کے غضب پر سبقت اور غلبہ حاصل ہے اور جیسا کہ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کا فیصلہ کر چکے تو کتاب میں آیت لکھی جو اس کے پاس عرش پر رکھی ہوئی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی اور جب اللہ تعالیٰ کی رضا کو اس کے غضب پر غلبہ اور سبقت حاصل ہے تو اس چیز کو جو موجب رضا ہے اس چیز کے برابر قرار دینا جو موجب غضب ہو ممتنع ہے۔

(۶) چھٹی وجہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ جس چیز کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور رحمت کے لئے ہوگی تو وہ مقصود لذاتہ ہے اور جو موجب غضب اور ناراضگی ہے تو وہ مقصود دلیغہ رہے ہے وسیلہ ہے چنانچہ وہ غیر کی وجہ سے مسبوق مغلوب ہے اور جو رحمت کے لئے ہے وہ غالب اور سابق ہے۔

(۷) ساتویں وجہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے میں

تیرے ذریعہ جس پر چاہوں رحم کرتا ہوں اور جہنم سے فرمایا تو میرا عذاب ہے میں تیرے ذریعہ جس کو چاہوں عذاب دیتا ہوں اور جہنم کا عذاب طے شدہ اور الگ ہے اور یہ اس کے غضب سے پیدا ہے اور یہاں اس کی رحمت جنت ہی ہے جو کہ اس رحمت سے پیدا ہے جو رحمت کی صفت ہے۔ یہاں چار چیزیں ہیں (۱) ایک تو وہ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے (۲) ثواب تو اس سے الگ چیز ہے جس کے پیدا ہونے کا سبب اس کی رحمت ہے (۳) تیسری چیز غضب ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے (۴) عذاب الگ چیز ہے جس کے وجود میں آنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے تو جب اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت صفت غضب پر غالب ہے تو صفت رحمت سے پیدا شدہ چیز (جنت) بھی غضب سے پیدا ہونے والی چیز (جہنم) پر غالب رہے گی تو اب غضب سے پیدا شدہ چیز اس کا مقابلہ کیسے کرے گی جو اللہ کی رحمت سے پیدا ہے۔

(۸) آٹھویں وجہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ڈرانے اور خطاکاروں اور مجرموں کی پاکی کا ذریعہ بنایا ہے۔ چنانچہ جہنم نفس کی ان خباثتوں کے پاک کرنے کا ذریعہ ہے جو اس نے عالم دنیا میں کی ہوں گی۔ اس وجہ سے اگر نفس سچی اور خالص توبہ اور گناہوں کے منانے والے حسنات اور کفارہ بننے والے مصائب کے ذریعہ پاک ہو جائے تو پھر وہاں اس کی پاکی کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ دیگر پاک لوگوں کے ساتھ اس کو کہا جائے گا جیسا کہ تمام پاک لوگوں سے کہا جائے گا۔ سلامتی ہو تم پر کہ تم پاکیزہ لوگ ہو ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل ہو جاؤ لیکن اگر وہ اس دنیا میں پاک نہ ہو اپنے نجاست اور حیث سمیت اس دار سے منتقل ہوا تو پھر بطور پاکی اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ پھر جب پوری طریقے سے نفس پاک ہو جائے گا تو آگ سے نکال لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سیدھا اور احکام پر عمل پیرا ہونے کی استعداد پر پیدا فرمایا تھا یعنی وہ فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اگر لوگ اسی حالت پر رہتے تو حید ہی پر ان کی نشوونما ہوتی لیکن اکثر فطرتوں کو وہ عوارض پیش آئے جس نے ان فطرتوں کو تبدیل کیا۔ اسی وجہ سے تو جہنم کا حصہ جنت کے حصے سے اکثر دور وافر ہے۔ اس تبدیلی کے کئی مراتب ہیں جس پر اللہ ہی احاطہ فرما سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر اپنے بندوں کو وہ فطرت یاد دلانی جس پر ان

کو پیدا کیا تھا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بھلائی کی توفیق دی تو وہ پیغمبروں کے لائے ہوئے احکامات اور کتابوں میں اترے ہوئے احکامات کے ذریعہ فطرت اولیٰ پر آئے۔ چنانچہ اللہ کی جانب سے اترنے والی شریعت اور کمال کو پہنچانے والی فطرت نے نفوس کو ایسے خبث اور میل کچیل کے کمانے سے منع کیا جو پھر کبھی ان نفوس سے الگ نہیں ہوتے۔ بلکہ جب ان میں سے کوئی بھی چیز یا شیطان کا گزر ان پر ہو جائے تو ان کی شریعت اور فطرت کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ تو ان پیغمبروں نے اس کے موجب اور اثر کو زائل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا انتظام فرمایا جس کے مقابلے کی طاقت کسی میں نہیں تھی اور اگر یہ بات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی سبب کے اپنے بندوں کو عذاب دینے میں کوئی غرض نہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔

ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم و امنتم . کیا کریگا اللہ تم کو عذاب کر کے اگر تم حق کو مانو
و كان الله شاکراً علیماً . اور یقین رکھو اور اللہ قدر دان ہے سب کچھ

جاننے والا۔

(سورۃ النساء ۱۴۷)

بد بخت لوگ فطرت کی تبدیلی میں ہمیشہ لگے رہیں گے یہاں تک کہ اس کا بگاڑ محکم ہو گیا اور مکمل تبدیل ہوئی۔ چنانچہ اس تعبیر کے ازالہ میں ان کو ایک دو سری تبدیلی اور پاکی کی ضرورت پڑی تاکہ یہ صحت یاب ہو جائیں کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی پڑھی جانے والی آیتوں اور احادیث کے ذریعہ انہوں نے صحت حاصل نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایسے عقوبات کا فیصلہ فرمایا جو دنیاوی عقوبات سے بڑھ کر تھے تاکہ ان سے وہ خبث اور نجاست نکال دے جو آگ کے بغیر زائل نہیں ہوتی تو پھر جیسے ہی موجب عذاب اور سبب عذاب زائل ہو گا تو مقتضی رحمت (جنت) باقی رہے گی جس کا کوئی معارض نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ یہ تو حق ہے لیکن سبب تعذیب تو زائل نہیں ہوتا لایہ کہ وہ عارضی ہو جیسے موحدین کے گناہ لیکن جو سبب تعذیب لازم ہو جیسے کفر اور شرک تو اس کا اثر زائل نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بعینہ اس معنی کی طرف کئی مقامات پر اشارہ فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے (ولو رودا لعادوا لمانھو عنہ) (اور اگر پھر بھی جاویں تو پھر بھی وہی کام کریں جس سے منع کئے گئے) اس میں اس بات کی خبر ہے کہ کفار کے نفوس اور طبائع شرک اور کفر کے علاوہ اور کسی چیز کا تقاضا ہی نہیں کرتے

اور ان میں ایمان کی ہلاکت ہی نہیں (۲) اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہے۔
 وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فہو فی اور جو کوئی رہا اس جہان میں اندھا سو وہ
 الاخرۃ اعمی و اضل سبیلاً .
 (سورۃ الاسراء ۷۲)
 ہوا راہ سے۔

اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی کہ ان کی ضلالت اور ہدایت سے اعراض دائمی
 ہے، یہاں تک کہ جن حقائق کی اطلاع پیغمبروں نے دی ہے اس کے مشاہدے سے بھی زائل
 نہیں ہوتی۔ تو جیسے ان کا اندھا پن اور ضلالت ان سے جدا نہیں ہوتی تو اس کا مقتضایہ اور اثر
 بھی ان سے جدا نہیں ہوگا (۳) اللہ تعالیٰ ارشاد ہے۔

ولو علم اللہ فیہم خیراً لا سمعہم ولو اور اگر اللہ جانتا ان میں کچھ بھلائی تو ان کو سنا
 اسمعہم لتولو وہم معرضون . دیتا اور اگر ان کو آپ سنا دے تو ضرور
 بھاگیں منہ پھیر کر
 (سورۃ الانفعال ۲۳)

یہ آیت بتا رہی ہے کہ ان میں کوئی خیر ہی نہیں جو مقتضایہ رحمت ہو اگر ان میں کوئی
 خیر ہوتی تو اس کا اثر کبھی ضائع نہ جاتا۔ یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں کوئی خیر نہیں
 (اخر جوار من النار من کان فی قلبہ ادنی مثقال ذرۃ من خیر) (جنم سے ہر اس شخص کو نکالو جس
 کے دل میں ذرہ برابر بھی بھلائی ہو) تو اگر ان کے پاس خیر کا ادنیٰ سے ادنیٰ ذرہ بھی ہوتا تو یہ
 نکلنے والوں کے ساتھ نکل جاتے۔ اس مسئلے میں یہ سب سے قوی دلیل ہے۔ اور معاملہ ایسا ہی
 ہے جیسا کہ درست لوگ آخرت میں بھی اس اندھے پن اور ضلالت میں ہو گئے جس کے اندر
 وہ دنیا میں مبتلا تھے۔ عذاب ان پر دائمی رہے گا جب تک یہ اسی حالت پر رہیں گے، لیکن کیا یہ
 کفر و تکذیب اور خبیثان کا مرزاتی ہے جس کا زوال محال ہے؟ یا فطرت پر چھایا ہوا عارضی
 امر ہے جو قابل زوال ہو؟ یہی موضوع بحث ہے۔

تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں جو اس کے زوال کے محال اور مرزاتی ہونے پر
 دلالت کرتی ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات کی خبر دے چکے ہیں کہ اس نے اپنے بندوں کو
 حنہمت پر پیدا فرمایا تھا۔ شیاطین نے ان کو درغلا یا۔ اللہ تعالیٰ نے کفر و تکذیب پر ان کو پیدا

نہیں فرمایا جیسا کہ چوپاؤں کو اپنی طبیعت پر پیدا کیا جاتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے خالق کے اقرار اور اس کی محبت اور توحید پر پیدا فرمایا تھا۔ جس حق پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا تھا اگر اس کا زوال اور شرک باطل سے ممکن ہو تو حق کے ذریعے کفر و شرک کا زوال بطریق اولیٰ ممکن ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ان کو پہلی حالت پر لوٹایا گیا جس پر یہ تھے تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا یہ دوبارہ اس کی طرف لوٹ پڑیں گے۔ لیکن اس بات کی دلیل تمہارے پاس کہاں ہے کہ یہ حالت کبھی نہ زائل ہوگی اور نہ دوبارہ پیدا کرنے سے تبدیل ہوگی جس وقت آگ ان کا ٹھکانہ بنے گی اور ان کے عذاب سے مطلوب حکمت حاصل ہو جائے گی اس لئے کہ عذاب تو بے فائدہ نہیں ہے بلکہ ایک مطلوب حکمت کے لئے ہو گا تو جب وہ حکمت حاصل ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ کو ان کی تعذیب میں کوئی غرض و مطلب نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عذاب سے شفا آرام حاصل نہیں کرتا جیسا کہ ایک مظلوم ظالم سے حاصل کرتا ہے وہ اپنے بندے کو اس غرض کے لئے عذاب نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس کو بطور پاکی و رحمت کے عذاب دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے عذاب میں اسکی مصلحت ہے اگرچہ اس کو بہت ہی تکلیف کیوں نہ پہنچتی ہو جیسے کہ دنیا میں نفاذ حدود کے ذریعہ اس کا عذاب اصحاب حدود کے لئے مصلحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حد کو عذاب کہا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بات کی متقاضی ہے کہ اس نے ہر بیماری کے لئے اس کی مناسب دوا کا انتظام فرمایا ہے اور سخت بیماری کی دوا بھی سخت ہوتی ہے اور مشفق طبیب کبھی مریض کو آگ سے داغتا ہے تاکہ اس سے وہ روی مادہ خارج کرے جو اسکی طبیعت مستقیمہ پر چھا گیا ہے چنانچہ اگر طبیب کسی کے عضو کاٹنے میں اس کی مصلحت سمجھتا ہے تو اس کو کاٹ لیتا ہے اور سخت تکلیف اس کو چکا دیتا ہے۔ چنانچہ یہ بندے کے اختیار کے بغیر اللہ کے قضا و قدرت سے اس کی طبیعت مستقیمہ پر چھائی ہوئی فاسد مادے کے سازا لے کا سبب ہوتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے کے اختیار و ارادے اس کی فطرت سلیمہ پر مواد فاسدہ چھا جائے؟

جب ایک عقل مند آدمی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آخرت میں اسکے ثواب و عقاب میں غور کرے گا تو ان میں نہایت ہی تناسب و توافق اور بعضوں کا بعض سے ربط

ضرور پائے گا اس لئے کہ ان سب کا مصدر و ماخذ اللہ تعالیٰ کا علم تام اور اس کی حکمت بالغہ و رحمت کاملہ ہے اللہ تعالیٰ حق اور واضح بادشاہ ہے اس کی بادشاہی عدل و احسان اور رحمت والی ہے۔

(۹) اللہ تعالیٰ کا بندے کو عذاب دینا اپنے کسی نفع یا ضرر ہٹانے کے لئے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے ایسے ہی برتر اور پاک ہے جیسا کہ دیگر تمام عیوب و نقائص سے پاک ہیں۔ اور نہ یہ عذاب محض عبت و حکمت اور بہترین انجام سے خالی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہیں۔ تیسری تقدیر پر تعذیب اور مقصود نعوذہ ہے وسیلہ کے درجہ میں ہے مقصد کے درجہ میں نہیں۔ وسیلہ سے مراد یہ ہے کہ جب وہ مقصد مطلوبہ طریقے پر حاصل ہو جائے تو اس کا حکم ختم ہو جاتا ہے اس کے اولیاء کی نعمتیں اصل مقصود نہیں اور نہ ان کے دشمنوں کے عذاب کے دوام اور استمرار کے کمال میں ہیں اور نہ اشتیاء کی مصلحت دوام و استمرار میں ہے۔ اگرچہ اصل تعذیب میں ہی مصلحت ہے۔

(۱۰) اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و رحمت اس کی دو ذاتی صفات ہیں اس کی رضا کی کوئی انتہا نہیں بلکہ تمام مخلوق سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو جاننے والے رسول ﷺ نے فرمایا
سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا ہم اللہ کی پاکی اور تعریف بیان کرتے ہیں اس
نفسہ و زنة عرشہ و مداد کلماتہ۔
کی مخلوق کی تعداد کے برابر اور اس کی ذات
کی رضامندی اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کے برابر

جب اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے تو پھر اس کی ذات کی رضا تو بہت اعلیٰ اور برتر چیز ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا و جنتوں اور اس کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں کہ وہ اہل جنت سے ایسے راضی ہوں گے جس کے بعد ان پر کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور ناراضگی اس کی صفات ذاتیہ میں سے نہیں ہے کہ جس کا اس کی ذات سے جدا ہونا محال ہے یعنی وہ ہمیشہ صفت غضب میں ہی رہیں۔ لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی صفت غضب میں دو قول ہیں (۱) ایک یہ کہ یہ صفت اس کے صفات لعلہ میں سے ہے جو اسکے ساتھ دیگر افعال کی طرح قائم ہے۔

(۲) دوسرا یہ کہ اس کی صفت فعل ہے اور اس سے جدا ہے اس کے ساتھ قائم نہیں رہتا یہ اقوال اس کی صفات حیات اور علم اور قدرت کی طرح نہیں جس کا الگ ہونا اللہ تعالیٰ سے محال ہو۔ اور عذاب تو اللہ تعالیٰ کی صفت غضب کی پیداوار ہے اور جہنم کو اس کے غضب ہی سے بھڑکایا جاتا ہے ایک مرفوع اثر میں وارد ہے ”کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق کو اپنے غضب سے پیدا فرمایا ہے اور ان کو مشرق میں ٹھہرایا ہے اور ان کے ذریعہ نافرمانوں کو عذاب دیتے ہیں“۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جو رحمت سے رحم کرنے کے لئے پیدا ہوتی ہے اور دوسری وہ ہے جو غضب سے غضب کے واسطے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے کمال مطلق ثابت ہے ان تمام وجوہ سے جن کے خلاف سے وہ پاک ہے۔ چنانچہ وہی ذات واحد ہیں جو راضی ہوتے ہیں اور غصے ہوتے ہیں ثواب اور عذاب دیتے ہیں۔ عطاء فرماتے ہیں اور روکتے ہیں۔ عزت دیتے ہیں اور ذلیل کرتے ہیں۔ انتقام لیتے ہیں اور معاف فرماتے ہیں۔ وہی حقیقی بادشاہ ہیں جس کی بادشاہی حکمت اور رحمت اور حمد سے مقرون ہے۔ جب اس کا غضب اس کی رضا میں بدل جاتا ہے تو اس کا عذاب اس کی رحمت سے تبدیل ہو سکتا ہے بلکہ اس کی رحمت تو ہمیشہ ہی رہتی ہے اگرچہ اس کی صفات اور صورتیں مختلف اور بدلتی رہتی ہیں۔ جیسا کہ گناہ گاروں کو عذاب دینا رحمت ہے اور پھر ان کو جہنم سے نکالنا رحمت ہے۔ چنانچہ یہ اللہ کی رحمت ہی میں دنیا میں رہتے ہیں اور اس کی رحمت ہی میں آخرت کی طرف لوٹتے ہیں اسی رحمت کو وہ پسند کرتے ہیں جو ان کے طبائع کے موافق ہوتی ہے اور یہی رحمت ہے جس کو وہ کبھی ناپسند کرتے ہیں اور ان پر گراں گزرتی ہے۔ جیسے کہ اس ڈاکٹر کی رحمت جو مریض کے گوشت میں نشتر لگا کر کاٹتا ہے تاکہ اس سے فاسد اور ردی مادہ خارج کر دے۔

اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ قیاس تو صحیح نہیں اس لئے کہ ڈاکٹر مریض کے ساتھ جو یہ معاملہ کرتا ہے تو مریض کی رضامندی اور خوشنودی سے کرتا ہے اور یہ اس پر ڈاکٹر کے غضب کا نتیجہ نہیں ہوتا اس لئے اس کو تو عذاب نہیں کہا جاسکتا ہے اور یہاں جہنم کو محض اللہ تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے؟

جواب :- یہ درست ہے لیکن یہ بھی ان پر رحمت کے منافی نہیں اگرچہ یہ ان کو عذاب دینا ہے

یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ دنیا میں ان پر حدود کا قیام کہ حدود اہل حدود کے لئے پاکی اور عذاب ہے۔ اس لئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو غصہ دلایا اور اس کا مقابلہ کرنا چاہا جس کی ان میں طاقت نہیں تھی۔ اور اللہ کے ساتھ بہت بڑا معاملہ کیا اس کے اور اس کے پیغمبروں کی تکذیب کی۔ اور اس خبیث ترین کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ حالانکہ وہی ان کا خالق رازق اور ان کا مولیٰ ہے جس کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے کمال کو واجب کرتی ہے جس کے مقتضای اور آثار کا خلاف محال ہے بلکہ اس کے احکام کی تعطیل ہے جیسے کہ اس کی نفی اس کے حقائق کی تعطیل ہے اور یہ دونوں تعظیموں اسکے حق میں محال ہیں۔ پھر معظمت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو اس کی صفات کو معطل بناتے ہیں اور دوسری قسم اس کے احکام اور موجبات کو معطل بناتے ہیں۔ چنانچہ یہ عذاب ان کے حق میں ایک وجہ سے عقوبت ہے اور ایک وجہ سے یعنی جنت رحمت سے ان کے لئے عذاب کا شفا ہے۔

(۱۱) گیارہویں وجہ یہ بات واضح کرتی ہے کہ درگزر کرنا اللہ تعالیٰ کو انتقام سے زیادہ محبوب ہے اور رحمت عذاب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور رضاء غضب سے زیادہ محبوب ہے اور احسان عدل سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر جنسی لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی رحمت کمال حمد کا مشاہدہ کریں گے تو اس کی رضا تلاش کرنے لگیں گے اگرچہ جہنم میں ہمیشہ رہنے سے کیوں نہ ہو اور کہیں گے اے اللہ جس حالت میں ہم ہیں اگر آپ کی رضا اس میں ہے تو ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں اور ہمیں اس حالت تک اس چیز کی تلاش نے پہنچایا ہے جو آپ کو راضی کرے اگر آپ اس حالت پر ہم سے راضی ہوتے ہیں تو آپ کی رضا ہی ہمارا مقصود ہے۔ آپ کی رضامندی کا کوئی مصیبت مقابلہ نہیں کر سکتی آپ ہماری جانوں سے ہم پر زیادہ رحیم ہیں اور ہماری مصلحتوں کو اچھی طرح جاننے والے ہیں ساری تعریف آپ ہی کے لئے ہے چاہے آپ عذاب دیں یا درگزر فرمائیں۔ چنانچہ آگ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی۔

مسند احمد رضی اللہ عنہ میں اسود بن سریع رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن چار آدمی آئیں گے۔ ایک بہرہ ہو گا جو کچھ بھی نہ سنتا ہو گا۔ دوسرا حق ہو گا اور تیسرا بوڑھا ہو گا اور چوتھا وہ آدمی ہو گا جو زمانہ فطرت میں مر گیا ہو گا۔

بہرا عرض کرے گا اے میرے پروردگار اسلام آیا تھا لیکن میں نے کچھ نہیں سنا احمق عرض کرے گا اے رب اسلام اس حال میں آیا تھا کہ بچے مجھے مینگنیوں سے مارتے تھے۔ بوڑھا عرض کرے گا اے رب اسلام آیا تھا لیکن میں کچھ نہیں سمجھ پاتا تھا اور زمانہ فترت میں مرنے والا عرض کرے گا اے رب آپ کی طرف سے میرے پاس کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا چنانچہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنی اطاعت کا عہد و پیمان لیکر ان کی طرف حکم بھیجے گا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد ﷺ کی جان ہے اگر یہ لوگ اس آگ میں داخل ہو جاتے تو ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جاتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جہنم میں داخل ہونے والوں میں دو آدمی زور زور سے چیخیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کریں گے کہ ان دونوں کو نکال لو جب انکو نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم کس وجہ سے زور سے چیخ رہے تھے دونوں عرض کریں گے کہ ہم نے یہ اس لئے کیا تاکہ آپ ہم رحم فرمائیں۔ ارشاد ہو گا کہ تمہارے لئے میری رحمت یہ ہے کہ جہنم میں جہاں تم تھے وہاں جا کر اپنے آپ کو ڈال دو فرمایا کہ دونوں چل پڑیں گے ایک اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دے گا تو اللہ تعالیٰ آگ کو ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیں گے اور دوسرا کھڑا رہے گا اپنے آپ کو نہیں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تجھے اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے سے کس چیز نے منع کیا جیسا کہ تیرے ساتھی نے اپنے آپ کو ڈال دیا۔ وہ عرض کرے گا اے رب میں نے آپ سے یہی امید کی کہ جہنم سے نکالنے کے بعد آپ مجھے دوبارہ اس میں داخل نہیں فرمائیں گے ارشاد ہو گا آپ کی امید آپ کو مل گئی چنانچہ اللہ کی رحمت سے دونوں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اوزاعی نے فرمایا کہ جہنم سے دو آدمیوں کے نکالنے کا حکم کیا جائے گا۔ جب ان کو نکال کر کھڑا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے پوچھیں گے کہ تم دونوں نے اپنا برا ٹھکانا کیسے پایا؟ وہ عرض کریں گے بہت ہی برا ہے ارشاد ہو گا یہ تمہارے ان اعمال کی وجہ سے ہوا جو تم نے آگے بھیجا میں نے اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ فرمایا کہ پھر ان دونوں کو جہنم کی طرف لوٹ جانے کا حکم دیا جائے گا۔ چنانچہ ان میں سے ایک اپنے طوقوں اور زنجیروں میں چل پڑے گا یہاں تک کہ جہنم میں داخل ہو جائے گا اور دوسرا تاخیر کرے گا تو ان

دونوں کو واپس بلایا جائے گا جو زنجیروں اور طوقوں میں چل کر جہنم میں داخل ہوا تھا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے اس کام پر تجھے کس چیز نے آمادہ کیا؟ حالانکہ تو جہنم سے نکل چکا تھا؟ عرض کرے گا کہ جب ایک مرتبہ آپ کی نافرمانی کے وبال سے میں آگاہ ہوا تو دوبارہ میں آپ کی ناراضگی کا ارتکاب نہیں کر سکا۔ اور جس نے تاخیر کی تھی اس سے پوچھیں گے تجھے کس چیز نے اس عمل پر آمادہ کیا تھا جو تو نے کیا؟ پس عرض کرے گا آپ پر یہ حسن ظن رکھتے ہوئے کہ جب آپ نے جہنم سے مجھے نکالا تو دوبارہ مجھے نہیں لوٹائیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ دونوں پر رحم فرمائے گا اور دونوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔

(۱۳) نعمتیں اور ثواب اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت اور احسان کا مقتضای ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف اس کی نسبت کی۔ اور عذاب و عقوبت اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہیں اس وجہ سے اسکی نسبت عذاب شدید کی طرف کی گئی۔ بلکہ دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں سے ہے (ثواب و نعمت) اور دوسرا اس کی مخلوقات و مفعولات میں سے ہے (عذاب و عقوبت) جیسا کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جمع فرمایا۔

نبئی عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان خبر سادے میرے بندوں کو کہ میں ہوں عذابی هو العذاب الالیم۔
(سورۃ الحج ۴۹ - ۵۰)
اور اس طرح ارشاد ہے۔

اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحیم۔ مائدہ ۹۸
اسی طرح ارشاد ہے۔

ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور۔
الرحیم - اعراف - ۱۷۶
وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اسی قسم کی دوسری آیتیں سورۃ انعام کے آخر میں ہیں۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کے اسماء

صفات کے مقتضی کا ثمرہ ہو گا تو اسماء و صفات کے دوام کی طرح وہ بھی دائمی ہوگی خاص طور پر جب کہ وہ چیز اس کی پسندیدہ اور محبوب و مطلوب ہو اور شریعی عذاب کا اس کے اسماء و صفات میں ہونا ایک حکمت کی بناء پر ہے جب وہ حکمت حاصل ہو جائے عذاب بھی زائل ہو جاتا ہے۔ بخلاف خیر کے اللہ تعالیٰ کی خیر کا دائمی ہونا معروف ہے جو کبھی مقطع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قدیم الاحسان اور ابدی الاحسان ہیں اور اسکے اسماء و صفات میں سے یہ بات نہیں ہے کہ وہ مسلسل غصے ہو یا انتقام کے درپے ہو اس باب میں فقہ ہمامانہ انداز سے غور فرمائیں یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا باب ہے اس سے آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کی معرفت و محبت کے دروازے کھل جائیں گے

(۱۳) تیرہویں وجہ جو بات واضح کرتی ہے وہ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے جو کہ تمام مخلوق کی بہ نسبت اللہ تعالیٰ کو زیادہ جاننے والے ہیں اور اسکے اسماء و صفات سے زیادہ واقف ہیں فرمایا (والشریس الیک) یعنی شر آپ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا نہ ذات میں نہ صفات میں اس کی ذات کو تمام وجوہ سے کمال مطلق حاصل ہے اس کی ساری صفات قابل تعریف ہیں اور اسکے سارے افعال عدل و رحمت اور بھلائی ہیں اور حکمت ہیں جس میں ذرہ برابر شر نہیں اس کے سارے اسماء حسنیٰ ہیں تو اس کی مخلوقات اور مفعولات میں اس کی طرف کیسے شرکی نسبت کی جائے گی جبکہ وہ اس سے منفصل ہیں اور اس کا فعل مفعول سے غیر ہوتا ہے اس کا فعل تو سارا کا سارا خیر ہی ہوتا ہے اور مخلوق یعنی مفعول فیہ اس میں خیر اور شردونوں ہوتے ہیں۔

(۱۴) اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ اس کی رحمت ہر چیز کو شامل ہے ایسی کوئی چیز نہیں جس میں اس کی رحمت نہ ہو اور یہ بات اس کے منافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ناگوار چیزوں سے بندے پر رحم فرماتے ہیں اس لئے کہ یہ بھی اس کی رحمت ہے جیسا کہ گزر چکا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ابھی گزر چکی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان دو آدمیوں سے فرمایا جو جہنم میں جیج رہے تھے کہ تمہارے لئے میری رحمت یہ ہے کہ جہنم میں جہاں تم تھے وہاں اپنے آپ کو دوبارہ ڈال دو۔ اور بعض احادیث میں وارد ہے کہ جب کوئی شخص مصیبت زدہ کے لئے دعا مانگتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ اس پر رحم فرما تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر اور کس چیز سے رحم

کروں جبکہ مصیبت کے ذریعہ میں اس پر رحم کر رہا ہوں۔ چنانچہ خدا کی آزمائش بھی اس کے بندوں کے حق میں رحمت ہے اور حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ”کہ مجھے یاد کرنے والے میرے ہم مجلس والے لوگ ہیں۔ اور میری اطاعت کرنے والے میری عزت کے مستحق ہیں اور میرا شکر کرنے والے زیادہ دینے کے مستحق ہیں اور میں اپنی نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رحمت سے ناامید نہیں کروں گا اگر وہ توبہ کر لیں تو میں ان کا حبیب ہوں اور اگر توبہ نہ کریں تو میں ان کا طبیب (معالج) ہوں۔ میں ان کو مصائب میں مبتلا کر کے گناہوں سے پاک کرتا ہوں۔“ پس مصیبت اور عذاب وہ دوائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماریوں کے ازالے کے لئے مقرر فرمائی ہیں جس کا زالہ آگ ہی کر سکتی ہے۔ آگ اس کے لئے سب سے بڑا علاج ہے پس جو شخص دنیا میں علاج کرا لے تو آخرت میں اس کو علاج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ورنہ پھر اس کو اس کی بیماری کے مطابق دوا کی ضرورت پڑے گی۔

(۱۵) پندرہویں وجہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال حکمت اور رحمت اور عدل و مصلحت سے خالی نہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نہ کوئی عبث کام کرتا ہے اور نہ ظلم کرتا ہے اور نہ اس کا کوئی فعل باطل ہوا کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ایسے ہی منزہ ہیں جیسے کہ تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہیں جب یہ بات ثابت ہوگئی تو ان کو عذاب دینا اس کی رحمت ہے تاکہ ان سے خبث کا زالہ فرما کر طہارت کی تکمیل کی جائے جب عذاب ایک حکمت کے تحت ہے جب وہ مطلوب حکمت حاصل ہو جاتی ہے تو عذاب بھی ختم ہو جاتا ہے۔

(۱۶) معذبین کے حق میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت میں پیدا فرمایا اور اپنی رحمت میں انکی تربیت کی اور اپنی رحمت ہی کی وجہ سے ان کو روزی دی اور عاقبت بخشش اور اپنی رحمت ہی کی وجہ سے ان کی طرف پیغمبر بھیجے پس عذاب کے اسباب تو رحمت کے اسباب کے بعد ان پر چھاگئی چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے حق میں اس کے غضب پر غالب رہی اسی وجہ سے آپ کفار کے بچوں کو قابل رحم سمجھتے ہیں جو کوئی ان کو دیکھتا ہے تو ان پر رحم اور شفقت کرتا ہے اور اسی وجہ سے ان کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و عافیت اور آزمائش ہر حال میں ان کی طرف سبقت کرنے

والی ہے جب رحمت ان کی طرف سبقت کرتی ہے تو اس کا اثر بالکل ختم نہیں ہوتا غضب اور ناراضگی کا اثر تو عارضی اور کسی سبب کی وجہ سے ہوتا ہے تو حاصل یہ نکلا کہ اثر اور اثر رحمت عذاب اور اثر عذاب پر غالب رہتا ہے۔

(۱۷) اللہ تعالیٰ عذاب کے بارے میں خبر دے چکے ہیں (انہ عذاب یوم عظیم) و عذاب یوم عظیم و عذاب یوم الیم) (آفت ایسے دن کی جس میں راہ نہیں خلاصی کی 'عذاب بڑے دن کا' درد ناک دن کا عذاب) جب کہ نعمتوں کے بارے میں یہ نہیں بتلایا کہ وہ ایک دن کی نعمتیں ہیں یا ایک جگہ کی صحیح بخاری میں قیامت کے دن کا اندازہ پچاس ہزار سال سے ثابت ہے ان میں عذاب پانے والوں کی ٹھہرنے کی مدت ان کے جرائم کے اعتبار سے ہوگی۔

(۱۸) اس میں کوئی شک نہیں کہ جنت پاکیزہ مقام ہے اس میں پاکیزہ شخص ہی داخل ہو گا اس وجہ سے ان کو خبث اور جہنم کے درمیانی پل پر رکوا کر دنیائی مظالم کا ایک دوسرے سے قصاص دلویا جائے گا۔ یہاں تک کہ جب خوب پاک صاف ہو جائیں گے تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔

(۱۹) انیسویں وجہ جس بات کی وضاحت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے لئے ایک دوسری مخلوق نئی پیدا فرما کر جنت میں ٹھہرائیں گے جبکہ انہوں نے ایک ذرہ بھی نیک عمل نہیں کیا ہو گا اور جنت ان کا بدلہ ہو گا۔ تو جب یہ نفوس عذاب میں مبتلا ہوں گے اور اپنی انتہا کو پہنچے گی تو ان میں ذلت اور انکساری پیدا ہوگی تو یہ اپنے رب اور پیدا کرنے والے کی حمد کا قرار کریں گے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے پورے عدل و انصاف سے پیش آئے ہیں اور اس حالت میں ان پر آسانی تھی ورنہ اگر وہ چاہتے تو اس سے سخت عذاب دیتے اور یہ عذاب ان کے خباث کے ازالے کے لئے ہو گا تو جب وہ خباث ذلت اور انکساری میں تبدیل ہو جائیں گے تو اس کی حکمت میں یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ دائمی عذاب میں رہیں جب ان کا شرخیر سے اور شرک توحید سے اور تکبر ذلت سے تبدیل ہو جائے۔ اور یہ قاعدہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد (ولو ردوا لعادوا لما نھو عنہ) (اگر پھر بھی جاویں تو پھر بھی وہی کام کریں جس سے منع کئے گئے تھے) سے نہیں ٹوٹا اس لئے اس میں عذاب پہلی کی حالت کا بیان ہے۔ وہ عذاب جو ان کے خباث کو زائل

کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا گے وہ دوزخ پر پس کہیں گے۔ اے کاش ہم ونكون من المثومين. بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل ولوردوا العادوا ر ب کی آیتوں کو اور ہو جاویں ہم ایمان لما نهوا عنه وانهم لكاذبون (انعام) والوں میں۔ کوئی نہیں بلکہ ظاہر ہو گیا جو چھپاتے تھے پہلے اور اگر پھر بھیج دیئے جاویں تو پھر بھی وہی کام کریں جس سے منع کئے گئے تھے بیشک وہ جھوٹے ہیں۔

(۲۷-۲۸)

یہ اس وقت کی حالت کا بیان ہے جبکہ عذاب نے ان سے خباث نہیں نکالے ہوں گے۔ لیکن جب عذاب میں کئی حقب رہیں گے تو پھر یہ ممتنع ہے کہ اتنی طویل مدت عذاب میں رہنے کے بعد بھی ان میں کبر اور شرک اور خبث باقی رہے۔ طبرانی نے اپنے معجم میں ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا (الحقب خمسون الف سنة) حقب پچاس ہزار سال کا ہوتا ہے۔

(۲۰) صحیح بخاری کی حدیث شفاعت میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ "اللہ عزوجل فرماتے ہیں فرشتے انبیاء اور مومن شفاعت کریں گے صرف رحم الراحمین ہی باقی رہ جائے گا۔ چنانچہ وہ جنم سے مٹھی بھر کر ایسی قوم کو نکالے گا جنہوں نے کبھی بھی کوئی نیک عمل نہیں کیا ہو گا اور وہ جنم میں کونلہ بن چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے دروازے کے پاس والی نہر میں ڈالیں گے جس کو نہر الاحیوة کہا جاتا ہے تو یہ اس کے کنارے ایسے آگ پڑیں گے جیسا کہ دانہ آگتا ہے۔"

جنتی کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے وہ عذاب کردہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر عمل کئے جنت میں داخل فرمایا "ان سب کو آگ نے جلایا ہو گا ان کے بدن میں کوئی جگہ ایسی باقی نہیں رہے گی جہاں آگ نہ پہنچی ہو بالکل کونلہ بن چکے ہوں گے۔ سیاق کا ظاہر یہ ہے کہ ان کے

دلوں میں خیر کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بہت ساری مہذوق کو نکالیں گے۔ ”پھر فرشتے کہیں گے اے ہمارے رب ہم تو ان میں کوئی بھلائی نہیں جانتے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ فرشتوں، مومنوں اور انبیاء نے شفاعت کی اب صرف رحم الراحمین کی ذات ہی باقی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم سے ایک مٹھی بھریں گے جس میں ایسی قوم کو نکالیں گے جنہوں نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا ہو گا۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جہنم سے ہر اس شخص کو نکالو جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا ہو یا کسی ایک مقام میں مجھ سے ڈرا ہو“ اب ایسا کون ہے جو پوری عمر ازاو ل تا آخر ایک دن بھی اللہ کو یاد نہ کرے اور نہ کسی ایک گھڑی میں اس سے ڈرے۔

(۲۱) جب بندہ حقیقی طور پر اپنے گناہوں کا قرار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائیں گے اور یہی چیز سبب رحم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ پر رحم کا ارادہ فرماتے ہیں تو گناہوں کے اعتراف کی بات ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ مجہم طبرانی میں ابو امامتہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ”فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب کے بعد جنت میں داخل ہونے والا وہ شخص ہو گا جو پل صراط پر الٹا پلٹتا ہوا چلے گا اس لڑکے کی طرح جس کا والد اس کو مارنا چاہتا ہو اور وہ بھاگ کر اس سے بھاگ رہا ہو اور وہ اپنے عمل میں سعی کرنے سے عاجز بن چکا ہو۔ پس یہ آدمی عرض کرے گا اے میرے پروردگار مجھے جنت میں پہنچا دیں اور جہنم سے نجات دلا دے۔ اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے میرے بندے اگر میں نے تجھے جہنم سے نجات دیدی اور تجھے جنت میں داخل کر دیا تو آپ میرے سامنے اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کر لیں گے؟ عرض کرے گا جی ہاں اے میرے رب تیری عزت اور جلال کی قسم اگر تو نے مجھے جہنم سے نجات دیدی تو میں آپ کے سامنے اپنے گناہوں اور خطاؤں کا ضرور اقرار کروں گا اس کے بعد پل پار کر لے گا۔ لیکن یہ اپنے دل میں کہے گا کہ اگر میں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کر لوں گا تو وہ مجھے دوبارہ جہنم میں لوٹا دیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہو گا میرے بندے میرے سامنے اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کر لے تاکہ میں اس کو بخشا دوں اور آپ کو جنت میں داخل کر دوں۔

عرض کرے گا تیری عزت کی قسم نہیں میں نے تو کبھی کوئی گناہ نہیں کیا اور نہ مجھ سے کبھی کوئی خطا سرزد ہوئی۔ ارشاد ہو گا کہ میرے پاس آپ کے خلاف گواہ موجود ہیں یہ سن کر وہ دائیں بائیں دیکھنے لگے گا تو کوئی اس کو نظر نہیں آئے گا۔ عرض کرے گا اے میرے رب اپنا گواہ پیش فرمائیں۔ چنانچہ اس کا چہرہ اس کے گناہ بیان کرنا شروع کر دے گا جب بندہ یہ منظر دیکھے گا تو عرض کرے گا اے رب تیری عزت کی قسم میرے پاس تو اس سے بڑھ کر بھی بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ارشاد ہو گا۔ میرے بندے مجھے اس کا زیادہ علم ہے۔ میرے سامنے اقرار کرتا جاتا کہ میں اس کو معاف کر دوں اور آپ کو جنت میں داخل کر دوں۔ چنانچہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول ﷺ ہنس پڑے حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا اپنے سامنے گناہوں کا اقرار چاہتے ہیں۔ اور خضوع اور تذلل چاہتے ہیں۔ جنسی جب تک اس حقیقت سے ناواقف ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے بھی محروم رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو یہ بات اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس سے قاصر نہیں ہے اور نہ اس میں اس کے اسماء اور صفات کی تنقیص ہے۔ اور اس نے خبر دی ہے کہ وہ جو کچھ چاہتے ہیں کرتے ہیں۔

(۲۲) اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ کے ارتکاب پر بھی خلود کا اطلاق کر کے اس کو تابید سے بھی مقید فرمایا۔ حالانکہ یہ اذق طامع عذاب کے منافی نہیں۔ منجملہ ان میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَحِزًّا جَهَنَّمَ أَوْ رَجُلًا كَفَّارًا يَكْفُرًا يَكْفُرًا
حَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ أَسْ كِي سِزَادُوزْخِ هِيْ پَرَا رِيْ هِيْ گَا سِيْ مِيْ اُوْر
وَاعْدَلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
اللہ کا اس پر غضب ہوا اور اس کو لعنت کی
اور اس کے واسطے تیار کیا بڑا عذاب۔
(سورۃ نساء ۹۳)

اور یہ حدیث بھی ہے۔

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده
يتوجأ بها في نار جهنم خالدًا فيها
ابدًا.
جو شخص اپنے کو دھار دار چیز سے ذبح کرے
تو وہ چیز اس کی ہاتھ میں ہوگی جس سے وہ جہنم
ابدًا.

کی آگ میں ہمیشہ رہ کر اپنے کو چھیرتا رہے گا۔

اسی طرح خود کشی کرنے والے کے متعلق دوسری حدیث ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے نفس کے بارے مجھ سے سبقت لے گیا اس لئے میں نے بھی اس پر جنت حرام کر دی۔

فيقول الله تبارك وتعالى بادرني
عبدى بنفسي حرمت عليه الجنة

اور سب سے بڑھ کر یہ آیت ہے۔

اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو اس کے لئے آگ ہے جہنم کی ہمیشہ رہیں گے اس میں۔

ومن يعص الله ورسوله فان له
نار جهنم خالدين فيها ابداً.

یہ ایسی وعید ہے جو ”خلود“ اور ”تابید“ سے مقید ہے جبکہ بندے کی طرف سے کسی سبب سے اس کا انقطاع بھی قطعی ہے۔ وہ سبب توحید ہے تو اس طرح جہنمہوں کی وعید عام کا انقطاع بھی ممتنع نہیں ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے رحم کرنا اور یہ کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب رہے گی۔ اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کے رحم کا اندازہ ہوتا تو وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوتا۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں حضور ﷺ کا ارشاد ہے۔

خلق الله الرحمة يوم خلقها مائة رحمة (وقال في آخره) فلو يعلم الكافر
بكل الذي عند الله من الرحمة لم يسبها من الجنة. ولو يعلم المسلم بكل
الذي عند الله من العذاب لم يامن من النار.

(۲۳) اگر اللہ کی جانب سے اس بات کی صریح اطلاع آتی کہ جہنم کے عذاب کی کوئی انتہا نہیں اور وہ ابدی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے وعید ہے وعدہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وعید کے بارے میں تمام اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت عفو اور درگزر ہے۔ وعید اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کی مرضی ہے پورا لے لیں یا چھوڑ دے۔ حالانکہ جب ایک شریف اپنا حق پورا نہیں لیتا تو اکرم الاکر میں ذات کیسے اپنا حق پورا لے گا؟ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر صراحتاً یہ بتلا دیا ہے کہ وہ وعدے کی خلاف

ورزی نہیں کرتے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی عمل پر ثواب دینے کا وعدہ فرماتے ہیں تو اس کو ضرور پورا فرماتے ہیں اور جس کو کسی عمل پر عذاب کی دھمکی دیدیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کو اختیار ہوتا ہے (چاہے عذاب چاہے معاف فرمادیں۔)

(۲۴) اس فانی اور باطل دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کا پہلو غالب ہے ورنہ دنیا کا وجود ہی باقی نہ رہتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ولو یؤأخذ اللہ الناس بما کسبوا ماترن اگر پکڑ کرے اللہ لوگوں کی ان کی کمائی پر نہ علی ظہرہا من دابة۔
چھوڑے زمین کی پیٹھ پر ایک بھی چلنے والا۔

اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع نہ ہوتی اور اس کا عفو اور درگزر نہ ہوتا تو نظام عالم قائم نہ ہوتا جب اس دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے اور اس کا پہلو غالب ہے۔ مومن اور کافر نیک اور فاجر باوجود اسباب عذاب کے سب کو شامل ہے۔ تو آخرت میں رحمت کا پہلو کیوں غالب نہیں ہو گا جبکہ اس کی رحمت وہاں دنیا کی ہنس بہت ننانوے گنا زیادہ ہوگی۔

(۲۵) اللہ تعالیٰ کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے اور اپنے پیغمبروں کی صداقت ظاہر فرمائیں گے اور یہ کہ ان کے دشمن جھوٹے تھے اور ان کے دشمنوں کے حق میں اپنا عادلانہ فیصلہ ظاہر فرماتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وقضی بینہم با الحق وقیل الحمد للہ اور فیصلہ ہوتا ہے ان میں انصاف کا اور یہی رب العالمین۔
بات کہتے ہیں کہ سب خوبی ہے اللہ کو جو رب
سورہ زمر، ۷۵ سارے جہاں کا۔

تعمیم اور اطلاق کی وجہ سے قول کا فاعل حذف فرمایا کہ ہر ناطق کے دل و زبان پر یہ جاری ہو سکتا ہے۔ حسن صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جنم میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ انکے دل اللہ کی حمد سے بھرے ہوئے ہوں گے یہی چیز ہے جس نے اس ارشاد میں بھی حذف فاعل کو اچھا عمدہ بنایا ہے۔

قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا حکم ہوئے کہ داخل ہو جاؤ دروازوں میں
سورۃ زمر - ۷۲ دوزخ کے سدا رہنے کو اس میں۔

یعنی سب لوگ اس کے قائل ہوں گے کیونکہ ان کے حق میں یہ عادلانہ فیصلہ ہو گا اور
اللہ تعالیٰ کی حکمت اور حمد کا متقاضی ہو گا جبکہ جنتیوں کے متعلق ارشاد ہے۔

وقال لهم خزنتمہا سلم علیکم طبتم اور کہنے لگیں ان کو داروغہ اس کے سلام
فادخلوها خالدین سورۃ زمر - ۷۳ پنچے تم پر تم لوگ پاکیزہ ہو سو داخل ہو جاؤ
اس میں سدا رہنے کو۔

اس لئے کہ جنتی اپنے اعمال کے سبب جنت کے مستحق نہیں بنے ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ
کی رحمت اور فضل اور درگزر نے ان کو مستحق بنایا اور حکمت الہی بھی یہ نہیں ہے کہ شرور ہمیشہ
باقی رہیں اور کبھی منقطع نہ ہوں ورنہ پھر تو خیر اور شر اس میں برابر ہو جائیں گے اس مسئلہ میں
یہ انتہاء ہے جہاں تک فریقین کے قدم پنچے شاید کے اس کتاب کے علاوہ کہیں اور آپ کو نہ مل
سکیں اگر کوئی کہے کہ عظیم الشان مسئلہ میں تمہارے قدم یہاں تک کیسے پنچے جبکہ یہ مسئلہ دنیا
سے کئی گنا بڑا ہے؟

جواب

ان ربک فعال لما یرید (سورۃ ہود - ۱۰۷) بیشک تیرا رب کر ڈالتا جو چاہے۔

یہ وہ انتہاء ہے جہاں تک امیر المؤمنین علی بن ابن طالب رضی اللہ عنہ کے قدموں کی رسائی
ہوئی کہ انہوں نے اہل جنت کا جنت میں داخل ہونا اور جہنمیوں کا جہنم میں داخل ہونا اور
وہاں جو کچھ ان کو ملنا ہے ذکر کر کے فرمایا اس کے بعد اللہ جو چاہیں گے کریں گے بلکہ یہاں تک
تمام مخلوق کے قدم پنچ کر رک گئے ہیں اس کتاب میں جو کچھ ہے اور خاص کر یہ مسئلہ جو ہم نے
ذکر کیا اگر حق اور درست ہے تو اللہ کی جانب سے ہے اور اس کا احسان ہے اور جو کچھ اس میں
خطا میں ہیں تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔

اللہ ورسول اس سے بری ہیں اللہ تعالیٰ ہر کہنے والے کے دل اور اس کے ارادے
سے واقف ہیں واللہ اعلم۔

اڑسٹھواں باب

سب سے آخری جنتی کا جنت میں داخل ہونے کا بیان

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دوزخ سے نکلنے والے آخری آدمی اور آخری جنتی کو جانتا ہوں ایک آدمی دوزخ سے گھٹنوں کے بل چلتا ہوا نکلے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت میں داخل ہو جاوہ آئے گا تو اس کو ایسا معلوم ہو گا کہ جنت بھری ہوئی ہے وہ کہے گا اے پروردگار میں نے اس کو بھرا ہوا دیکھا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا اور جنت میں داخل ہو جا تیرے لئے دنیا اور اس کے مثل دس گنا ہے وہ کہے گا کیا تو مجھ سے ٹھنھا کرتا ہے تو مجھ سے استہزا کرتا ہے۔

جب کہ تو بادشاہ ہے (راوی کہتا ہے) میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ یہ کہہ کر مسکرائے یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ اور فرمایا کہ یہ مرتبہ کے اعتبار سے ادنیٰ جنتی ہو گا صحیح مسلم میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنم سے نکلنے والا آخری آدمی اور جنت میں داخل ہونے والے آخری شخص کو جانتا ہوں۔ چنانچہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا ارشاد ہو گا کہ اس پر اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو اور بڑے گناہ اس سے (چھپا دو) تو اس پر اس کے چھوٹے گناہ پیش کر کے پوچھا جائے گا کہ تو نے فلاں دن فلاں فلاں عمل کیا تھا۔ عرض کرے گا ہاں انکار کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا اور وہ بڑے گناہوں کے پیش کرنے سے ڈرتا ہو گا پھر اس سے کہا جائے گا کہ تجھے ایک برائی کے بدلے ایک نیکی ملے گی کہے گا اے رب میں نے تو بہت سارے گناہ کئے جس کو میں یہاں دیکھ پاتا (راوی کہتا ہے) میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہنس پڑے حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوئے۔

ابو امامتہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری آدمی جو جنت میں داخل ہو گا تو وہ پل پر پیٹ اور پیٹ ہکے بل التا پلتا رہے گا۔ جیسا کہ لڑکا جس کو اس باپ

مار رہا ہو اور اپنے کام سے عاجز آنے کی وجہ سے اس سے بھاگ رہا ہو۔ فرمایا کہ وہ آدمی کہے گا کہ رب مجھے جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے میرے بندے اگر میں آپ کو جہنم سے نجات دیدوں اور جنت میں داخل کر دوں تو آپ میرے سامنے اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کریں گے؟ بندہ کہے گا ہاں اے رب تیری عزت اور جلال کی قسم اگر آپ نے مجھے جہنم سے نجات دیدی تو میں آپ کے سامنے اپنے گناہوں اور خطاؤں کا ضرور اقرار کروں گا۔ چنانچہ وہ پل پار کرے گا اپنے دل میں کہے گا کہ اگر میں نے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کر لیا تو وہ مجھے دوبارہ جہنم میں لوٹا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے میرے بندے میرے سامنے اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کر لے تاکہ میں اس کو بخش دوں اور تجھے جنت میں داخل کر دوں۔ بندہ کہے گا نہیں تیری عزت اور جلال کی قسم میں نے کبھی بھی گناہ نہیں کیا اور نہ مجھ سے کوئی خطا سرزد ہوئی۔ ارشاد ہو گا میرے بندے تیرے خلاف میرے پاس گواہ موجود ہیں۔ (یہ سن کر) وہ دائیں بائیں دیکھے گا تو کوئی اس کو نظر نہیں آئے گا کہے گا اے رب اپنا گواہ پیش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے چمڑے کو گویا کر کے اس کے گناہ بتائے گا۔ جب بندہ یہ منظر دیکھے گا تو عرض کرے گا اے میرے رب تیری عزت اور جلال کی قسم میرے پاس تو اس سے بڑھ کر بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ارشاد ہو گا میرے بندے میں اس کو تجھ سے اچھی طرح جانتا ہوں آپ میرے سامنے اس کا اقرار کرے میں اس کو بخش دوں گا اور تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ چنانچہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ (راوی کہتے ہیں) پھر رسول اللہ ﷺ ہنس پڑے حتیٰ کہ آپ آخری کے دندان (مبارک) ظاہر ہوئے، فرمایا کہ یہ ادنیٰ درجہ کا جنتی ہو گا اس سے اونچے درجے والے جنتی کے ساتھ کیا معاملہ ہو گا۔ صحیح مسلم میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا

”آخری وہ شخص جو جنت میں داخل ہو گا وہ کبھی پل صراط پر چلے گا اور کبھی منہ کے بل گرے گا۔ اور کبھی آگ اسکو جھلسا رہی ہوگی جب وہ پل عبور کرے گا تو مڑ کر جہنم کی طرف دیکھے گا پھر کہے گا برکت والی ہے وہ ذات جس نے مجھے نجات دی یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیز

عطا فرمائی جو اولین اور آخرین میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ اس کو ایک درخت نظر آئے گا۔ کہے گا اے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کروں اور اس کے چشمے کا پانی پیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ”اے آدم کے بیٹے اگر میں نے تجھے یہ دیدیا تو اس کے علاوہ اور مانگے گا کہے گا نہیں اے رب، وہ عمدہ پیمان کرنے لگے گا کہ اس کے علاوہ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو معذور سمجھے گا اس لئے کہ یہ وہ چیزیں دیکھے گا جس پر یہ صبر نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو درخت کے قریب کر دے گا تو یہ اس سے سایہ حاصل کرے گا اور اس کا پانی پیئے گا۔ پھر اس کے سامنے دو سرا درخت ظاہر ہو گا جو پہلے والے سے زیادہ خوبصورت ہو گا کہے گا اے رب مجھے اسکے قریب کر دے۔ تاکہ میں اس کے چشمے کا پانی پیوں اور اس کا سایہ حاصل کر لوں اس کے علاوہ آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا ارشاد ہو گا اے آدم کے بیٹے کیا تو نے مجھ سے اس کا عمدہ پیمان نہیں کیا تھا کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اگر میں نے تجھے اس کے قریب کیا شاید کہ تو مجھ سے اور مانگے۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات پر عمدہ پیمان کرے گا کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو معذور سمجھے گا اس لئے کہ اس کو وہ چیزیں نظر آئیں گی جس پر وہ صبر نہیں کر سکے گا اس لئے کہ اس کو وہ چیزیں نظر آئیں گی جس پر یہ صبر نہیں کر سکے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے قریب کر دیں گے یہ اس کا سایہ حاصل کرے گا اور اس کے چشمے سے پیئے گا پھر اس کے سامنے جنت کے دروازے کے پاس ایک درخت ظاہر ہو گا جو پہلے والے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہو گا کہے گا اے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کروں اور اس کے چشمے کا پانی پیوں اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا ارشاد ہو گا اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے معاشرہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگے گا؟ کہے گا اے رب کیوں نہیں؟ بس یہ ایک سوال ہے اسکے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو معذور قرار دے گا اس لئے کہ اس کو وہ چیزیں نظر آئیں گی جس پر یہ صبر نہیں کر سکے گا۔ جب یہ اس کے قریب جائے گا تو جنتیوں کی آوازیں سنے گا۔ کہے گا اے رب مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ ارشاد ہو گا اے ابن آدم تجھے کیا چیز مجھ سے راضی کرے گی کیا

یہ بات تجھے راضی کر دے گی کہ میں تجھے دنیا اور اتنا اس کے ساتھ اور دیدوں؟ کسے گا اے رب کیا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں حالانکہ آپ رب العالمین ہیں؟ (راوی کہتا ہے) رسول اللہ ﷺ ہنس پڑے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ کس چیز سے آپ ہنسے؟ فرمایا رب العالمین کے مسکرانے کی وجہ سے۔ جس وقت اس شخص نے کہا مجھ سے تو مذاق کرتا ہے اور تو رب العالمین ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں تجھ سے استہزاء نہیں کرتا بلکہ میں جو کرنا چاہوں اس پر قادر ہوں۔

صحیح مسلم میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ سب سے ادنیٰ درجے کا جنتی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک آدمی ہے جس کو اہل جنت کے جنت میں داخل ہونے کے بعد لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا۔ عرض کرے گا اے رب کیسے داخل ہو جاؤں جبکہ لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں میں بسنے لگے ہیں اور جو کچھ لینا تھا لے چکے ہیں۔ اسے کہا جائے گا کیا تو اس پر راضی ہے کہ تیرے لئے اتنا ہی جتنا کہ دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے لئے ہوا کرتا ہے؟ عرض کرے گا میرے رب میں راضی ہوں پھر اس سے کہا جائے گا تیرے لئے بھی اور اس کے ساتھ پانچ گنا اور پانچویں مرتبہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تیرے لئے یہ بھی اور اس کے ساتھ دس گنا اور بھی اور جو تیرا دل چاہے اور جو تیری آنکھ کو اچھا لگے۔ پھر کہے گا اے رب میں راضی ہو چکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سب سے اونچے درجے کا جنتی کون ہو گا فرمایا کہ وہ جس کے جنت کے درخت میں نے اپنے ہاتھ سے لگائے اور ان پر مہر لگا دی نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے ان کے متعلق سنا ہے اور نہ کسی بشر کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔

جو کہ کتاب اللہ کے اس آیت کا مصداق ہے۔

فلا تعلم نفس ما أخفی لهم من قرۃ العین۔ سو جی کو معلوم نہیں جو چھپا دھری ہے ان

کے واسطے آنکھوں کی ٹھنڈک۔

(سورۃ سجدہ ۱۷)

انہتر ہواں باب

یہ ایک جامع باب ہے اور اس میں مختلف فصلیں ہیں
جن میں ان باتوں کا بیان ہے جو گذشتہ
ابواب میں نہیں گزرے ہیں

فصل ۱جنتیوں کی زبان

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت اس حال میں جنت میں داخل ہوں گے کہ ان کا قد لبائی میں آدم کے قد کی طرح فرشتے کے ہاتھ سے ساٹھ ہاتھ کا ہو گا۔ اور حسن میں یوسف علیہ السلام اور عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تینتیس سال کے ہوں گے اور زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی سرگیں آنکھوں والے اور بدن پر بال نہیں ہوں گے۔

فصل ۲جنت اور دوزخ کا مقابلہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت اور دوزخ نے آپس میں جھگڑا کیا جنت نے کہا مجھ میں مسکین اور ضعیف داخل ہوں گے دوزخ نے کہا مجھ میں شرکش اور متکبر داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے کہا تو میرا عذاب ہے میں تیرے ذریعہ جس سے چاہوں بدلہ لوں گا اور جنت سے کہا تو میری رحمت ہے تیرے ذریعہ جس پر چاہوں گارحم کروں گا۔

فصل ۳

جنت میں جگہ باقی بچے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے نئی مخلوق پیدا فرمادیں گے جبکہ جہنم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو گا

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روای ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا دوزخ برابر کھتی رہے گی ”هل من مزید“ (کیا کچھ اور بھی ہے؟)

یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھے گا تو وہ کہے گی ”قط قط“ بس بس تیری عزت کی قسم اور جنت میں برابر جگہ بچتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک نئی مخلوق پیدا فرما کر اس میں ٹھہرا دیں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بخاری کے الفاظ یہ ہیں ”کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے لئے جتنا چاہیں گے لوگ پیدا کر کے اس میں ڈال دیں گے۔ وہ پھر بھی کہے گی ”هل من مزید“ یہ صحیح نہیں اس لئے کہ یہ بعض راویوں سے غلطی ہوئی ہے حدیث کے الفاظ ان پر الٹا ہو گئے۔ روایات صحیحہ اور انصوص قرآن اس کی تردید کرتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں کہ وہ جہنم کو شیطان اور اس کے اتباع سے بھریں گے اور جہنم میں اس شخص کو عذاب دیا جائے گا جس پر جنت قائم ہو چکی ہیں اور اس نے رسولوں کی تکذیب کی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

كلما القى فيها فوج سألهم خزنتها ألم جس وقت پڑے اس میں ایک گروہ پوچھے
ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير ان سے دوزخ کے داروغہ کیا نہ پہنچا تھا
فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء . تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا۔ وہ بولیں

کیوں نہیں ہمارے پاس پہنچا تھا ڈر سنانے والا
(سورة الملك ۸-۹)

پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا نہیں اتاری اللہ نے
کوئی چیز۔

فصل ۴

اہل جنت نہیں سوئیں گے

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیند موت کا بھائی ہے اور اہل جنت نہیں سوئیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنتی سوئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند موت کا بھائی ہے اور اہل جنت نہیں سوئیں گے۔

فصل ۵

بندے کا جنت ہی میں نیچے کے درجے سے اوپر والے درجے کی طرف چڑھنا

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیشک اللہ جنت میں بندے کے درجات بلند فرمائیں گے۔ وہ عرض کریں گے اے رب یہ میرے لئے کہاں سے؟ ارشاد ہو گا۔ یہ تیرے لئے تیرے بیٹے کے استغفار کرنے سے ہوئے۔

فصل ۶

مومنوں کے اولاد کو ان کے ساتھ درجے میں ملایا جائے گا
اگرچہ انہوں نے ان جیسا عمل نہیں کیا ہو گا
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

اور جو لوگ یقین لائے اور ان کی راہ پر چلے
ان کی اولاد ایمان کے سات پہنچا دیا ہم نے
ان تک ان کی اولاد کو اور گھٹایا نہیں ہم نے
ان سے ان کیا زرہ بھی۔ ہر آدمی اپنی کمائی
میں پھنسا ہے۔

والذین امنوا و اتبعتم ذریعتہم بایمان
الحقنا بہم ذریعتہم وما التئہم من
عملہم من شیء کل امری بما کسب
رہین۔ (سورۃ الطو ۲۱)

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن کے اولاد کو اس کے ساتھ درجے میں اونچا فرمائیں گے اگرچہ وہ عمل میں ان سے کم تھے، تاکہ اس کی وجہ سے ہم اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر لیں۔ پھر آپ ﷺ نے مذکورہ آیت تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جو کچھ انبیاء علیہم السلام کو دیا اس کی وجہ سے ہم ان کے آباء کے ثواب میں کمی نہیں کریں گے۔

ابن مردویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی تفسیر میں حدیث نقل کی ہے شریک کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ حدیث نبی کریم ﷺ سے نقل کی ہے فرمایا کہ جب آدمی جنت میں ہو گا تو اپنے ماں باپ بیوی اور اولاد کے بارے میں پوچھے گا تو اسے کہا جائے گا کہ وہ لوگ تو آپ کے درجے یا آپ کے عمل کو نہیں پہنچ سکے۔ عرض کرے گا کہ میں نے عمل اپنے لئے اور ان کے لئے کیا تھا۔ چنانچہ ان کی اولاد اس کے ساتھ ملانے کا حکم دیا جائے گا۔ اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مذکورہ آیت آخر تک تلاوت فرمائی۔ پھر مفسرین نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ آیا اس میں اولاد سے کو سنی اولاد مراد ہیں بالغ یا نابالغ؟ یا دونوں؟ اس میں تین اقوال ہیں علماء کی۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور ہم نے ان کی اولاد ایمان میں ان کا تابع بنایا تو انہوں نے ان کی ایمان لایا تو ہم نے درجہ جات میں بھی ان کو ان کے ساتھ ملایا اور ان لوگوں کی قرأت اس پر دلالت کرتی ہے جنہوں نے آیت کو اس طرح پڑھا (وَاتَّبَعْتَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ) (ان کی اولاد نے ان کی تابعداری کی) یعنی اتباع کی وجہ سے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بالغ اولاد پر بھی ”ذریعت“ کا اطلاق کیا ہے۔

وَمَنْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأُوْدُ وَاٰلِهِمْ (سورة الانعام ۸۴) اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان کو۔

ذُرِّيَّتَهُمْ مَنْ حَمَلْنَا مِنْ نُوْحٍ (سورة الاسراء ۳) تم جو اولاد ہو ان لوگوں کی جن کو چڑھایا ہم

نے نوح کے ساتھ

اور ہم ہوئے ان کے اولاد ان کے پیچھے تو کیا تو ہم کو ہلاک کرتا ہے اس گام پر جو کیا گمراہوں نے۔

وَكُنَّا ذُرِّيَّتَهُمْ مَنْ بَعْدَهُمْ أَفْتَهَلِكُنَا بِمَا فَعَلَ

الْمُبْطِلُوْنَ. (سورة الاعراف ۱۷۳)

یہ قول تو بڑوں اور عقلمندوں کا ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہے ”کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی اولاد کو ان کے درجے تک پہنچا دے تاکہ ان کے ذریعہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے“ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اپنے اعمال ہی سے جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے لیکن ان کے اعمال اس قابل نہیں ہوں گے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے آباء کے درجوں کو پہنچ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے باوجود ان کو ان کے پاس پہنچا دے گا اور انہوں نے کہا کہ پھر یہ بات بھی ہے کہ ایمان قول و عمل اور نیت کا نام ہے اور یہ بڑوں کا ہی معتبر ہے۔ اس توجیہ پر معنی یہ ہو گا کہ جب مومنوں کی اولاد بھی ان کی طرح ایمان لائیں گی تو اللہ تعالیٰ کو جمع فرمادیں گے۔ تابع ہونے کی یہی حقیقت ہے۔ اور یہ اسی طرح ہے جیسے کہ نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات بھی تبعہ ان کے درجے میں ہوں گی اگرچہ وہ اس درجے تک اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں پہنچ چکی ہوں گی۔ علماء کی دو سری جماعت کا کہنا ہے کہ یہاں ذریت سے مراد صغار ہیں آیت کے معنی یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لایا تو ہم نے ان کی اولاد کو ایمان میں ان کا تابع بنایا اگرچہ یہ ایمان میں چھوٹے ہیں جیسے کہ میراث ریت اور نماز جنازہ اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کے احکامات بھی اسی تابعداری کی وجہ سے ان پر جاری ہوتے ہیں۔ علاوہ ان چیزوں کے جن میں ان پر بالیقین کے احکام جاری ہوتے ہیں اور فرمایا اس توجیہ کے صحیح ہونے پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ بالغوں کے ثواب و عتاب کے حکم الگ ہیں اور اس بارے میں وہ مستقل ہیں اپنے والدین کے تابع نہیں ہیں اسی استقلالیٰ کی وجہ سے وہ نہ دنیا کے کسی حکم میں اپنے والدین کے تابع ہیں اور نہ ثواب و عتاب کے حکم میں اگر یہاں ذریت سے بالغ اولاد مراد لی جائے تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سب بالغ اولاد اپنے والدین کے درجے میں ہوں گے۔ اور تابعین کی بالغ اولاد بھی اپنے باپ کے درجے میں ہوں گے اور اسی طرح قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ہر بعد میں آنے والے اپنے سے پہلے والوں کے درجے میں ہوں گے۔

اس وجہ سے صحیح بات یہ ہے کہ یہ تبعان کے درجے میں ہوں گے جیسے کہ خدام اور عورتیں بھی اہل جنت کے درجے میں ہوں گے اگرچہ ان کا کوئی عمل نہیں ہو گا۔

علماء کی تیسری جماعت کہتی ہے کہ جن میں واحدی بھی ہے کہ ذریت کو صغار اور کبار دونوں پر محمول کیا جائے اس لئے کہ بڑا تو اپنے ایمان سے باپ کی تابعداری کرتا ہے اور چھوٹا باپ کے ایمان کے ساتھ اس کی تعبیلماری کرتا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ذریت کا اطلاق چھوٹے بڑے واحد اور کثیر باپ بیٹے سب پر ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وایتمہ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلاک
المشعون یسین ۴۱
یعنی ان کے آباء کو۔
اور ایک نشانی ہے ان کے واسطے کہ ہم نے اٹھالیان کی نسل کو اس بھری ہوئی کشتی میں۔

اور اس طرح ایمان کا اطلاق ایمان تبعی اور ایمان کسی و اختیاری دونوں پر ہوتا ہے تبعی کے اطلاق کے مثال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تو آزاد کرے گردن ایک مسلمان کی) تو اگر کسی نے صغیر کو آزاد کیا تو جائز ہے۔ اس طرح ان کا کہنا ہے کہ سلف کے افعال بھی اسیر دلالت کرتے ہیں جیسے پیچھے ابن عباس رضی اللہ عنہما لاقول گزر چکا۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس آدمی کی اولاد ہوگی اور وہ جنت میں داخل ہو جائے تو اس کی اولاد کو اس کے ہاں پہنچایا جائیگا تاکہ ان کے ذریعے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اگرچہ وہ اس مرتبہ تک اعمال کی چھب سے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس کی اولاد کو جمع فرمانہ گئے جیسا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو ان کا جمع ہونا پسند تھا۔ شعبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اولاد کو ان کے آباء کے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل فرمانہ گئے۔ کلبی رضی اللہ عنہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ اگر آباء کا درجہ بیٹوں سے اونچا ہو تو اللہ تعالیٰ بیٹوں کو بھی آباء کے درجے تک پہنچا دیں گے۔ ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کو اپنے آباء جیسا جر دیا جائے گا اور آباء کے اجر میں اس سے کوئی کمی نہیں آئیگی۔ اور اس بات کے صحیح ہونے پر دو قرآتیں جو کہ دو آیتوں کے ہیں دلالت کرتی ہیں چنانچہ جنہوں نے اس طرح پڑھا۔ یہ ان بالغ اولاد کے حق میں ہے جن کے طرف فعل کی نسبت صحیح ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین

اتبعوہم باحسان۔

اور جو لوگ قدیم ہیں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور مدد کرنے والی
اور جوان کے پیرو ہونے کی کے ساتھ (توبہ - ۱۰۰)

اور جنہوں نے اس طرح پڑھا (واتبعنا ہم ذریعہ تمہم)

یہ ان صفار کے حق میں ہے جن کو حکم اللہ تعالیٰ نے ایمان میں اپنے آبائی کالبع بنایا۔
دونوں قرانیں درجات کی دونوں قسموں پر دلالت کرتی ہیں۔ اور صفار کے حق میں اس طرح
لازم نہیں آتا۔ کیونکہ ہر آدمی کے بچے اور اس کی اولاد اس کے ساتھ درجے میں ہوں گے۔
واللہ اعلم۔

فصل ۷

جنت بات کرے گی

چنانچہ جنت اور دوزخ کے مقابلے کے وقت مکالمے کی حدیث گذر چکا اور یہ حدیث
بھی گذر چکی ہے آپ ﷺ نے فرمایا جنت کہے گی اے پروردگار میری نہریں چلنے لگی ہیں اور
میرے پھل پک چکے ہیں پس میرے اہل (جنتیوں) کو جلدی لاؤ۔ سعید طائی فرماتے ہیں مجھے
اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو اسے کہا مزین ہو جا تو وہ مزین
ہوگی پھر اسے کہا بول تو بولی خوشخبری ہے اس شخص کے لئے جس سے اپ راضی ہو جائیں قتادہ
فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو اسے کہا بول جنت بولی ”مستقون کے لئے
خوشخبری ہے“ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ کہ
جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس میں ایسی نعمتیں پیدا فرمائیں جو نہ کسی آنکھ نے
دیکھی ہے اور نہ کسی کان نے سنی ہے اور نہ کسی بشر کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے پھر اس سے
فرمایا بول جنت بولی ”مومن کام نکال لے گئے“

فصل ۸

جنت کا حسن ہمیشہ بڑھتا رہے گا

کعب ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی جنت کی طرف نظر فرمائی تو اسے یہی کہا
کہ عمرہ بن جا اپنے اہل کے لئے تو جنت کا حسن دو بالا ہوتا رہے گا یہاں تک کہ جنتی اس میں

داخل ہو جائیں گے۔

فصل ۹

جنتی حوریں نسبت اپنے شوہروں کے

ان کی زیادہ مشتاق ہوں گی

اس بارے میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت گزر چکی ہے کہ جب دنیا کی کوئی عورت اپنے شوہر کو ایذا پہنچاتی ہے تو حوریں اس سے کہتی ہیں اس کو تکلیف نہ پہنچا قریب ہے کہ یہ تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آجائے اور عکرمہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں حوروں کی دعا گزر چکی ہے (اللهم اعنہ علی دینا و اقبل علی طاعتک) (اے اللہ! اپنے دین پر اس کی امداد فرمائی اور اپنی اطاعت پر اس کو متوجہ فرما) ابن ابی الدنیا ابو سلیمان سے نقل کر کے فرماتے ہیں ”کہ عراق میں ایک عبادت گزار نوجوان تھا جو اپنے دوست کے ہمراہ مکہ کی طرف نکلا، دوران سفر کہیں آرام کے لئے اترتے تو وہ نماز پڑھنے لگ جاتا اگر کھانا کھانے بیٹھتے تو وہ روزے دار ہوتا چنانچہ اس آنے جانے میں اس کے دوست نے اس پر صبر سے کام لیا لیکن جب وہ جدا ہونے لگا تو اس سے پوچھا اے بھائی مجھے بتا اس چیز پر آپ کو کس نے آمادہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں جنت کا ایک محل دیکھا جس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک چاندنی کی اور ایک کنگرہ زبرجد کا تھا اور ایک یاقوت کا تھا انکے درمیان ایک حور تھی زلف تیس لٹکائے ہوئی۔ جس پر سونے کا لباس تھا کہنے لگی ”میری طلب و جستجو میں کوشش کر اللہ کی قسم میں بھی جستجو میں ہوں“ اس جوان نے کہا جو کچھ آپ نے دیکھا یہ اسی کی طلب تھی۔ اس کے بعد ابو سلیمان نے فرمایا۔ یہ تو ایک حور کے طالب کا حال تھا اس شخص کا کیا حال ہو گا جو اس سے زیادہ کا طلب گار ہو۔

فصل ۱۰

جنت اور دوزخ کے درمیان موت کا ذبح ہونا

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وانذرهم يوم الحسرة اذ قضى
الامر وهم فى غفلة وهم
لا يؤمنون۔ (مریم ۳۹)

اور ڈرا ان کو افسوس کے دن سے جب فیصلہ
ہو جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ یقین
نہیں کرتے۔

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن
موت سفید مینڈھے کی شکل لائی جائے گی اور جنت اور دوزخ کے بیچ میں اس کو ٹھہرایا جائے
گا۔ پھر اعلان کیا جائے گا اے جنت والو تم اس کو پہنچاتے ہو؟ وہ اپنا سر اٹھائیں گے اور اس کو
دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں ہم پہنچاتے ہیں یہ موت ہے پھر اعلان کیا جائے گا اے دوزخ والو
تم اس کو پہنچاتے ہو وہ سر اٹھا کر دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں ہم پہنچاتے ہیں یہ موت ہے پھر حکم
ہو گا اور وہ مینڈھا ذبح کیا جائے گا پھر اعلان ہو گا۔ اے جنت والو تم کو ہمیشہ رہتا ہے کبھی موت
نہیں ہے اور اے دوزخ والو تم کو ہمیشہ رہتا ہے کبھی موت نہیں۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے یہ
آیت پڑھی۔ ”اور ڈرا ان کو افسوس کے دن سے جب فیصلہ ہو جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں
اور وہ یقین نہیں کرتے۔“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”جب اہل جنت
جنت میں اور جنسی جنم میں داخل ہو جائیں گے تو موت کو باندھ کر لایا جائے گا جنت اور جنم
کے درمیانی دیوار پر کھڑا کیا جائے گا پھر اعلان ہو گا اے جنتیو! (اعلان سن کر ڈرتے ہوئے جہاں
کے لگیں گے) پھر اعلان ہو گا اے جہنمیو! (اعلان سن کر وہ شفاعت کی امید پر خوش ہو کر
جھانکنے لگیں گے) پھر دونوں سے پوچھا جائے گا کیا تم اس کو جانتے ہو جنتی اور جنسی دونوں
جواب دیں گے کہ ہم نے پہچان لیا یہ وہ موت ہے جو ہم پر مقرر کی گئی تھی چنانچہ اس کو دیوار پر
لٹا کر ذبح کیا جائے گا پھر اعلان کیا جائے گا اے جنتیو! ہمیشہ رہو اس کے بعد موت نہیں۔ اے اے
جہنمیو! ہمیشہ رہو اس کے بعد موت نہیں“ اور یہ مینڈھا اور اس کا لٹانا اور ذبح کرنا اور
دونوں فریقوں کا اس کو دیکھنا کوئی خیال اور تمثیل نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ اس میں بہت
بڑی غلطی کر گئے ہیں کہ موت تو اعراض میں سے ہے اور اعراض کا جسم نہیں ہوتا چہ جائیکہ اس کو
ذبح کیا جائے لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ اعراض کو اجسام میں تبدیل

کریں۔ جن مشکلات کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ اس کا سبب رسول اللہ ﷺ کی مراد کو نہ سمجھنا ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے روایت ہے۔

تَجْمِيَةُ الْبَقْرَةِ وَالْإِمْرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
سورة بقرہ اور آل عمران آئیں گے گویا کہ وہ
کَانَهُمَا غَمَامَتَانِ۔
بادل ہیں

یعنی اللہ تعالیٰ ان سورتوں کی تلاوت کو بادلوں کی صورت دیں گے۔

اس طرح دوسری حدیث میں ارشاد ہے۔

ان ماتذکرون من جمال اللہ من تسبیحہ و تجمیہ و تمہیہ
یتعاطفن حول العرش لهن روى كدوى النحل يذکرن
بصاحبتهن۔

(ترجمہ) بے شک تم اللہ کی تسبیح و تجمیہ اور تمہیہ سے جو اس کی بڑائی
بیان کرتے ہو تو وہ کلمات عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اس حال میں کہ
ان کے لئے شہد کی مکھیوں کی طرح ہنہناہٹ ہوتی ہے جس سے اپنے پڑھنے
والے کا تذکرہ کرتے ہیں

اس طرح عذاب کے حدیث میں ہے کہ آدمی اعمال کو آدمی کی صورت دی جائے گی
جس کو وہ دیکھے گا۔ تو اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ تو وہ جواب دے گا میں تیرا نیک عمل ہوں
(اگر بد صورت آدمی ہوگی) تو وہ جواب دے گا ”میں تیرا برا عمل ہوں“ یہ حقیقت ہے خیال
نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اعمال کو اچھی یا بڑی بڑی صورت عطا فرمائیں گے اور قیامت
کے دن مومنوں کے آگے جو نور چلے گا وہ ان کا نفس ایمان ہو گا جس کو نور کی صورت دی گئی
ہوگی۔ چنانچہ اگر اس پر نص وارد نہ ہوتی تب بھی یہ بات معقول ہے اور نص کے بعد تو عقل
نقل دونوں سے مطابق ہوتی۔ قنادة رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے رسول اللہ ﷺ
نے ارشاد فرمایا۔

مومن جب قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل اچھی
صورت اور اچھی بشارت ہیں اس کے سامنے

وقال سعيد عن قتاده بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المثوم اذا خرج من قبره صور له عمله في صورة حسنة وبشارة حسنة فيقول له من انت؟ فوالله اني لأراك امراً الصديق فيقول أنا عملك فيكون له نوراً وقائداً الجنة واما الكافر اذا خرج من قبره صور له عمله في صورة سيئة وبشارة سيئة فيقول من انت فوالله اني لأراك امراً السوء فيقول له أنا عملك فينطلق به حتى يدخل النار

سامنے آئے گا یہ کہے گا تو کون ہے؟ خدا کی قسم میں تو آپ کو سچا آدمی سمجھتا ہوں وہ کہے گا میں تیرا عمل ہوں۔ تو وہ عمل اس کے لئے نور اور جنت میں پہنچانے والا ہو گا۔

اور کافر جب اپنے قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل بری صورت اور بد خبری میں اس کے سامنے آئے گا وہ کہے گا تو کون ہے؟ خدا کی قسم میں مجھے برا آدمی سمجھتا ہوں۔ وہ کہے گا میں تیرا عمل ہوں۔ اس کو لیکر چلے گا یہاں تک کہ جہنم میں داخل کرا دے گا۔ مجاہد رضی اللہ عنہ نے بھی اس طرح نقل کیا ہے ابن جریج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نیک آدمی کے عمل کو خوبصورت اور خوشبودار شکل دی جائے گی جو اس کا دل بہلائے گا اور اس کو ہر خیر کی بشارت دے گا مردہ اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ جواب دے گا میں تیرا نیک عمل ہوں پھر وہ روشنی بنکر اس کے آگے چلے گا یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کرا دے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ کے ارشاد (ہمہمہمہم ربہم بآء یمانہم) ہدایت کرے گا ان کو رب ان کا ان کے ایمان سے) اور کافر کے عمل کو بد شکل اور بدبودار صورت دی جائے گی وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا یہاں تک کہ اس کو جہنم

میں داخل کرا دے گا۔ عبد اللہ بن مبارک
 ﷺ فرماتے ہیں کہ حسن ﷺ نے یہ آیت
 ذکر فرمائی۔

و ما نحن بميتين الاموتتنا الاولى و ما نحن
 بمعذبين (صافات ۵۹) اور ہم کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔

فرمایا کہ وہ جان چکے تھے کہ تمام نعمتوں کے بعد موت آنی ہے جو ان سب کو ختم کر
 دے گی تو انہوں نے کیا اب ہم کو مرنا نہیں مگر جو پہلی بار مر چکے اور ہم کو تکلیف نہیں پہنچنے کی
 کہا گیا نہیں تو کہا بیشک ہی بڑی کامیابی ہے یزید رقاشی ﷺ نے اس میں یہ بھی اضافہ کیا کہ انہوں
 نے فرمایا کہ اہل جنت موت سے بے خوف ہو جائیں گے تو ان کی زندگی خوشگوار ہوگی اور
 بیماریوں سے محفوظ رہیں گے تو ہم ان کو اللہ کے جوار رحمت میں طول قیام کی مبارک باد دیتے
 ہیں یہ کہہ رونے لگے حتیٰ کہ ڈاڑھی تر ہوگی۔

فصل ۱۱

جنت میں ذکر کے علاوہ تمام عبادات ختم

جابر بن عبد اللہ ﷺ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے
 لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے اور نہ ناک سکیں گے اور نہ پیشاب اور پاخانہ کریں گے اور کھانا
 (اس طرح ہضم ہوگا) ایک ڈکار ہوگی اور شک کی طرح خوشبودار پسینہ آئے گا (بس ڈکار اور
 پسینہ سے کھانا تحلیل ہو جائے گا) اور ان کو تسبیح اور تمجید (یعنی سبحان اللہ اور الحمد للہ) کا ایسا
 الہام ہوگا جیسے سانس کا الہام ہوتا ہے۔

فصل ۱۲

اہل جنت دنیا میں ہونے والے واقعات کا آپس میں تذکرہ کریں گے
 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون . پھر منہ کیا ایک نے دوسرے کی طرف پوچھنے
قال قائلٌ منهم انى كان لي فرينٌ والا ايك بولنے والا ان میں میرا تھا ایک
(صافات ۵۰) ساتھی۔

اس پر بحث گزر چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون اور منہ کیا بعض نے دوسروں کی طرف آپس
قالوا ان كنا في اهلنا مشفقين فمن الله میں پوچھتے ہوئے بولے ہم بھی تھے اس سے
علينا ووقنا عذاب السموم (البقرة پہلے اپنے گھروں میں ڈر رہتے۔ پھر احسان کیا
اطور ۲۵-۲۷) اگر نے اللہ نے ہم پر اور کہا دیا ہم کو لوکی
عذاب سے۔

ابن ابی الدنیا نے ربیع ابن صبیح سے اور انہوں نے حسن اور اس نے انس رضی اللہ عنہ سے
مرفوعاً نقل کیا ہے کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو بعض کو بعض دوستوں کی
علامات کی خواہش پیدا ہوگی تو دونوں کی مسریاں ایک دوسرے کے پاس چل کر آئیں گی یہاں
تک اکٹھے ہو جائیں گے اور دونوں اپنی اپنی مسریوں پر تکیہ لگا کر بیٹھ جائیں گے ایک ساتھی
دوسرے سے پوچھے گا آپ کو معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے کب ہماری بخشش فرمائی؟ وہ کہے گا ہاں
فلاں فلاں ان ہم فلاں جگہ تھے وہاں ہم نے اللہ سے دعا مانگی تو اس نے ہماری مغفرت فرمادی تو
جب دنیا کے بارے میں وہ مذاکرہ کر سکتے ہیں تو پھر علماء تو دنیا والے علم کے مشکل مسائل اور فہم
قرآن اور احادیث کی صحت پر ضرور بحث کریں گے۔ کیونکہ جب اس میں دنیا میں مذاکرہ اور
مباحثہ کرنا کھانے پینے اور جماع سے بڑھ کر لذیذ ہے تو پھر جنت میں تو اس میں سب سے زیادہ
لذت ہوگی اور یہ ایسی لذت ہوگی جو اہل علم کے ساتھ مخصوص ہوگی اور اس میں علماء کرام
دوسرے جنتیوں سے ممتاز رہیں گے۔



سترہواں باب

ان لوگوں کا بیان جو بشارت جنت کے مستحق ہیں

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات
ان لهم جنت تجري من تحتها الانهر
كلما رزقوا منها لعل (سورة البقرة ۲۵)

اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے کہ ان کے واسطے باغ ہیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔

الا ان اولياء الله لا خوف عليهم
ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا
يتقون لهم البشري في الحياة الدنيا
وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله
ذلك هو الفوز العظيم. (سورة يونس
۶۲-۶۴)

یاد رکھو جو اللہ کے دوست ہیں نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے جو لوگ کہ ایمان لائے اور ڈرتے رہیں ان کے لئے خوشخبری دنیا کی زندگانی ہیں اور آخرت میں بدلتی نہیں اللہ کی باتیں نہیں بڑی کامیابی۔

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
تتنزل عليهم الملائكة الاتخافوا ولا
تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم
توعدون. (سورة حم السجده ۳۰)

تحقیق جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے پھر اسی پر قائم ہے ان پر اترتے ہیں فرشتے کہ تم مت ڈرو اور نہ غم کھاؤ اور خوشخبری سنو اس بہشت کی جس کا تم سے وعدہ تھا۔

سو تو خوشی سادے میرے بندوں کو تو سنتے
فبشر عباد الذين يستمعون القول
فيتبعون أحسنه اولئك الذين هداهم
الله واولئك هم اولوالالباب. (سورة
ہیں بات پھر چلتے ہیں اس پر جو اس میں نیک ہے وہی ہیں جن کو راستہ دیا اللہ نے اور وہی
ہم اولوالالباب. (سورة ہیں عقل والے۔

والذین آمنوا وهاجروا وجاهدا فی جوایمان لائے اور گھر چھوڑ آئے اور لڑے
سبیل اللہ بأموالہم وانفسہم اعظم اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے ان
درجۃ عند اللہ واولئک ہم الفائزون۔ کے لئے بڑا درجہ ہے اللہ کے ہاں اور وہی
ییشرہم ربہم برحمة منه ورضوان مراد کو پہنچنے والے ہیں خوشخبری دیتا ہے ان
وجنت کلم فیہا نعیم مقیم۔ خالذین کو پروردگار ان کا اپنی طرف سے مہربانی کی
فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم اور رضامندی کی اور باغوں کی کہ جن میں
(سورۃ التوبہ ۲۰-۲۲)

والذین آمنوا و عملوا الصالحات فی
روضات الجنۃ لهم ما یشاءون عند ربہم
ذالک هو الفضل الکبیر ذالک الذی
ییشروا للہ عبادہ الذین آمنوا و عملوا
لصالحات (سورۃ الشوری ۱۰۳)

انما تنذر من اتبع الذکر و خشی
الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرة و اجر
کریم (سورۃ یس ۱۱)

تو تو ڈر سائے اس کو جو چلے سمجھائے
خوشخبری اے معافی کی اور عزت کے ثواب کی۔

ان کو آرام ہے ہمیشہ کارہا کریں ان میں مدام
بیشک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔

اور جو لوگ یقین لائے اور بھلے کام کئے
باغوں میں ہیں جنت کے ان کے لئے ہیں جو
وہ چاہیں اپنے رب کے پاس یہی ہے بڑی
بزرگی یہ ہے جو خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے
ایمان دار بندوں کو جو کرتے ہیں بھلے کام۔

پر اور ڈرے رحمن سے بن دیکھے سو اس کو
اے نبی ہم نے تجھ کو بھیجا بتانے والا اور
خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور
بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے اور
چمکتا ہوا چراغ اور خوشخبری سنادے ایمان
والوں کو کہ ان کے لئے ہے خدا کی طرف
سے بڑی بزرگی۔

یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہداً و مبشراً
ونذیراً و داعیاً الی اللہ باذنہ و سراجاً
منیراً و بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ
فضلاً کبیراً۔
(سورۃ الاحزاب ۴۵-۴۷)

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ .
فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ وَإِنَّ
اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ .
(سورة آل عمران ۱۶-۱۷)

اور تو نے سمجھ ان لوگوں کو مارے گئے اللہ کی
راہ میں مردے بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب
کے پاس کھاتے پیتے خوشی کرتے ہیں اس پر
جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے اور خوش
وقت ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ابھی
تک نہیں پہنچے ان کے پاس ان کے پیچھے سے
اس واسطے کہ نہ ڈر ہے ان کو اور نہ غم خوش
وقت ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے
اور اس بات سے کہ اللہ ضائع نہیں کرتا
مزدوری ایمان والوں کی۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ . وَعَدَا حَقًّا
فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى
بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي
بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .
(سورة التوبة ۱۱۱)

اللہ نے خرید لی مسلمانوں سے ان کی جان اور
ان کا مال اس قیمت پر کہ ان کے لئے جنت
ہے۔ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں پھر مارتے
ہیں مرتے ہیں وعدہ ہو چکا اس کے ذمہ پر سچا
توریت اور انجیل اور قرآن میں اور کون ہے
قول کا پورا اللہ سے زیادہ سو خوشیاں کرو
اس معاملے پر جو تم کیا ہے اس سے اور یہی
کامیابی۔

وَلَنبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ
وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا
لِللَّهِ وَأَنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ .

اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو اور تھوڑے
سے ڈر سے اور بھوک اور نقصان سے مالوں
اور جانوں کے اور جانوں کے اور میوؤں کے اور
خوشخبری ان صبر کرنے والوں کو کہ جب

بَلِّغْهُ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ . اَوْلٰئِكَ عَلَيْهِمْ
 صَلٰوٰةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ اَوْلٰئِكَ هُمُ
 الْمُهْتَدُوْنَ (سورة البقرة ۱۵۵) والے ہیں ایسے ہی لوگوں پر عنایتیں ہیں اپنے
 رب کو اور مہربانی اور وہی ہیں سیدھی راہ
 پر۔

اٰخِرِيْ تَحْبُوْنَهَا نَصْرٌ مِّنْ اللّٰهِ وَفَتْحٌ
 قَرِيْبٌ وَبَشْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ (سورة الصف
 ۱۱)

اور ایک اور چیز دے جس کو تم چاہتے ہو اللہ
 تعالیٰ کی طرف ہے اور فتح جلدی۔

جنت کے متعلق ارشاد ہے (اَعَدتْ لِلْمُتَّقِيْنَ) (تیار ہوئی ہے پرہیز گاروں کے
 واسطے)

(اَعَدتْ لِلْمُذِيْبِيْنَ اَسْمًا بِاللّٰهِ وَرِسَالَةً) (تیار ہوئی ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے اللہ
 اور اس کے رسول پر)

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
 كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نَزْلًا .
 (سورة الكهف ۱۰۷)

جو لوگ ایمان لائے ہیں اور کئے ہیں بھلے کام
 ان کے واسطے ہے ٹھنڈی چھانوں کے باغ
 مہانی۔

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ . الَّذِيْنَ هُمْ
 صَلٰوٰتُهُمْ خَاشِعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ
 اللّٰغُوْا مُعْرِضُوْنَ . وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزّٰكٰوَةِ
 فَاَعْلُوْنَ . وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ
 حَافِظُوْنَ . اِلٰی قَوْلِهِ اَوْلٰئِكَ هُمُ
 الْوَارِثُوْنَ . الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ
 فِيْهَا خَالِدُوْنَ (سورة المؤمنون ۱۰۷)

کام نکال لے گئے ایمان والے جو اپنی نماز میں
 جھکنے والے ہیں اور جو نکلی بات پر دھیان
 نہیں کرتے اور جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں اور جو
 اپنی شہوت کی جگہ کو تھامتے ہیں مگر اپنی
 عورتوں پر یا اپنے ہاتھ کے مال باندیوں پر سو
 ان پر کچھ الزام نہیں پھر جو کوئی ڈھونڈے
 اس کے سوا سو وہی ہیں اپنی امانتوں سے اور
 اپنے اقرار سے خبردار ہیں جو اپنی نمازوں کی

خبر رکھتے ہیں وہی ہیں میراث لینے والے جو
میراث پائیں گے باغ ٹھنڈی چھاؤں کے وہ
اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔

مسند وغیرہ میں نبی کریم ﷺ کا ارشاد مذکور ہے آپ ﷺ نے فرمایا مجھ پر دس آیتیں
نازل ہوئیں جو اس کو قائم کرے گا تو جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ ﷺ نے سورۃ مومنون
ابتدائی دس آیتیں اور سورۃ احزاب کی آیت (ان المسلمین والمسلمات) آخر تک اور
سورۃ توبہ کی آیت (التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون
الساجدون الناسرون بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ
و بشر المؤمنین) اور سورۃ مریم کی آیت (تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان
كاتفيا) تلاوت فرمائی۔

اور دوڑو بخشش کی طرف اپنے رب کی اور
جنت کی طرف جس کا عرض ہے آسمان اور
زمین تیار ہوئی ہے واسطے پرہیزگاروں کے
ترجیح لئے جاتے ہیں خوشی میں اور تکلیف
میں اور دبا لیتے ہیں غصہ اور معاف کرتے
ہیں لوگوں کو اور اللہ چاہتا ہے نیکی کرنے
والوں کو اور وہ لوگ جو کر بیٹھیں کچھ کھلا
گناہ یا برا کام کریں اپنے حق میں تو یاد کریں
اللہ کو اور بخشش مانگیں اپنے گناہوں کی اور
کون ہے گناہ بخشنے والا سوا اللہ کے اور اڑتے
نہیں اپنے کئے پر اور وہ جانتے ہیں انہی کی جزا
ہے بخشش ان کے رب کی اور باغ جن کے
نیچے سریں بہتی ہیں ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ

وسارعو الی مغفرة من ربکم وجنة
ترضها السموت والأرض اعدت
للمتقين. الذین ینفقون فی السراء
والضراء والکاظمین الغیظ والعافین
عن الناس واللہ یحب المحسنین. والذین
اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا انفسهم
ذکر و اللہ فاستغفروا الذنوبهم ومن
ینفر الذنوب الا اللہ ولم یصر و اعلمی ما
فعلوا وهم یعلمون. أولئک جزأهم
مغفرة من ربهم وجنات تجری من
تحتها الانہر خالدين فیها ونعم اجر
العاملین.

(سورۃ آل عمران ۱۳۳، ۱۳۶)

ان باغوں میں اور کیا خوب مزدوری ہے کام کرنے والوں کی۔

اے ایمان والو میں بتلاؤں تم کو ایسی سوداگری جو بچائے تم کو ایک دردناک عذاب سے۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور لڑو اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنی جان سے یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُجْنِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ. تَوَمَّنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (سورة الصف ۱۰ - ۱۱)

ولمن خاف مقام ربه جنان

(اور جو کوئی ڈرا کھڑے ہونے سے اپنے رب) کے آگے اس کے لئے وہ دو باغ۔

اور جو کوئی ڈرا ہو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور روکا ہو اس نے جی کو خواہش سے سو بہشت ہی اسکا ٹھکانا ہے۔

و اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن النهوى فان الجنة هي الماوى. (الدارعات)

اس طرح کی آیتیں قرآن کریم میں بہت ساری ہیں۔ لیکن سب کا مدار تین چیزوں پر ہے (۱) ایمان (۲) تقویٰ (۳) سنت کے مطابق خالص عمل، تمام مخلوق میں ان تین صفات کے حامل لوگ مذکورہ بشارتوں کا مستحق ہیں اور تمام بشارات قرآنی انہیں کے گرد گھومتے ہیں اور یہ دو چیزوں میں آکر جمع ہو جاتے ہیں (۱) اللہ کی اطاعت میں اخلاص (۲) اس کی مخلوق کے ساتھ احسان اور اس کے مخالف صفات ان لوگوں میں آتی ہیں جو ریا کار ہیں اور فربتنے کی چیز منع کرتے ہیں اور پھر یہ دو ایک خصلت میں آکر جمع ہو جاتے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کے پسندیدہ کاموں میں موافقت ہے اور یہ ظاہر اور باطنی کریم کے تابعداری کے بغیر ناممکن ہے اور اس کے بغیر اس کا کوئی راستہ نہیں۔ اعمال تو اس اصل کی تقاضا ہیں جس کے سترے کچھ اوپر تک درجے ہیں سب سے اونچا درجہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے اور سب سے

ادنیٰ درجہ راستے سے تکلیف وہ چیز کا ہٹانا ہے اور باقی سب شعبے ان دو شعبوں کے درمیان میں آتے ہیں جن کا مجموعہ ان تمام چیزوں میں رسول اللہ ﷺ کی تصدیق ہے جس کی آپ ﷺ نے خبر دی ہے اور ان تمام چیزوں میں آپ ﷺ کی اطاعت ہے جس کا حکم آپ نے ایجا بادی ہو یا استعجاباً۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور افعال پر بغیر تحریف اور تعطیل اور کیفیت بیان کرنے اور تمثیل کے ایمان لانا ہے۔ جیسے کہ امام شافعیؒ نے فرمایا تمام تعریفیں اس ذات کے لئے ہیں جس سے اس نے اپنی تعریف فرمائی ہے اور آپ اپنے مخلوق کے تعریف سے بالاتر ہیں شاید امام شافعیؒ کے اس قول کا ماخذ رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد ہو۔

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي نَقُولُ وَخَيْرٌ أَسْمَانَقُولُ.

اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لئے ہیں جو ہم کرتے ہیں اور اس سے بہتر جو ہم کرتے ہیں۔

اور ہم کتاب کے ابتداء میں اہل سنت کے تمام مقالات اور مجمع علیہ احادیث ذکر کر چکے ہیں جو امام اشعریؒ نے ان سے نقل کیا ہے اب ہم بلفظہ امام احمدؒ کے نقل کے مطابق اہل سنت کا اجماع نقل کرتے ہیں چنانچہ انہوں نے اپنے مشہور مسائل میں ذکر کیا ہے کہ یہ اہل علم اور اصحاب اثر اور اہل سنت کے مذاہب ہیں جو نبی کریم ﷺ کے صحابہ سے آج ہم چلے آ رہے ہیں اور میں نے شام اور عراق اور حجاز کے علماء کو اسی پر پایا ہیں جو شخص ان مذاہب میں سے کسی چیز کی مخالفت کرے یا اس میں طعن کرے یا اس کے قائل پر عیب لگائے تو وہ شخص مخالف متبدع اور جماعت سے خارج ہے اور سنت اور حق کے راستے سے بھٹک گیا ہے۔

فرمایا کہ احمد اسحاق بن ابراہیم عبداللہ بن معلماء اور عبداللہ بن زبیر الحمیدی اور سعید بن منصور وغیرہ جن حضرات سے ہم نے بیٹھ کر علم حاصل کیا مذہب یہ ہے کہ ایمان قول اور عمل اور نیت اور تمسک بالسننہ کا نام ہے ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے ایمان سے استثناء کرنا صحیح ہے الا یہ کہ وہ بطور شک کے نہ ہو کیونکہ علماء کے ہاں ایک گذشتہ سنت چلی آرہی تھی کہ جب کسی آدمی سے پوچھا جاتا آپ مومن ہے؟ تو وہ جواب دیتا ان شاء اللہ میں مومن ہوں۔ یا یوں کہتا مجھے ایمان کی امید ہے اور کہتا "منت باللہ ولما نکتہ وکتبہ ورسلہ"۔

جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ ایمان عمل کو چھوڑ کر صرف قول کا نام ہے تو یہ شخص مرجی ہے اور جس کا یہ عقیدہ ہو کہ ایمان قول ہے اور اعمال شرايع ہیں تو وہ بھی مرجی ہے اور جو یہ ہے کہ اس کا ایمان جبرئیل اور ملائکہ کی ایمان کی طرح ہے تو وہ بھی مرجی ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے گھٹتا نہیں تو اس نے بھی مرجبہ کی بات کہی اور جو ایمان میں استغناء کو تبدیل کر دے تو وہ مرجی ہے اور جو یہ کہے کہ معرفت دل میں ہوتی ہے اگرچہ اس کا ظہار نہ کیا جائے مرجی ہے۔ شر اور خیر اس کی کمی اور زیادتی اس کا ظاہر اور باطن کڑوا اور میٹھا، پسندیدہ اور ناپسندیدہ، نیکی اور بدی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کے فیصلے سے اس کے بندوں پر آتی ہیں کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی مشیت اور فیصلے سے تجاوز نہیں کر سکتا۔

بلکہ سب کے سب کار حجان اس چیز کی طرف ہوتا ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہوتا ہے اور یہ اپنی تقدیر میں پڑ جاتے ہیں اور یہ اللہ عزوجل کی جانب سے انصاف ہے چوری اور زنا، شراب، قتل، حرام مال کھانا، شرک۔ یہ سارے گناہ اللہ کی قضا سے ہوتے ہیں بغیر اس کے کہ اس کی مخلوق میں سے کسی ایک کے لئے اس پر حجت بنے بلکہ اللہ ہی کے لئے حجت بالغہ ہے اپنی مخلوق پر ”وہ جو کچھ کرتے ہیں اس سے نہیں پوچھا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا“ اپنی مخلوق کے بارے میں اللہ کو اپنی مشیت کا پہلے سے علم حاصل ہے ابلیس کی نافرمانی اور اس طرح قیامت تک اللہ کی نافرمانی کرنے والے اور جس کے لئے ان کو پیدا کیا سب اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا۔ اور اطاعت گزاروں کی اطاعت اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھی پس ہر شخص وہی عمل کرتا ہے جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا اور اس کار حجان اس طرف ہوتا ہے جس کا فیصلہ اس کے لئے ہوتا ہے ان میں سے ایک بھی اللہ تعالیٰ کی تدوین سے تجاوز نہیں کر سکتا اللہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے نافرمان اور متکبر بندوں کے لئے بھلائی اور طاعت متعدد کی تھی لیکن انہوں نے اپنے لئے اپنی اختیار سے شر اور معصیت کا انتخاب کیا اور اپنی مشیت پر عمل پیرا ہوئے تو اس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ بندوں کی مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت سے زیادہ غالب ہے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پر کونسا بہتان باندھا جاسکتا ہے؟ اور جو یہ کہے کہ زنا تقدیر سے نہیں ہوتا ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ بتا یہ عورت جو زنا سے

حاملہ ہوئی اور بچہ جنا تو کیا اس بچے کی تخلیق اللہ کی مشیت سے ہوئی؟ اور اللہ کو پہلے سے یہ معلوم تھا؟ پھر اگر وہ کہے کہ نہیں تو اس نے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے خالق کا دعویٰ کیا اور صراحتاً مشرک ہے! اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ چوری اور شراب نوشی اور حرام مال کھانا اور اللہ کے قدر و قضاء سے نہیں ہے تو اس نے گویا یہ دعویٰ کیا کہ انسان دوسرے کے رزق کھانے پر قادر ہے اور یہ صراحتاً الجھوسیت ہے! بلکہ اس شخص نے تو وہ روزی کھائی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے مقرر کی تھی خواہ جس طرح کھایا اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ قتل اللہ کے فیصلے سے نہیں ہوتا تو گویا اس نے یہ دعویٰ کیا کہ مقتول اپنی اجل کے بغیر مرا اور اس سے زیادہ واضح کفر اور کیا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتا ہے اور یہ اس کا اپنی مخلوق میں عدل اور تدبیر ہے اور ان کے بارے میں علم ازلی کے فیصلے ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے علم کا اقرار کرتا ہے تو اس کو قدر و شہادت کا اقرار بھی کرنا پڑے گا۔ اور ہم اہل قبلہ پر یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ وہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے جہنم میں ہیں الا یہ کہ اس بارے میں کوئی حدیث ہو اور ہم کسی کے حق میں یہ فیصلہ بھی نہیں کرتے کہ وہ اپنے نیک عمل کی وجہ سے جنت میں ہیں الا یہ کہ اس بارے میں کوئی حدیث ہو۔ خلافت قریش میں رہے گی جب تک لوگوں میں دو آدمی بھی باقی ہوں اور لوگوں میں سے کسی ایک کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس معاملے میں ان سے لڑے اور ہم ان کی بغاوت نہیں کریں گے اور نہ قیامت تک غیر کے لئے خلافت کا اقرار کریں گے اور جہاد ائمہ کی نمائندگی میں جاری رہے گی خواہ وہ نیک ہو یا فاجر ہو ”جہاد کو کسی ظالم کا ظلم اور کسی عادل کا عدل باطل نہیں کر سکتا“ جمعہ اور عیدین اور حج سلطان کی معیت میں ہوں گی اگرچہ وہ نیک عادل اور پرہیزگار نہ ہو، صدقات، نیکیں اور عشر اور مال غنیمت ان کو دی جائے گی خواہ وہ عدل کرے یا ظلم کرے۔ اور جس کو اللہ پاک نے تمہارا امیر بنایا ہو اس کی تابعداری کرو اور اس کی اطاعت دست بردار مت ہو اور نہ تلوار لیکر اس کی بغاوت کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تیرے لئے کوئی راستہ کھول دے۔ اور امیر کی بغاوت مت کر سمع و اطاعت سے کام لے اور اس کی بیعت کو مت توڑ۔ جو شخص ان کاموں میں سے کسی کا ارتکاب کرے گا تو وہ جماعت سے الگ مخالف اور بدعتی ہے۔ اگر امیر آپ کو ایسی بات کا حکم کرے جس

میں اللہ کی نافرمانی ہو تو آپ کے لئے ہرگز اس کی اطاعت جائز نہیں لیکن آپ کے لئے بغاوت بھی جائز نہیں اور فتنے میں رکنا ایک گذشتہ سنت ہے جس کا احترام واجب ہے اگر آپ فتنے میں مبتلا ہو جائیں تو دین کے بجائے اپنی جان کی قربانی دے اور نہ اپنے ہاتھ اور زبان سے فتنے کے بارے میں کسی پر لعن طعن کرے۔ بلکہ اپنی زبان، ہاتھ اور خواہشات کے روکے رکھے۔ اللہ ہی مددگار ہے۔ اہل قبلہ سے رک جان کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر بنائے اور نہ کسی عمل کی وجہ سے ان کو اسلام سے خارج کریں الا یہ کہ اس میں کوئی حدیث وارد ہو۔ مثلاً ترک صلوٰۃ اور شرب خمر کو حلال سمجھنے والے کافر اور یا کوئی ایسی بدعت ہو کہ اس کا کرنے والا کافر اور خارج از اسلام ہوتا ہے پس ان باتوں کا اتباع کرے اور اس سے تجاوز نہ کرے، کانے دجال کے خروج میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، عذاب قبر حق ہے بندے سے اس کے دین اور اس کے رب اور جنت و دوزخ کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ منکر نکیر حق ہیں یہ دونوں قبر کی آزمائش ہیں۔ ہم اس میں اللہ سے ثبات قدمی چاہتے ہیں۔ محمد ﷺ کا حوض حق ہے آپ ﷺ کی امت اس پر آکر اس کے برتنوں میں پانی پیئیں گے۔ پل صراط حق ہے جہنم پر بچھایا جائے گا۔ اس پر لوگوں کا گذر ہو گا جنت کے اس کے پرے ہے۔ میزان حق ہے جس سے نیکیوں اور برائیوں کو جس طرح اللہ چاہیں گے تو لیں گے۔ صور حق ہے حضرت اسرافیل ﷺ اس میں پھونکیں گے جس سے تمام مخلوق مرجائیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ اس میں پھونکیں گے تو تمام مخلوق رب العالمین کے سامنے حساب اور ثواب و عقاب جنت اور جہنم میں جانے کے فیصلے کے لئے کھڑی ہو جائیں گے اور لوح محفوظ سے بندوں کے اعمال ظاہر کئے جائیں گے جس کی طرف تقدیر اور قضاء نے سبقت کی ہے۔ قلم حق ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کی مقادیر پر نوشتہ تقدیر لاکھے ہیں اور بروز قیامت شفاعت حق ہے۔ ایک قوم دوسری قوم کی شفاعت کرے گی جس سے وہ جہنم سے بچ جائے گی۔ اور ایک قوم کو جہنم میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد نکالا جائے گا اور ایک قوم اس میں ہمیشہ رہے گی وہ اہل شریک اور اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والے اور اس کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ بروز قیامت جنت اور دوزخ کے درمیان موت کو ذبح کیا جائے گا۔ جنت اور اس کی اندر کی چیزیں جہنم اور اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی گئی ہیں اور دونوں کے

لئے اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے۔ نہ یہ خود فنا ہوں گی اور نہ اس کی اندر والی چیزیں فنا ہوں گی۔ اگر کوئی متبدع یا زندیق ان کے فنایت پر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے استدلال کرے۔
 كل شىء هالك الا وجهه (سورۃ القصص) ہر چیز فنا ہے مگر اس کی ذات اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھیر جاؤ گے۔ (۸۸)

یا اس کے علاوہ دیگر قرآنی مشابہات سے استدلال کرے؟ تو اس کو جواب میں کہا جائے گا کہ جن چیزوں کی ہلاکت اور فنایت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی وہ فنا ہوں گی جنت اور جہنم کو تو اللہ تعالیٰ نے بقاء کے لئے پیدا فرمایا ہے۔ فنا کے لئے پیدا نہیں فرمایا اور یہ دونوں آخرت کی چیزیں ہیں دنیا کی نہیں اور حور عین نہ قیامت قائم ہوتے وقت مریں گی اور نہ صور پھونکتے وقت اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بقاء کے لئے پیدا فرمایا ہے۔ فنا کے لئے نہیں اور نہ ان کے لئے موت لکھی ہے۔ جو اس کے خلاف کہے تو وہ متبدع اور سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اوپر سات آسمان اور ایک دوسرے سے نیچے سات زمینیں پیدا فرمائی ہیں اوپر والی زمین اور آسمان دنیا کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے پھر ہر دو آسمان کے درمیان اتنی ہی مسافت ہے۔ پانی اوپر والے سب سے اونچے ساتویں آسمان پر ہے اور رحمان کا عرش پانی پر ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں اور کرسی اس کے قدموں کے پاس ہے اور وہ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو ثریٰ کے نیچے ہے جو سمندر کی گھرائی میں ہے اور ہر درخت اور ہر بال اور ہر کھیتی اور تمام نباتات کے اگنے کی جگہ اور ہر پتے کے گرنے کی جگہ اور پہاڑوں اور چٹانوں اور مٹی کنکریوں اور ریت اور کلموں کی تعداد تک جو جانتے ہیں۔ بندوں کے اعمال اور ان کے اثرات اور ان کی باتوں اور سانسوں تک کو جانتے ہیں کوئی چیز اس پر مخفی نہیں وہ ساتویں آسمان کے اوپر عرش ہیں اور اس کے آگے آگ اور نور اور ظلمت اور ان چیزوں کے پردے ہوں گے جن کو وہ ہی جانتے ہیں اگر کوئی متبدع یا مخالف اللہ تعالیٰ کو ذیل ارشادات سے استدلال کرے
 ونحن اقرب الیہ من جبل الوریث۔ (سورۃ ق) اور اس سے نزدیک ہیں ڈھڑکتی رگ سے زیادہ۔ (۱۶)

مايكون من نحوى ثلثة الا هو رابعهم
 ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى
 من ذلك ولا اكثر الا هو معهم أين
 ما كانوا. (سورة المجادلة ۷)

کیس نہیں ہوتا مشورہ تین کا جہاں وہ نہیں
 ہوتا ان میں سے چوتھا اور نہ پانچ کا جہاں وہ
 نہیں ہوتا ان میں چھٹا اور نہ اس سے کم اور نہ
 زیادہ جہاں وہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ جہاں
 کیس ہو۔

اور اس جیسی دوسری تشابہات سے استدلال کر بیٹھے۔ تو آپ جواب میں کہہ دے
 اس سے اللہ تعالیٰ کا علم مراد ہے کہ وہ ساتویں آسمان میں عرش کے اوپر ہیں اور پھر بھی یہ سب
 کچھ جانتے ہیں۔ وہ اپنے مخلوق سے الگ ہیں۔ اس کے علم سے کوئی جگہ خالی نہیں اللہ تعالیٰ کا
 عرش ہے اور اس کے اٹھانے والے فرشتے ہیں جو اس کو اٹھائے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرش پر
 قائم ہیں اور اس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے سننے والے ہیں جس کو کبھی شک نہیں ہوتا اور
 ایسے دیکھنے والے ہیں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ علم والے ہیں اس پر جمل نہیں
 آتا۔ سخی ہیں جس کے ہاں بخل نہیں ہوتے۔ حلیم ہیں جلدی نہیں فرماتے۔ حفیظ ہیں نہ بھولتا ہے
 اور نہ ان پر سو ہوتا ہے۔ قریب ہیں غافل نہیں ہوتا۔ بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھیلاتے
 ہیں، ہنستے ہیں، اور خوش ہوتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور ناپسند کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں،
 راضی ہوتے ہیں، غصے ہوتے ہیں، اور ناراض ہوتے ہیں رحم فرماتے ہیں اور درگزر کرتے
 ہیں، بخشش فرماتے ہیں، عطا فرماتے ہیں اور منع کرتے ہیں۔

وہ جیسے چاہتے ہیں ہر رات آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں۔ اس کے مثل کوئی چیز
 نہیں وہ سمیع اور بصیر ہیں۔ بندوں کے قلوب رحمن کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں جیسے چاہے
 ان کو پلٹ دے اور چاہے ان میں القاء فرمادے۔ آدم ﷺ کو اس کی صورت اپنے ہاتھ سے
 پیدا فرمایا۔ آسمان اور زمینیں قیامت کے دن اس کے ہتھیلی میں ہوں گے اور جہنم میں اپنی پنڈلی
 رکھیں گے اور ایک قوم کو اس سے اپنے ہاتھ سے نکالیں گے۔ اہل جنت اس کے روئے انور کا
 دیدار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزت افزائی فرمائیں گے۔ قیامت کے دن تمام لوگ اس کے
 سامنے پیش ہوں گے اور بذات خود ان سے حساب لیں گے۔ اس معاملے میں کوئی غیر اس کے

قریب نہیں ہو گا قرآن اللہ کا کلام وہ ہے اس کے ذریعہ بات کرتے ہیں مخلوق نہیں ہیں۔ جو شخص قرآن کو مخلوق کہے تو وہ جھمی ہے کافر ہے اور جو شخص قرآن کو کلام اللہ قرار دیکر اس میں توقف کرے اور یہ نہ کہے کہ قرآن مخلوق نہیں تو اس میں قول اول سے زیادہ خبث ہے اور جس کا یہ عقیدہ ہو کہ ہمارے الفاظ اور ہماری تلاوت مخلوق ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ شخص جھمی ہے اللہ تعالیٰ موسیٰ ﷺ سے ہم کلام ہوئے اور تورات اس کے ہاتھ پکڑا دی۔ اللہ عزوجل ہمیشہ متکلم ہیں خواب اللہ کی طرف سے اور حق ہوتا ہے۔ جب خواب دیکھنے والا اپنے خواب میں فاسد خیالات کے علاوہ صحیح چیزیں دیکھتا ہے اور پھر کسی عالم (فقہر) کا جاننے والے کے سامنے بیان کرتا ہے تو وہ اس کی صحیح تعبیر نکالتا ہے اور اس میں تحریف نہیں کرتا۔ تو اس وقت اس کی تعبیر حق ہوتی ہے اور وہ انبیاء علیہم السلام کا خواب وحی ہوتا ہے ایسا کونسا جاہل ہو گا جو خواب میں طعن کرے اور یہ کہے کہ خواب کچھ نہیں؟

اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جو لوگ خواب کو کچھ نہیں سمجھتے تو وہ احتلام سے غسل کے بھی قائل نہیں۔ حالانکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ مومن کا خواب ایک کلام ہے جس کے ذریعہ رب اپنے بندے بات کرتے ہیں اور مزید فرمایا کہ خواب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ نبی کریم ﷺ کی تمام اصحاب کے محاسن بیان کرنا اور انکے آپس کے مشاجرات کے بیان رکنا (ضروری ہے) جو نبی کریم ﷺ کے اصحاب برا بھلا کہے یا ان میں سے کسی ایک کو یا ان کی تنقیص کرے یا ان پر لعن طعن یا عیب جوئی کرے تو ایسا شخص متبدع، رافضی، خبیث اور مخالف ہے۔

بلکہ ان کی محبت سنت اور انکے لئے دعا قرب اور انکی اقتداء وسیلہ ہے اور ان آثار پر عمل کرنا فضیلت ہے۔ نبی کریم ﷺ کے بعد تمام امت سب بہتر حضرت ابو بکر ﷺ ہیں حضرت عمر ﷺ کا مرتبہ ابو بکر ﷺ کے بعد ہے اور حضرت عثمان ﷺ کا درجہ حضرت عمر ﷺ کے بعد ہے اور حضرت علی ﷺ کا درجہ حضرت عثمان ﷺ کے بعد ہے۔ یہ حضرات ہدایت یافتہ خلفاء راشدین ہیں۔ پھر ان چاروں کے بعد نبی کریم ﷺ کے تمام اصحاب تمام لوگوں سے بہتر ہیں۔ کسی کو ان کی برائیاں ذکر کرنے اور ان پر لعن طعن کرنے اور ان کی تنقیص اور عیب جوئی کا

حق حاصل نہیں۔ جو شخص اس طرح کرے تو بادشاہ پر اس شخص کو سبق سکھانا اور سزا دینا واجب ہے۔ اور بادشاہ کے لئے اس کو معاف کرنا مناسب نہیں بلکہ اس کو سزا دے اور توبہ کا مطالبہ کرے پھر اگر وہ توبہ کرے تو قبول کیا جائے توبہ نہ کرے تو اس کو دوبارہ سزا دیکر ہمیشہ کے لئے قید میں رکھے یہاں تک کہ مرجائے اور واپس لوٹ کر آئے اور ہم عربوں کے حق اور فضیلت اور سبقت اسلامی کا اقرار کرتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ کی حدیث بناء پر کہ ان کی محبت ایمان اور ان سے بغض نفاق ہے ہم شعوبیہ اور ان رذیلوں کی طرح نہیں کہتے جو عربوں سے محبت نہیں رکھتے اور نہ ان کی فضیلت کو مانتے ہیں کیونکہ ان کا قول بدعت ہے۔ حرام ذرائع اور تجارتوں کے ذریعہ مال کمال کمانا جہل اور مخالفت اور خطا ہے۔ بلکہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے حلال طریقوں سے کمایا ہوا مال حلال ہے۔ آدمی کے لئے مناسب ہے کہ وہ اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کے لئے اپنے رب کے فضل (مال) کمانے میں کوشش کرے۔ جو شخص مال کمانا جائز نہ سمجھے وہ مخالف ہے۔ دین، کتاب اللہ اور آثار و سنن اور ثقافت کی صحیح روایات کا نام ہے جن کا سلسلہ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین رحمہم اللہ اور تبع تابعین اور ان کے بعد ان ائمہ کرام تک پہنچتا ہے جو نہ بدعتی تھے اور نہ مطعون بالکذب، فرمایا کہ یہ وہ اقوال تھے جو اہل سنت والجماعت اور اصحاب روایات اور حاملین علم کا مذہب بیان کرتے ہیں جن سے ہم نے علم حاصل کیا اور سنت سیکھا یہ مشہور و معروف معتمد اور اہل صدق اور اہل امانت ائمہ تھے۔ جن کی اقتداء کی گئی اور ان سے علم حاصل کیا گیا۔ یہ ان لوگوں کا مذہب ہے جو قولاً عملاً اور اعتقاداً ان بشارات کے مستحق ہیں۔

فصل

ہم اس کتاب کو اس چیز پر ختم کرتے ہیں جس سے ہم نے
ابتداء کی تھی وہ اہل جنت کی دعا ہے

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے

ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات
 يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم
 الأنهار في جنت النعيم. دعواهم فيها
 سبحانك اللهم وتحتهم فيها سلامٌ
 وأخر دعواهم ان الحمد لله رب
 العالمين. (سورة يونس ۹-۱۰)

ہدایت کرے گا ان کو رب ان کا ان کے
 ایمان سے بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں باغوں
 میں آرام کے ان کی دعا اس جگہ یہ کہ پاک
 ذات ہے تیری یا اللہ اور ملاقات ان کی سلام
 اور خاتمہ ان کی دعا کا اس پر سب خوبی اللہ کو
 جو پروردگار سارے جہاں کا۔

جرتج عَلَيْهِ (دعواہم فیہا سبحانک اللہم) کے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اہل جنت کے
 سامنے ایک پرندہ گزرے گا تو ان کے دلوں میں اس کی چاہت پیدا ہوگی۔ تو یہ کہیں گے
 (سبحانک اللہم) یہی ان کی دعا ہوگی۔ چنانچہ فرشتہ ان کی چاہت کی چیز کے ساتھ سلام کر کے
 حاضر ہو گا اور وہ چیز ان کے حوالے کر دے گا اور اسی طرح (تحتہم فیہا سلام) کے بارے
 میں کہ جب یہ کھانا کھائیں گے تو اپنے رب کا شکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد (وآخر دعوانہم
 ان الحمد لله رب العالمین) سے یہی مراد ہے۔ حضرت قتادہ عَلَيْهِ (دعواہم فیہا سبحانک اللہم)
 کے بارے میں فرماتے ہیں یہ ان کی دعا ہوگی اور ان کی ملاقات سلام سے ہوگی۔ سفیان ثوری
عَلَيْهِ فرماتے ہیں کہ جنتی جب کسی چیز کے منگوانے کا ارادہ کریں گے تو کہیں گے (سبحانک
 اللہم) تو وہ چیز ان کو دی جائے گی اور اس جملے کا معنی اللہ تعالیٰ کے جلال اور تعظیم اور پاکی
 بیان کرنا ہے۔ موسیٰ بن طلحہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صَلَّى سے (سبحان اللہ) کے متعلق پوچھا
 گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک سمجھنا ہے۔

ابن الکواء نے اس کے بارے میں حضرت علی عَلَيْهِ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ ایسا
 کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لئے پسند فرماتے ہیں۔

طلحہ بن عبید اللہ عَلَيْهِ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صَلَّى سے (سبحان اللہ) کی تفسیر
 دریافت کی۔ آپ نے فرمایا کہ ”سبحان اللہ“ کا معنی ہر عیب سے اللہ تعالیٰ کو پاک اور منزہ بنانا
 ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی پہلی دعا بتا دی کہ جب وہ کوئی چیز طلب کریں گے تو
 ”سبحان اللہ“ کہیں گے اور ان کی آخری دعا بھی بتا دی کہ جب ان کا مقصود حاصل ہو گا تو

(الحمد لله رب العالمين) کہیں گے یہ آیات کا معنی اس سے عام ہے ”دعوئی“ دعاء کے مثل ہے دعا سے کبھی ثناء مقصود ہوتا ہے اور کبھی سوال۔ حدیث میں ہے کہ ”فضل دعا الحمد لله رب العالمين ہے۔“ اہل جنت کی دعا بطور ثناء ہوگی جس کا الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پہلی اور آخری دعا بتلا دی۔ پہلی دعا تسبیح ہوگی اور دوسری تحمید ہے۔ تسبیح و تحمید کا ان کو ایسا الہام ہوگا جیسا کہ سانس کا الہام ہوتا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ جنت میں ان سے تکلیف ساقط ہوگی اور ان الہامی دعاؤں کے علاوہ کوئی عبادت باقی نہیں رہے گی۔ اور لفظ (اللهم) میں دعا کی طرف صراحتاً اشارہ ہے۔ تو جس طرح یہ (یا اللہ) کے معنی کو متضمن ہے ایسے ہی سوال و ثناء کو متضمن ہے۔ یہ ان لوگوں کے کہا جنہوں نے یہ سمجھا کہ جنتی جب کسی چیز کی خواہش کریں گے تو سبحان اللہ کہیں گے تو انہوں نے حدیث کا بعض معنی ذکر کر کے کوتاہی کی اس لئے کہ ان کو یہ وہم ہوا کہ جنتی یہ کلمہ کسی چیز کی طلب کے وقت کہیں گے، حالانکہ آیت میں اس پر دلالت کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ بلکہ آیت تو اس پر دلالت کرتی ہے کہ ان کی پہلی دعا تسبیح (سبحان اللہ) ہوگی اور آخری دعا تحمید (الحمد لله) ہوگی اور حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان کو تسبیح و تحمید کا ایسا الہام ہوگا جیسا کہ سانس کا الہام ہوتا ہے چنانچہ مذکورہ دعا کے طلب چیز کے وقت کے ساتھ خاص نہیں ہوگی اور یہ توجیہ جس طرح معنی آیت کے مناسب نہیں ایسے ہی اہل جنت کے احوال کے بھی مناسب نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

اختتام ۱۹ / ذیقعدہ ۱۴۱۵ھ

بمطابق

۲۰ / اپریل بروز جمعرات ۱۹۹۵ھ

تمت بالخیر

میدان النور، سید محمد مجاہد

نور آباد، فتح گڑھ، سیالکوٹ

○○○

www.iqbalkalmati.blogspot.com

مطبوعات الکشاف پبلیکیشنز

۱. تفہیم مصطلح الحدیث — حضرت مولانا محمد نور بدخشان
۲. محافل جنت — حضرت مولانا محمد فاروق حسن زئی
۳. روز محشر کی تیاری — " " " " " "
۴. التیسیر شرح اردو و نحو میر " " " " " "
۵. توضیح الارشاد شرح ارشاد الصرف " " " " " "
۶. الصرف المیسر (عربی) زیر طبع " " " " " "
۷. علم الصیغہ (عربی) زیر طبع حضرت مولانا ولی خان المنظر
۸. الفقہ المیسر (اردو) زیر طبع حضرت مولانا محمد اعظم بختیار

ناشر

الکشاف پبلیکیشنز

دکان نمبر ۳، ۴، حاجی ادریس میٹن رتن تلاؤ، کراچی
فون : ۶۶۶۳۲۹۳ - ۶۹۰۷۱۶۰

حضرت مولانا محمد فاروق حسن زئی

کی مطبوعہ تصانیف

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| ترجمہ الاستعداد لیوم المعاد | (۱) روز محشر کی تیاری |
| شرح نحو میر | (۲) التیسیر |
| شرح اردو قوانین ارشاد و الصرف | (۳) توضیح الارشاد |
| ترجمہ حاوی الارواح الی بلاد الافراح | (۴) محافل جنت |
| تعریب و تسہیل نحو میر (عربی) | (۵) النحو الیسیر |
| مشکلات قرآن پر مستند کتاب | (۶) قرآنی بکھرے موتی |